

منظوم حقیقت کی حامل ایک مثال کتاب کی بار بار اور زبردستی اور حقیقت
فقہ حنفی
پراکھ سامع حوالہ جاتی کتاب

فقہ حنفی

قرآن و سنت کی روشنی میں

جلد سوم

الفقه الحنفی و ادلتہ

شیخ اسعد محمد سعید الصاغر جی
حفظہ اللہ تعالیٰ

اردو ترجمہ ترتیب تحقیق
لجنة المصنفین

جناب مولانا حفیظ الد محمود صاحب
جناب مفتی عبید العظیم ترمذی صاحب
جناب مولانا محمد سید انیس صاحب

ادارہ امیاب
لاہور - کراچی
پاکستان

MFN = 190616

منفرد خصوصیات کی حامل ایک بے مثال کتاب ہے بار بار دوزخ اور جہنم اور جنت اور جنتیں
فقہ حنفی
پراکھ جامع حوالہ جاتی کتاب

فقہ حنفی

قرآن و سنت کی روشنی میں

جلد سوم

الفقه الحنفی وادلته

شیخ اسعد محمد سعید الصاغر جی
حفظہ اللہ تعالیٰ

اردو ترجمہ ترتیب تحقیق
لجنة المصنفین

جناب مولانا حفص الد محمود صاحب
جناب مفتی عبد العظیم ترمذی صاحب
جناب مولانا محمد اسد دانش صاحب

ادارہ امیاتیات
لاہور۔ کراچی
پاکستان

297.321
155

جملہ حقوق محفوظ ہیں۔

©

ہندوستان میں جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ کسی فرد یا ادارے کو بلا اجازت اشاعت کی اجازت نہیں۔

141804
جلد ۲

نام کتاب

فقہ حنفی

قرآن و سنت کی روشنی میں

(جلد سوم)

اشاعت اول

جمادی الثانی ۱۴۲۹ھ بمطابق جون ۲۰۰۸ء

ترجمہ ترتیب تحقیق

لجنة المصنفين

جناب مولانا حفصہ محمود صاحب

جناب مفتی عبد العظیم ترمذی صاحب

جناب مولانا مستدانس صاحب

ادارة ایسیٹرز، بک سیلرز، ایکسپورٹرز
ایمٹیک

۱۴- دینا ناتھ مینشن، مال روڈ، لاہور فون ۳۷۳۳۳۳۲۲ فیکس ۳۷۳۳۳۳۲۲۸۵ +۹۲-۴۲-۳۷۳۳۳۳۲۲

۱۹۰- انارکلی، لاہور- پاکستان..... فون ۳۷۳۳۳۳۹۹۱-۳۷۳۳۳۳۵۵

موهن روڈ، چوک اردو بازار، کراچی- پاکستان..... فون ۳۷۳۳۳۳۰۱

ملنے کے پتے

ادارة المعارف، جامعہ دارالعلوم، کورنگی، کراچی نمبر ۱۴

مکتبہ دارالعلوم، جامعہ دارالعلوم، کورنگی، کراچی نمبر ۱۴

ادارة القرآن و العلوم الاسلامیہ، چوک سبیلہ، کراچی

دار الاشاعت، اردو بازار، کراچی نمبر ۱

بیت القرآن، اردو بازار، کراچی نمبر ۱

بیت العلوم، ناٹھ روڈ، لاہور

فہرست

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۲۸	استثنائی صورت	۱۳	﴿ کتاب ادب القاضی ﴾
۲۸	جھوٹی گواہی کی بنیاد پر فیصلے کا حکم	۱۴	قضاء کا حکم
۳۰	قرض سے انکار پر قید کرنے کا حکم	۱۶	طلب عہدہ پر وعید
	قاضی کا دوسرے علاقے کے قاضی کو		ظالم حکمران کی طرف سے عہدہ قضاء
۳۱	بذریعہ خط معلومات فراہم کرنا	۱۸	قبول کرنے کا حکم
۳۳	فیصل مقرر کرنے کا حکم	۱۹	کیا عورت قاضی بن سکتی ہے؟
۳۵	﴿ کتاب الشہادات ﴾	۱۹	قاضی کی تنخواہ کا حکم
۳۵	شہادت حجت ہے	۲۰	قاضی کی صفات
۳۵	گواہی دینے کا حکم	۲۱	غیر عالم کو عہدہ قضاء پر فائز کرنا
۳۷	حدود میں گواہی کا حکم	۲۲	قضاء کی مجلس
۳۷	واجب الحد شخص کو تلقین کرنا		عدالت میں پیش ہونیوالوں کیساتھ
۳۸	حدود میں عورتوں کی گواہی	۲۲	قاضی کا رویہ
۳۹	گواہی کی مراتب	۲۴	لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست
۳۹	(۱) زنا کے متعلق گواہی دینا	۲۵	کیا ایک قاضی دوسرے قاضی کے
	(۲) حدود قصاص کے متعلق گواہی		فیصلہ کو کالعدم قرار دے سکتا ہے؟
۳۹	دینا	۲۷	کن لوگوں کی گواہی پر فیصلہ نہیں دیا
	(۳) حدود قصاص کے علاوہ دیگر		جاسکتا؟
۴۰	حقوق میں گواہی دینا	۲۷	کیا قاضی اپنی ذاتی معلومات کی بنیاد
			پر فیصلہ کر سکتا ہے؟

۱۵۱۱ - ۱۵ - ۱۵

صیغہ جملہ

۱۵/۱۵/۱۵

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۶۱	حد بلوغ	۴۰	(۴) ولادت و بکارت اور عورتوں کے ان عیوب کے متعلق گواہی دینا جن پر عورتیں ہی مطلع ہو سکتی ہیں
۶۳	کیا بالغ بے وقوف پر تصرف کی پابندی لگائی جاسکتی ہے	۴۱	گواہی کے صحیح ہونے کی شرائط
۶۵	مفلس پر پابندی کا حکم	۴۲	کیا حاکم اور قاضی گواہوں کے عادل ہونے کے متعلق کچھ دریافت کر سکتا ہے
۶۶	مفلس کا خرچ	۴۳	گواہ بننا
۶۷	مفلس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟	۴۴	گواہی پر گواہی دینا
۶۷	کیا فاسق کے تصرفات پر پابندی لگائی جاسکتی ہے؟	۴۵	ایک شخص کی گواہی پر ایک کی گواہی
۶۸	فوت شدہ شخص یا مفلس کے پاس دوسرے کا سامان موجود ہو تو کیا حکم ہے؟	۴۵	گواہی پر گواہی دینے کے الفاظ
۶۹	﴿ کتاب الاقرار ﴾	۴۶	گواہوں کا تعارف مکمل کیسے ہوگا
۶۹	اقرار کی شرط	۴۶	گواہی کا دعویٰ کے مطابق اور مخالف ہونے کے اثرات
۷۰	کیا اقرار میں گواہ شرط ہے	۴۷	گواہوں پر جرح
۷۰	اقرار کی صورتیں	۴۷	جھوٹی گواہی دینے والے کا حکم
۷۱	مرض الموت میں اقرار کرنا	۴۸	کن لوگوں کی گواہی قبول نہیں ہوگی؟
۷۵	﴿ کتاب الصلح ﴾	۵۵	کون لوگ مقبول الشہادۃ ہیں؟
۷۵	صلح کی قسمیں	۵۷	شہادت سے رجوع کرنا
۷۶	ممتاز عدہ پیزین استحقاق کا ثابت ہونا	۵۷	شہادت سے رجوع کرنے کی شرط
۷۷	کن امور میں صلح جائز اور کن میں ناجائز؟	۶۰	﴿ کتاب الحجر ﴾
		۶۰	پابندی کے اسباب

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۹۱	ودیعت کا حکم		دعویٰ نکاح میں مرد و عورت میں
۹۲	مودع کب ضامن ہوگا	۷۷	مصالحت
	ایک آدمی کے پاس دو آدمیوں کے	۷۸	صلح میں فضولی کا تصرف
۹۳	ودیعت رکھنے کا حکم	۷۸	قرض پر صلح کرنا
۹۴	﴿ کتاب العاریت ﴾	۷۹	دین مشترک کا حکم
	کن الفاظ سے عاریت منعقد ہوتی	۸۲	﴿ کتاب الہبہ ﴾
۹۴	ہے	۸۲	ہبہ کا حکم
۹۴	مستعار کی قسمیں	۸۳	ہبہ کا رکن
۹۴	عاریت کا حکم	۸۳	ہبہ پر قبضہ
	کیا مستعیر عاریت کو آگے عاریت	۸۴	ہبہ سے رجوع کرنا
۹۶	دے سکتا ہے؟	۸۵	ہبہ بالعوض سے رجوع نہیں کیا جاسکتا
	کیا مستعیر، شے مستعار کو بطور کرایہ کسی		موت سے بھی حق رجوع ساقط ہو جاتا
۹۷	اور کو دے سکتا ہے	۸۶	ہے
۹۷	عاریت پر دے کر رجوع کرنا		موہوب چیز کا مرہوب لہ کی ملکیت
	ودیعت اور عاریت کو واپس کرنے		سے نکلنا بھی حق رجوع کو ساقط کرتا
۹۷	کے حکم میں فرق	۸۶	ہے
۹۹	﴿ کتاب الغصب ﴾	۸۷	ہبہ میں رجوع کے صحیح ہونے کی شرائط
۹۹	غصب کی قسمیں	۸۷	عمر بھر کیلئے ہبہ کرنا
۱۰۰	غاصب ضامن ہے	۸۸	صدقہ
	مال مغصوب کا نقصان اور اس کا	۸۸	صدقہ کرنے کی نذر ماننا
۱۰۲	ہلاک ہونا	۹۰	﴿ کتاب الودیعہ ﴾
		۹۰	امانت اور ودیعت میں فرق

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۱۲۱	﴿خشتی کا بیان﴾		غاصب کی طرف سے معصوب میں
۱۲۲	خشتی کے احکام	۱۰۲	تبدیلی کا حکم
۱۲۳	﴿مفقود کا بیان﴾	۱۰۳	نقدی سونا چاندی غصب کرنے کا حکم
۱۲۴	مفقود کا حکم	۱۰۳	زمین غصب کرنا
	مفقود کے معاملات کی ذمہ داری	۱۰۴	غصب کر کے چھپانا
۱۲۴	قاضی پر عائد ہوتی ہے	۱۰۵	مال معصوب میں اضافے کا حکم
	مفقود الخیر کی موت کا حکم کب لگایا		کیا معصوب کے منافع کا تاوان نہیں
۱۲۵	جائے گا؟	۱۰۶	ہے
	مفقود الخیر پر مرتب ہونے والے	۱۰۷	متفرق مسائل
۱۲۷	احکام	۱۰۸	﴿لقیط کا بیان﴾
۱۲۷	﴿تقسیم کے احکام﴾	۱۰۸	لقیط کا حکم
۱۲۸	تقسیم کون کرے گا؟	۱۱۰	حق حفاظت
۱۲۸	تقسیم کنندہ کی صفات	۱۱۱	لقیط کا مال
۱۲۹	اجرت کیسے تقسیم کی جائے؟	۱۱۲	﴿لقطہ کے احکام﴾
۱۲۹	تقسیم کب کی جائے	۱۱۲	لقطہ کا حکم
۱۳۰	تقسیم اور ناقابل تقسیم صورتیں	۱۱۳	تعریف کی مدت
۱۳۱	سامان کی تقسیم	۱۱۵	تعریف کا طریقہ
۱۳۱	اموال کی تقسیم	۱۱۵	مالک کے آنے کے بعد لقطہ کا حکم
	ایک ہی شہر میں مشترک مکانات کی	۱۱۵	لقطہ کا مصرف
۱۳۲	تقسیم	۱۱۷	گمشدہ جانوروں کا حکم
۱۳۳	طریق تقسیم	۱۱۸	حرم مکہ کے لقطہ کا حکم
۱۳۴	دو منزلہ مکانوں کی تقسیم	۱۲۰	لقطہ پر ملکیت کی لازمی شرط

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۱۷۰	صيد کے احکام	۱۳۵	باہمی رضامندی سے معاہدہ
۱۷۱	شکار کے حلال ہونے کی شرطیں	۱۳۶	﴿وقف کے احکام﴾
۱۷۲	مرسل میں پائی جانے والی شرطیں	۱۳۹	وقف مشاع کا حکم
۱۷۳	شکاری جانوروں کے ذریعہ شکار کرنا	۱۴۱	وقف کی بعض صورتیں
۱۷۵	تیر اور بندوق سے شکار کرنا	۱۴۳	اشیاء منقولہ کے وقف کا حکم
۱۷۶	معراض کے ذریعہ شکار کرنا	۱۴۴	وقف شدہ چیز کی بیع
۱۷۶	پتھر اور غلیل سے شکار کرنا	۱۴۴	وقف کی اصلاح و درستگی
	شکار کے دوران عضو کے کٹ جانے کا حکم	۱۴۶	مسجد کے وقف کا حکم
۱۷۷	تیر اندازی میں دو آدمیوں کا شریک ہونا	۱۴۸	وقف کو کرایہ پر دینا
۱۷۷	ذباح کا بیان	۱۵۰	﴿کتاب احیاء الموات﴾
۱۸۰	ذبح کے صحیح ہونے کی شرطیں	۱۵۲	پتھر وغیرہ سے علامت لگانا
۱۸۲	کس کا ذبح حرام ہے؟	۱۵۳	کنوئیں کا حریم
۱۸۳	ذبح کے متعلق مستحب امور	۱۵۴	درخت کا حریم
۱۸۴	بکری کو گدی کی طرف سے ذبح کرنا	۱۵۴	زمین کی آب پاشی
	ماکول اور غیر ماکول جانوروں کے احکام		پانی کی اقسام اور اس سے انتفاع کا حق
۱۸۵	اضحیہ کے احکام	۱۵۵	مزارعت کا بیان
۱۸۹	قربانی کا حکم	۱۶۰	صحت مزارعت کی شرائط
۱۸۹	قربانی کا وقت	۱۶۲	مساقات کا بیان
۱۹۱	قربانی کے جانور کی صفات	۱۶۶	ماذون غلام کے احکام
۱۹۲		۱۶۸	ماذون کے جائز تصرفات
		۱۶۹	ماذون کے ناجائز تصرفات
		۱۷۰	ماذون کے ناجائز تصرفات

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۲۱۳	قتل خطا کا حکم	۱۹۳	کن جانوروں کی قربانی جائز ہے؟
	کونسا قتل مانع میراث ہے اور کونسا	۱۹۴	قربانی کے جانور کی عمر
۲۱۴	نہیں؟	۱۹۴	قربانی کے گوشت کا حکم
۲۱۵	جاری مجرائے قتل خطا	۱۹۶	مضطر کے لیے کیا حلال ہے؟
۲۱۵	قتل بالسبب	۱۹۷	نجس ادویات کے استعمال کا حکم
۲۱۶	جو امور موجب قصاص ہیں	۱۹۸	نشہ آور چیز سے علاج معالجہ کی ممانعت
۲۱۹	جو امور موجب قصاص نہیں ہیں	۱۹۹	پنیر کھانا
۲۲۰	تنبیہ	۲۰۰	کلیجی اور تلی کھانے کا حکم
۲۲۰	تلوار سے قصاص لینا	۲۰۰	بکری کے کون سے اجزاء مکروہ ہیں
۲۲۱	قصاص فی الاطراف کا حکم		بنی اسرائیل نے اپنے اوپر کیا حرام کیا
۲۲۲	اسلحہ تاننے کا حکم	۲۰۰	تھا
۲۲۶	کتاب الديات		مشرکین نے اپنے اوپر کیا چیزیں حرام
۲۲۶	دیت کی قسطوں میں ادائیگی	۲۰۱	کی تھیں؟
۲۲۷	عورت کی دیت	۲۰۲	﴿قتل کی حرمت﴾
۲۲۷	قتل کے علاوہ میں دیت	۲۰۵	خودکشی پر وعید
۲۳۰	سر اور جسم کے زخموں کی دیت	۲۰۶	کتاب الجنایات
۲۳۰	دانستہ سر پر زخم لگانے کا حکم	۲۰۶	قتل عمد
۲۳۱	نہا سر پر زخم لگانے کا حکم		قتل عمد کا حکم اور قاتل کی وراثت سے
۲۳۲	زخموں وغیرہ کا قصاص کب لیا جائے گا	۲۰۸	محرومی
۲۳۳	جنابت کب ساقط ہوگی	۲۱۰	قتل شبہ عمد
۲۳۳	بچے کی جنابت	۲۱۱	قتل شبہ عمد کا حکم
۲۳۴	راتے سے متعلق کچھ مسائل	۲۱۳	قتل خطا

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۲۵۵	﴿ کتاب الفرائض ﴾	۲۳۷	باب القسامۃ
	میت کے ترکہ میں سب سے پہلے کیا	۲۳۹	قسم کی ابتداء کس سے ہوگی؟
۲۵۶	کیا جائے	۲۴۰	قسم کس سے لی جائے گی
۲۵۷	انسان وراثت کا کب مستحق ہوگا	۲۴۱	المعاقل
۲۵۷	موانع ارث	۲۴۳	﴿ کتاب الوصایا ﴾
۲۵۸	مستحق وراثت	۲۴۴	قرض وصیت پر مقدم ہوتا ہے
۲۶۴	چند ضروری مسائل	۲۴۴	وصیت بہتر ہے یا ترک وصیت
۲۶۵	مقرر شدہ حصص		وارث کے حق میں وصیت نہیں کی
۲۶۵	عصبات	۲۴۵	جاسکتی
۲۶۵	عصبہ نسبی		ایک تہائی مال سے زیادہ کے بارہ میں
۲۶۸	(ب) عصبہ بغیرہ	۲۴۵	وصیت کا حکم
۲۶۸	(ج) عصبہ مع غیرہ	۲۴۷	کیا بیوی خاوند کیلئے وصیت کر سکتی ہے
۲۶۸	حجب کا بیان	۲۴۷	کافر اور زمی کیلئے وصیت
۲۷۰	عول	۲۴۷	موت کے بعد قبول وصیت
۲۷۱	تنبیہ	۲۴۸	وصیت کو قبول کرنا اور رد کرنا
۲۷۵	تنبیہ	۲۴۸	موصی لہ موصی بہ کا کب مالک بنتا ہے
۲۷۷	تنبیہ		کیا موصی وصیت سے رجوع کر سکتا
۲۷۷	اہم فائدہ		ہے
۲۷۸	﴿ باب الرد ﴾	۲۴۸	دو افراد کے بارے میں وصیت کا حکم
۲۷۸	تنبیہ	۲۴۹	متفرق مسائل
۲۷۸	رد کے مسائل حل کرنے کا طریقہ	۲۵۳	مسائل
۲۸۱	داد بے کے بارے تفصیل		

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۲۹۱	بھتیجیوں کے مسائل	۲۸۳	ملاحظہ
۲۹۲	پھوپھی اور خالہ کی میراث	۲۸۳	دادا کے احوال
۲۹۳	حصص نکالنے کا طریقہ	۳۸۳	ملاحظہ
۲۹۷	تقسیم ترکہ	۲۸۶	جدات (دادیاں، نانیاں)
۲۹۷	المناسخہ		جدات (نانیوں اور دادیوں) کے
۲۹۸	توافق کی مثال	۲۸۶	مراتب
	دور صحابہ میں پیش آمدہ مسائل ان کا	۲۸۷	ذوی الارحام کا بیان
۲۹۹	حل اور ان کے القاب	۲۸۷	اقرب کی معرفت کی بحث
۲۹۹	مسئلہ الخرقاء عثمانیہ		بیٹیوں کی اولاد کے وارث بننے کی
۳۰۰	مسئلہ مروانیہ	۲۸۷	مثالیں
۳۰۰	مسئلہ دیناریہ	۲۹۰	دوسرے ذوی الارحام کے مسائل
۳۰۱	المامونیہ	۲۹۰	تنبیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿ کتاب ادب القاضی ﴾

لوگوں کے ساتھ معاملات و معاشرت میں اچھی عادات اپنانے اور بہتر اخلاق سے پیش آنے کو لغت میں ”ادب“ کہا جاتا ہے۔

عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے، مظلوم کی مدد کرنے، حدود شرع کی محافظت اور سنت کی اتباع، قضاء کے آداب میں سے ہیں۔

قضاء کا لفظ لغت میں متعدد معانی کیلئے استعمال ہوتا ہے۔

کسی پر کوئی چیز لازم کرنا: ارشاد ربانی ہے ”وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاهُ“ [الاسراء: ۲۳] اور حکم کیا پروردگار نے یہ کہ نہ عبادت کرو مگر اس کی، یعنی اللہ کی۔“

خبر دینا: جیسے فرمان الہی ہے ”وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ“ [الاسراء: ۴] ”اور حکم کیا ہم نے بنی اسرائیل کی طرف۔“

کسی کام سے فارغ ہونا: جیسا کہ اس آیت میں یہ معنی استعمال ہو رہے ہیں ”فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ“ ”پس جب عام کی جائے نماز۔“

مقرر کرنا: جیسے کہا جاتا ہے ”قضى الحاكم النفقة“ (حاکم نے نفقہ مقرر کیا)۔

ادا کرنا: جیسے اہل عرب کہتے ہیں: ”فلان قضی دینہ“ (اس نے اپنا قرض ادا کیا)۔ قضاء کا شرعی معنی ہے ”قول ملزم عن ولاية عامة“ (حکومت کی طرف سے لازم کردہ حکم)۔ یہ تعریف قضاء کے پانچوں لغوی معانی کو مشتمل ہے۔

حق کے مطابق فیصلہ کرنا بہت بڑا فریضہ اور عظیم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو قضاء کا حکم دیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کا نام ہی الخلیفہ رکھا۔ اور حضور اقدس ﷺ کو حکم فرمایا: ”وَإِن أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ“ [المائدہ: ۴۹] ”ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کریں۔“ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا: ”فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ“ [ص: ۲۶] ”لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔“

قضاء کے عظیم عبادت ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی ادا ہوتا ہے۔ حق کا اظہار ہوتا ہے اور ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی داد رسی ہوتی ہے۔ حق کو حق دار تک پہنچایا جاتا ہے۔ انہی امور کی انجام دہی کیلئے اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکام نازل فرمائے۔ انبیاء کرام معبود فرمائے۔ قضاء کا عہدہ بہت ہی دشوار اور مشکل ترین ہے کم ہی لوگ اسے صحیح طرح سے نبھا سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”من ولی القضاء ذبح بغير سكين“^۱ ”جس کو عہدہ قضاء پر مامور کیا گیا اس کو چھری کے بغیر ذبح کیا گیا۔“

قضاء کا حکم:

(۱) بعض اوقات عہدہ قضاء کی اہلیت رکھنے والے شخص پر عہدہ قضاء کو قبول کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو قبول نہیں کرے گا تو گناہ گار ہو جائے گا۔ یہ اس وقت ہے جب اس کے علاوہ اس منصب کیلئے کوئی اور موزوں شخص موجود نہ ہو سب نا اہل ہوں اور اس منصب کے قبول نہ کرنے سے احکام کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو۔

(۲) قضاء کی اہلیت کے حامل اور لوگ بھی موجود ہوں تو اسے قبول کرنا فرض تو نہیں ہوگا البتہ فرض علی الکفایہ ہوگا۔ اگر دوسرے لوگ بھی قاضی بننے کی اہلیت رکھنے والے موجود ہوں تو جس نے اس فریضہ کو نبھایا وہ ثواب کا مستحق ہوگا اور دوسرے لوگ گناہ گار ہونے سے بچ جائیں گے۔ اگر ان لوگوں میں سے کسی نے اس کو قبول نہ کیا تو وہ سب گناہ گار ہوں گے۔ لیکن اگر ان لوگوں کی ایک جماعت موجود ہو اور فیصلے امیر خود نمٹاتا ہو تو وہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اور اگر امیر وقت ایسا نہ کر سکتا ہو تو قضاء کے عہدے کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے اس کی اہلیت رکھنے والے تمام لوگ گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح اگر ان کے انکار کی وجہ سے یہ کام جاہل کو سونپا گیا تب بھی وہ گناہ گار ہوں گے۔

(۳) عہدہ قضاء کو قبول کرنا کبھی مستحب بھی ہوتا ہے جبکہ قضاء کی اہلیت کے حامل دوسرے لوگ بھی موجود ہوں۔ لیکن ایک شخص کی اہلیت دوسروں کی بہ نسبت زیادہ بہتر ہو تو اس شخص کیلئے اس عہدے پر فائز ہونا بہتر ہے۔

(۴) کبھی اس عہدہ کو قبول کرنا مکروہ بھی ہوتا ہے۔ یہ اس شخص کیلئے مکروہ ہے جو قضاء کی اہلیت تو

رکھتا ہو مگر اس شخص سے زیادہ بہتر جاننے والے لوگ (اس عہدہ کیلئے) موجود ہوں جو اس سے زیادہ بہتر طریقے سے قضاء کے امور انجام دے سکتے ہوں تو کراہت نہیں رہتی۔ صلحاء کی ایک جماعت نے عہدہ قضاء کو قبول بھی کیا ہے اور بہت سارے نیک لوگوں کا اس سے اجتناب بھی ثابت ہے۔ البتہ اس سے خود کو بچانا ہی دینی و دنیاوی لحاظ سے باعث سلامتی ہے۔ اور احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کیونکہ یہ ایک مشکل ترین کام ہے۔ خطرات سے محفوظ رہنا انتہائی دشوار عمل ہے۔

(۵) بعض دفعہ عہدہ قضاء کو قبول کرنا حرام بھی ہو جاتا ہے جب اس عہدے پر فائز ہونے والے کو معلوم ہو کہ وہ اس کا اہل نہیں ہے اور وہ انصاف سے کام نہیں لے سکتا اور اپنے باطن کی حالت سے باخبر ہو کہ وہ خواہش نفس کی طرف میلان رکھتا ہے۔ تو اس کیلئے قضاء کے عہدے پر کام کرنا جائز نہیں ہوگا اور ایسے شخص کو قاضی بنانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ومن استعمل رجلا من عصابة وفي تلك العصابة من هو ارضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المومنين“^۱ ”جو شخص کسی جماعت (یا قوم) میں کسی شخص کو سرکاری عہدے کیلئے منتخب کرے اور اس جماعت میں اس منتخب کردہ شخص سے زیادہ بہتر شخص موجود تھا (اسکو منتخب نہیں کیا) تو اس نے اللہ اس کے رسول اور مومنین کے ساتھ خیانت کی۔“

یزید بن ابی سفیان سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے شام کی طرف بھیجا اور مجھ سے فرمایا: یزید! وہاں تمہاری رشتہ داری ہے ممکن ہے سرکاری عہدے دینے میں تم قرابت داروں کو ترجیح دو۔ مجھے اس کا زیادہ اندیشہ ہے کہ تم ایسا کرو گے مگر سن لو! رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: ”من ولى من امر المسلمين شيئا فامر عليهم احدا محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم“^۲ ”جس شخص کو مسلمانوں کے امور میں سے کوئی امر سونپا گیا ہو اور وہ کسی سے محبت کی بناء پر اس کو کسی حکومتی عہدہ حوالہ کر دے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ اس کی فرض عبادت قبول ہوگی نہ نفلی۔“

یہ حدیث ضعیف ہے اس کی سند میں ایک راوی بکر بن حمیس ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو متروک کہا ہے۔ البتہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں کبھی فرماتے ہیں لیس بشنی اور کبھی

۱ [المستدرک: ص ۴۳، ص ۱۹۳]

۲ [المستدرک: ص ۴۳، ص ۱۹۲]

ضعیف کے الفاظ سے ذکر کرتے ہیں اور بعض جگہ کہتے ہیں وہ صالح تو ہے مگر قوی نہیں ہے۔

طلب عہدہ پر وعید:

حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”یا عبدالرحمن بن سمرہ! لا تسأل الأمارہ، فانک ان اعطیتها عن مسئلة و کلت الیہا وان اعطیتها من غیر مسئلة اعنت علیہا“^۱ ”اے عبدالرحمن بن سمرہ! تم طلب امارت مت کرو کیوں کے اگر وہ تیرے طلب کی وجہ سے تجھے مل گئی تو تیری کوئی مدد نہیں ہوگی اگر طلب کے بغیر تجھے مل گئی تو (اللہ تعالیٰ) کی مدد تیرے ساتھ شامل حال ہوگی۔“

حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میں اپنے دو چچا زاد بھائیوں کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان میں سے ایک نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! مجھے کوئی حکومتی عہدہ دے دیجئے، دوسرے نے بھی اس طرح کی درخواست کی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”انا واللہ لا نتولی علی هذا العمل احدا سائله ولا احد احرص علیہ“^۲ ”واللہ ہم مانگ کر عہدہ حاصل کرنے والے کو کوئی کام سپرد نہیں کرتے اور نہ ہی عہدے کے خواہشمند کو کوئی عہدہ دیتے ہیں۔“

حضرت بریدہ نے حضور ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے۔ ”القضاة ثلاثة واحد فی الجنة و اثنان فی النار، فاما الذی فی الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار فی الحکم فهو فی النار ورجل قضی للناس علی جهل فهو فی النار“ ”قاضیوں کی تین قسمیں ہیں: ایک قسم جنتی اور دو جہنمی ہیں پس جو حق کو جان کر اس کے مطابق فیصلہ دے وہ جنتی ہے اور جو حق کو سمجھ کر اور جان کر اس کے خلاف فیصلہ دے وہ جہنمی ہے اور جو بلا تحقیق فیصلہ دیتا رہا وہ بھی دوزخی ہے۔“

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ ﷺ مجھے کسی علاقے کا عامل (افر) نہیں بنائیں گے؟ رسول اللہ ﷺ نے میرے شانے پر ہاتھ مار کر ارشاد فرمایا: ”یا اباذر انک ضعيف وانها امانة وانها یوم القيامة خزی وندامة الامن اخذها بحقها وادی الذی علیہ فیہا“^۳ ”اے ابو ذر! تم کمزور ہو، عہدہ بڑی امانت ہے اور روز قیامت یہ باعث ندامت و شرمندگی ہوگا۔ الا یہ کہ کوئی

۱- [مسلم: ۳ ص ۱۲۲۳] ۲- [سنن ابی داؤد: ۳ ص ۲۹۹] ۳- [مسلم: ۳ ص ۱۲۵۸]

اس کے حقوق ادا کرے۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے۔ ”من طلب قضاء المسلمین حتی ینالھا ثم غلب عدلہ جورہ فلہ الجنة“ و من غلب جورہ عدلہ فلہ النار“ ۱۔ ”جس نے مسلمانوں کے امور نمٹانے کیلئے عہدہ قضاء طلب کر کے اسے حاصل کر لیا، اور اس کا عدل اس کے ظلم پر غالب رہا تو اس کیلئے جنت ہے۔ اور جس کا ظلم عدل پر غالب رہا اس کیلئے جہنم ہے۔“

اور اگر اس عہدے کو صحیح طور پر نبھانے کی بھرپور صلاحیت اپنے اندر پاتا ہو اور اپنے نفس پر قابو پانے کی قدرت موجود ہو تو اسے قول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قضاء کے عہدے پر فائز فرمایا تھا۔ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو اپنے لیے بار سمجھتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں: حضور ﷺ نے مجھے یمن کی طرف مبعوث فرمایا تو میں نے عرض کیا! میں نو عمر ہوں آپ مجھے بڑی عروالوں کی طرف مبعوث فرما رہے ہیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اذا جلس الیک الخصمان فلا تقض لاحدهما حتی تسمع من الآخر کما سمعت من الاول“ ۲۔ ”جب تیری عدالت میں دو مد مقابل بیٹھ جائیں تو ایک کی بات سن کر فیصلہ نہ دینا یہاں تک دوسرے سے بھی سنو جس طرح پہلے کی گفتگو سنی۔“ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اس پر عمل پیرا رہا۔

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اذا حکم الحاکم فاجتهد فأصاب فله اجران“ و اذا حکم فاجتهد فإخطأ فله اجر“ ۳۔ ”اگر فیصلہ کرنے والے نے خود تحقیق اور مشقت برداشت کر کے درست فیصلہ دیا تو وہ دو ہرے اجر کا مستحق ہے۔ اور اگر کوشش اور تحقیق کے باوجود صحیح فیصلہ نہیں دے سکا تب بھی اس کو ایک اجر ملے گا۔“

حجاج بن یوسف نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بصرہ کے قاضی بننے کا مطالبہ کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ ”من طلب القضاء واستعان علیہ و کل الیہ و من لم یطلبہ ولم یستعن علیہ و کل بہ ملک یسدده“ ۴۔ ”جو شخص عہدہ قضاء کو طلب کرتا ہے اور اس کیلئے تعاون چاہتا ہے تو اسے اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اور جو عہدہ کو طلب نہیں کرتا اور اس پر تعاون نہیں لیتا تو اس کیلئے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو

۱ [ابوداؤد: ۳، ص ۲۹۹] ۲ [المستدرک: ۴، ص ۹۳]

۳ [نصب الراية: ۴، ص ۶۹] ۴ [المستدرک: ۴، ص ۹۲]

اسے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔“

ظالم حکمران کی طرف سے عہدہ قضاء قبول کرنے کا حکم:

جابر حکمران کے عہد حکومت میں عہدہ قضاء پر کام کرنا جائز ہے کیونکہ حضرات تابعین حجاج بن یوسف کے عہد حکومت میں اس کے ظلم و جور کے باوجود عہدہ قضاء کو قبول کر کے عدالتی فرائض منصبی انجام دیتے رہے ہیں۔ کیونکہ اس میں اقامت حق ہے۔ ظالم کے ظلم کو دفع کرنا ہے۔ ہاں اگر حق کے قائم کرنے اور ظالم کے ظلم کو روکنے کی قدرت نہ ہو تو پھر اس کے عہدہ قضاء کو قبول کرنا جائز نہیں ہوگا۔

قضاء کے منصب کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی رونق بخشی ہے۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ مرتے دم تک شام کے قاضی رہے ہیں۔ وفات کے وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہی کی رائے کے مطابق حضرت فضالہ بن عبید الانصاری کو شام کا قاضی بنایا تھا۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے عہدہ قضاء پر بعض حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کام کیا ہے حالانکہ حق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق پر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر سے فرمایا تھا ”تقتلک الفئة الباغیة“ ”باغی گروہ کے ہاتھوں تم قتل کیے جاؤ گے۔“

تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عمار حضرت علی کے ساتھ تھے اور ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے قتل کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دور حکومت میں حق پر تھے ان کے ساتھ لڑنے والے اپنے عمل کے لحاظ سے ان سے بغاوت کر رہے تھے اور اپنے ارادے و نیت کے اعتبار سے وہ معذور تھے۔ ان کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ وہ ماخوذ نہیں ہوں گے کیونکہ یہ ان کی اجتہادی خطا تھی۔ اہل اسلام کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ اہل جمل (حضرت طلحہ زبیر حضرت عائشہ وغیرہ) کے ساتھ قتال میں بھی حضرت علی حق پر تھے اور صفین والوں (حضرت امیر معاویہ اور ان کی فوج) کے ساتھ لڑنے میں بھی آپ ہی حق پر تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بعد میں ندامت کا اظہار بھی کیا تھا۔ ابن عبدالبر نے ”کتاب الاستیعاب“ میں نقل کیا ہے، عبداللہ بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں: حضرت عائشہ نے عبداللہ بن عمر سے فرمایا: تم نے مجھے کیوں نہیں روکا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے دیکھا کہ ایک شخص کی رائے آپ پر غالب آگئی تھی (یعنی ابن الزبیر) فرمانے لگی: واللہ! اگر تم مجھے منع کرتے تو میں نہ نکلتی۔

حجاج بن یوسف کے حکم سے قاضی بننے والے حضرات تابعین میں سے حضرت ابو بردہ بن ابوموسیٰ الاشعری بھی ہیں جو کوفہ کے قاضی تھے اور حضرت عبداللہ بن ابی مریم بھی ہیں جو اصبحان کے قاضی تھے اور یزید بن معاویہ کی طرف سے مدینہ کے عہدہ قضاء پر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ (عبدالرحمن بن عوف کے بھتیجے) فائز رہے ہیں۔^۱

کیا عورت قاضی بن سکتی ہے؟

عورت کیلئے قاضی بننا جائز تو ہے مگر مکروہ ہے کیوں کہ اس میں مردوں کے ساتھ بات چیت ہوگی جبکہ عورت کیلئے پردہ میں رہنا بہتر ہے۔ ہاں اگر صرف عورتوں کے جھگڑے نمٹائے تو مکروہ نہیں ہوگا۔ عورت کیلئے جب گواہی دینا جائز ہے تو قاضی بننا بھی جائز ہوگا۔ ہاں! مگر یہ کہ حدود و قصاص کے معاملات میں اس کے فیصلے معتبر نہیں ہوں گے۔ احناف کے علاوہ دوسرے آئمہ کے نزدیک عورت کا قاضی بننا بالکل جائز نہیں ہے۔ وہ (آئمہ) حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں۔ ایک بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نفع سے نوازا۔ قریب تھا کہ میں جنگ جمل میں جمل والوں کا ساتھ دے کر لڑتا لیکن اس کلام کی برکت سے بچ گیا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ اہل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو بادشاہ بنایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لن یفلح قوم ولوا امرہم امراة“^۲ ”وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہوگی جس نے امارت کسی عورت کے حوالے کر دی۔“

حدود و قصاص میں عورت کی شہادت کو قبول نہ کرنا حدیث زہری سے ثابت ہے وہ فرماتے ہیں۔ دور نبوت اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ سنت جاری تھی کہ حدود و قصاص میں عورت کی گواہی قبول نہیں کی جاتی تھی۔

قاضی کی تنخواہ کا حکم:

قاضی کی تمام ضروریات اس کے اپنے اخراجات، گھر والوں اور مددگاروں کے خرچ بیت المال میں سے دیئے جائیں گے۔ اس لیے کہ اس نے لوگوں کی ضروریات کیلئے خود کو وقف کر رکھا ہے۔ اگر اس کی تمام ضروریات کی کفایت نہیں کی جائے گی تو لوگوں کے مال پر اس کی نظر جائے گی اور دل میں لالچ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے فیصلے میں خلل پیدا ہونے کا خدشہ ہوگا۔ اس لیے حضرات فقہاء نے فرمایا ہے کہ امام وقت کیلئے مستحب ہے کہ وہ صاحب ثروت شخص کو قاضی بنائے تاکہ اس

۱ [نصب الراية: ص ۶۹] ۲ [سنن بیہقی: ص ۱۰۷] ۱۱۷

کے دل میں لوگوں کے مال کا لالچ نہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو وہ حصول معاش کیلئے بازار کی طرف نکل گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو واپس لائے پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کر کے یومیہ دو درہم ان کیلئے مقرر کیے۔ ان کے پاس ایک جبہ تھا جس کو انہوں نے اپنی تنخواہ سے خریدا تھا جب وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہؓ سے فرمایا: اس جبے کو عمر کے حوالہ کر دینا کہ وہ اس کو بیت المال میں جمع کرادے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ قاضی کیلئے اپنی ضروریات سے زیادہ وصول کرنا بہتر نہیں ہے۔ حضرت قاضی شریح تنخواہ لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: وصی اپنے کام کے بقدر کھا سکتا ہے، حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ اپنی ضرورت کے بقدر بیت المال سے وصول کرتے تھے۔ قاضی اپنی تنخواہ کو اپنی ضرورت میں خرچ کرے، ضرورت نہ ہو تو صدقہ کر سکتا ہے کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال عطاء فرماتے تو میں عرض کرتا! آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ کسی محتاج کو دے دیجئے! حتیٰ کہ ایک مرتبہ مجھے مال عطاء فرمایا میں نے عرض کیا اس شخص کو عطاء کیجئے جو مجھ سے زیادہ نادار ہو، فرمایا: ”خذہ فتمولہ فتصدق بہ فما جاءک من هذا المال وانت غیر مشرف ولا سائل فخذہ والا فلا تتبعہ نفسک“ لے لو! اس کو اور صاحب مال بنو اور صدقہ کرو، اس قسم کا مال مانگے بغیر اور دل میں اس کی تمنا کیے بغیر ہاتھ آجائے تو اس کو حاصل کیا کرو! ورنہ نفس کی تابعداری مت کیا کرو۔

حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں: قاضی کو ایک سال سے زیادہ عرصہ تک عہدہ قضاء پر برقرار نہ رکھا جائے۔ اس لیے کہ اگر وہ قضاء کے امور میں مسلسل مصروف رہے گا تو علم کو بھول جائے گا۔ اس لیے حاکم وقت کو چاہیے کہ ایک سال کے بعد اس کو معزول کر کے کسی دوسرے کو مقرر کر دے تاکہ وہ فارغ ہو کر علم میں مشغول ہو جائے۔

قاضی کی صفات:

بہتر یہ ہے کہ قاضی میں اجتہاد کی صلاحیت موجود ہو۔ اس لیے کہ جب کوئی واقعہ پیش آئے گا تو پہلے اس کا حل قرآن میں تلاش کیا جائے گا۔ اس میں نہ ملے تو حدیث میں۔ اس میں نہ ملے تو اجماع میں اس کا حل تلاش کرے گا۔ اس سے بھی حل نہ ہو تو اپنی رائے اور اجتہاد کو کام میں لائے گا۔ اس کی دلیل حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا گورنر مقرر کیا تو فرمایا: ”کیف تقضی اذا عرض لک قضاء“ ”اگر تمہیں فیصلہ کرنا پڑا تو کس طرح فیصلہ کرو گے؟“ عرض کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا، فرمایا: ”فان لم تجد

فی کتاب اللہ“ ”اگر کتاب اللہ میں نہ ملے تو؟“۔ عرض کیا: رسول اللہ ﷺ کی سنت کی روشنی میں فیصلہ کروں گا، فرمایا: ”ان لم تجد فی سنة رسول اللہ ولا فی کتاب اللہ؟“ ”کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں اس کا حل اگر تجھے نہ ملے تو؟“ عرض کیا! میں اجتہاد کر کے اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کروں گا اور اس میں خوب غور و غوض کروں گا۔ سستی سے کام نہیں لوں گا۔ حضور ﷺ نے ان کے سینے پر ہاتھ لگا کر فرمایا: ”الحمد لله الذی وفق رسول رسول اللہ لما یرضی به رسول اللہ“۔ ”تمام تعریفیں اس ذات کیلئے ہیں جس نے اپنے رسول کے نمائندے کو اللہ کے رسول کی رضامندی کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق بخشی“۔ حضور ﷺ نے اجماع کا ذکر اس لیے نہیں فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں اجماع کا تصور نہیں ہو سکتا۔ قاضی کا مجتہد ہونا ترجیحی شرط ہے یعنی اجتہاد کی صفت کی حامل شخصیت کی موجودگی میں وہی قضاء کے عہدہ کیلئے موزوں ہے۔ قاضی اگر اہل اجتہاد میں سے نہ ہو تو کم از کم اسے اہل شہادت میں سے ہونا چاہیے یعنی وہ ایسی شخصیت ہو جس کی شہادت قبول کی جاسکے۔ دینی اعتبار سے قابل اعتماد ہو، امانت دار ہو، عقل و فہم والا ہو، فقہ اور سنت کا عالم ہو، اور مفتی کیلئے بھی یہی شرائط ہیں۔ جو بھی اہل شہادت ہوگا قاضی بننے کا اہل ہوگا اور اگر اہل شہادت میں سے نہ ہو تو اس کو قاضی بنانا جائز نہیں ہوگا چنانچہ نابینا اہل شہادت میں سے نہیں ہے۔ لہذا اس کو قاضی بنانا بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ آواز کی مدد سے کما حقہ دوسرے کو نہیں پہچان سکتا کیونکہ آوازیں ایک جیسی ہو سکتی ہیں۔

محدود فی القذف (تہمت زدہ شخص) کو قضاء کے عہدے پر فائز کرنا درست نہیں ہے اگرچہ وہ اس سے توبہ تائب بھی ہو گیا ہو۔ اسی طرح مخنث بھی قاضی نہیں بن سکتا، گانا گانے والے کو بھی قضاء کا کام نہیں سونپا جاسکتا۔ اور عادی شراب خور بھی قاضی بننے کا اہل نہیں ہے۔ پرندوں کو لڑانے والا بھی عہدہ قضاء کا اہل نہیں ہے۔ ایسے ہی گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی قاضی نہیں بن سکتا جس پر حد لگ سکتی ہو مثلاً زانی، سود خور، جو اباز وغیرہ۔ اسی طرح مروت اور شرافت کی خلاف کام کرنے والے کو بھی قاضی نہیں بنایا جاسکتا ہے۔ مثلاً راستے میں پیشاب کرنے والا یا راستے میں چلتے پھرنے کھانے والا اسی طرح اسلاف کو برا بھلا کہنے والا بھی قضاء کی اہلیت سے عاری شمار ہوتا ہے۔

غیر عالم کو عہدہ قضاء پر فائز کرنا:

حضرات علماء احناف کے نزدیک غیر عالم کو قاضی بنانا جائز ہے کیونکہ وہ مفتی سے مسئلہ

پوچھ کر فیصلہ دے سکتا ہے اس سے قضاء کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ اور وہ مقصد حق کو حقدار تک پہنچانا ہے۔ مگر بہتر یہی ہے کہ علم اور اہلیت کے حامل شخص کو قاضی بنایا جائے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے ”من استعمل رجلا من عصابة وفي تلك العصابة من هو ارضى الى الله منه، فقد خان الله وخان رسوله“ و خان المومنین“۔^۱

قضاء کی مجلس:

قاضی فیصلہ کرنے کیلئے دارالقضاء (عدالت گاہ) میں بیٹھے گا۔ حضور اقدس ﷺ مسجد میں بیٹھ کر فیصلہ فرمایا کرتے تھے اور حضرات خلفاء راشدین کا بھی یہی معمول رہا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی حدرد پر ان کا قرض تھا۔ ایک دن انہوں نے مسجد نبوی میں ان سے اس کا مطالبہ کیا تو بحث و مباحثہ میں ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ کے گھر مبارک تک آوازیں پہنچ گئیں۔ آپ ﷺ آوازیں سن کر باہر تشریف لائے اور گھر کے دروازے پر پڑے ہوئے پردے کو ہٹا کر آواز دی، کعب بن مالک! کعب نے کہا: بلیک یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا آدھا قرض چھوڑ دے، کعب نے کہا: میں نے ایسا کر دیا یا رسول اللہ! پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”قم فاقضه“۔ ”اٹھو اور اس کا قرض ادا کرو“۔

مستحب ہے کہ اس کے قریب علماء اور دیانتدار لوگ بھی بیٹھ جائیں اگر قاضی خود قضاء کا عالم ہو تو اکیلا بھی بیٹھنا درست ہے۔ اور ایک عادل دینی سمجھ بوجھ رکھنے والا منشی بھی رکھ لے کیونکہ اگر وہ عادل و متقی نہ ہوگا تو اس سے خیانت کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ کاتب (منشی) کا مسلمان ہونا شرط ہے کیونکہ غیر مسلم سے خطرہ ہے کہ خلاف شریعت بات لکھ لے اور فقہ کا علم رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں ہوگا تو قاضی کے منشاء کے مطابق نہیں لکھ سکے گا۔ قاضی کیلئے ضروری ہے کہ وہ متخاضمین سے دور بیٹھے تاکہ وہ اس کو رشوت کے ذریعے دھوکہ نہ دے سکیں۔

عدالت میں پیش ہونیوالوں کیساتھ قاضی کا رویہ:

قاضی پر لازم ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہونے والے حریفوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کرے یعنی ان کو بٹھانے، ان کے ساتھ طرز تخاطب اور انہیں پیش کرنے اور دیکھنے اور اشارہ کرنے

۱ [المستدرک: ۴، ص ۹۲] ۲ [النساء: ۱۳۵]

میں یکساں رویہ رکھے۔ ارشاد خداوندی ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ“^۱
 ”اے ایمان والو! تم انصاف کو قائم کرنے والے ہو جاؤ۔“

حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فریقین کو سامنے بٹھا کر فیصلہ فرمایا۔^۱ حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”من ابتلی بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظة و اشارة و مقعده مجلسه“^۲۔ ”جو شخص مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی ذمہ داری میں مبتلا کیا گیا اسے چاہیے کہ ان کے درمیان دیکھنے، اشارہ کرنے اور بیٹھنے کے معاملے میں برابری کرے۔“ دوسری جگہ ارشاد نبوی ہے: ”من ابتلی بالقضاء بين الناس لا يرفعن صوته على احد الخصمين مالا يرفع على الاخر“^۳۔ ”جو شخص لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی ذمہ داری میں مبتلا ہو اس کو چاہیے کہ اگر ایک فریق پر آواز بلند نہ کرے تو دوسرے پر بھی آواز کو بلند نہ کرے۔“ عبداللہ بن قیس کے نام خط میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں ”اپنی عدالت میں لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنا تا کہ ضعیف اور کمزور تیرے عدل سے ناامید نہ ہوں اور کوئی شریف تیری طرف سے خصوصی رعایت کی طمع نہ کرے۔“

گواہ پیش کرنا مدعی کی ذمہ داری ہے اور قسم کھانا مدعی پر لازم ہے۔ قاضی ایک حریف کو دوسرے پر ترجیح نہیں دے گا ایک کو دائیں اور دوسرے کو اپنے بائیں طرف نہیں بٹھائے گا۔ جب فریقین اس کے سامنے آئیں تو چاہے تو بیک وقت دونوں کو خطاب کر کے پوچھے تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اور چاہے تو خاموش رہے اور فریقین خود بولیں۔ جب ایک شخص بات شروع کرے تو اس کی بات پوری ہونے سے پہلے دوسرے کو بات کرنے سے روک دے تاکہ اس کے دعوے کو خوب سمجھ سکے۔ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ سرگوشی نہ کرے نیز دلیل کی درستگی میں اس کی مدد نہ کرے کیوں ایسا کرنے کی صورت میں دوسرا دلبرداشتہ ہو جائے گا۔ قاضی کسی کے دعویٰ کی تشریح بھی نہیں کرے گا تاکہ ایک کی مدد کرنے کی تہمت اس پر نہ لگے نیز وہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہنس کر بات نہیں کرے گا کیونکہ اس سے فریق ثانی اس پر جبری ہوگا۔ اور ان کے ساتھ مزاح بھی نہیں کرے گا۔ کیونکہ مزاح سے قاضی کی ہیبت و رعب میں کمی آئے گی۔ اور کسی فریق کی مینز پائی بھی نہ کرے اور نہ ہی ان میں سے کسی کا ہدیہ قبول کرے نہ فیصلہ سے پہلے نہ فیصلے کے بعد کیونکہ یہ صورت رشوت کے مشابہ ہے۔ اگر فیصلے کے دوران قاضی کو کوئی غم لاحق ہو جائے یا کسی وجہ سے غضبناک ہو جائے تو فیصلے

۱ [ابوداؤد: ۳ ص ۳۰۲] ۲ [مجمع الطبرانی: ۲۳/۲۸۵] ۳ [دارقطنی: ۴ ص ۲۰۵]

کو روک لے۔ اسی طرح بھوک، پیاس اور قضاء حاجت کی ضرورت کے وقت بھی فیصلہ نہ کرے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”من ابتلی بالقضاء بین المسلمین فلا یقضین بین اثین وهو غضبان“ ”جس کو دو مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی ذمہ داری سونپی جائے تو وہ غصہ کی حالت میں ہرگز فیصلہ نہ کرے۔“

دوسری وجہ یہ ہے کہ فیصلے کے وقت غور و فکر اور تدبیر کی ضرورت ہوتی ہے اور مذکورہ حالات فکر و تدبیر کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ فریقین میں رضامندی کی امید ہو تو ان کو ایک یا دو بار واپس بھیج دے تاکہ وہ صلح کر لیں۔ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”حریفین کو واپس بھیج دو تاکہ وہ آپس میں صلح کر لیں“ اور اگر آپس میں صلح کرنے کی امید نہ ہو تو فیصلہ نافذ کر دے کیونکہ فیصلے کو مؤخر کرنے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے۔

لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست:

قاضی خصوصی دعوتوں میں شامل نہ ہو۔ ہاں اگر دعوت عقیقہ اور شادی وغیرہ ہو تو شامل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ شادی عقیقہ اور اس طرح کی دوسری دعوتوں میں شامل ہونے پر تہمت کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا سنت بھی ہے۔ البتہ تہمت کے شبہ کی وجہ سے خصوصی دعوتوں میں شامل نہ ہو۔ اگر کوئی قرہبی رشتہ دار ہو یا قاضی بننے سے قبل اس کے ہاں دعوت میں شامل ہونے کا معمول ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ قاضی مریضوں کی عیادت کر سکتا ہے لوگوں کے جنازوں میں جا سکتا ہے کیونکہ یہ حقوق مسلم میں شامل ہے۔ البتہ ان مجالس میں زیادہ دیر تک نہ ٹھہرے اور نہ ہی ان مجالس میں مقدمات کے متعلق کسی کو گفتگو کرنے دے۔

قاضی کسی کو فیصلہ کیلئے اپنا نائب نہیں بنائے گا کیونکہ وہ وکیل کی طرح ہے اور وکیل موکل کی اجازت کے بغیر کسی کو اپنا نائب نہیں بنا سکتا۔ نیز وہ ایک حریف کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا: ”اذا جلس الیک الخصمان، فلا تقض لاحدهما حتی تسمع من الآخر کما سمعت من الاول“ ”جب دو حریف تیرے سامنے بیٹھ جائیں تو ایک کے حق میں فیصلہ نہ دو جب تک کہ تم پہلے کی طرح دوسرے کی بات کو کبیل نہ سن لو“۔ لیکن اگر عدالت میں غیر حاضر شخص کا وکیل یا اس کا کوئی حمایتی موجود ہو یا ایسا کوئی شخص موجود ہو جو شرعی طور پر اس کا نائب سکتا ہے مثلاً وصی وغیرہ تو اس

کی غیر موجودگی کے باوجود اس کیخلاف فیصلہ دے سکتا ہے۔ یا غائب پر دعویٰ حاضر پر دعویٰ کا سبب بن سکتا ہو۔ مثلاً ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ فلاں شخص کے قبضے میں جو گھر ہے وہ میرا ہے جبکہ خصم اس نے اس کا انکار کیا۔ مدعی نے گواہوں کے ذریعے ثابت کیا کہ اس نے اس مکان کو فلاں غائب شخص سے خریدا ہے۔ تو قاضی اس حاضر اور اس غائب کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے ایک قطعہ اراضی یا کسی مکان پر شفعہ کا دعویٰ کیا اور قابض آدمی اس دعویٰ کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور مدعی نے گواہوں کے ذریعے ثبوت پیش کیا کہ اس نے یہ قطعہ اراضی فلاں غائب شخص سے خریدا ہے تو اس صورت میں قاضی اس حاضر اور غائب دونوں کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے۔

کیا ایک قاضی دوسرے قاضی کے فیصلہ کو کالعدم قرار دے سکتا ہے؟

اگر قاضی نے کسی ایسے کیس کا فیصلہ کیا جس میں اپنی رائے اور اجتہاد کی گنجائش موجود تھی اور اس نے اپنے اجتہاد سے فیصلہ سنا دیا تو کسی قاضی کیلئے اس فیصلے کو منسوخ کرنا جائز نہیں ہوگا کیونکہ بعد والے قاضی کا فیصلہ بھی اجتہاد ہی سے ہوگا لہذا پہلے فیصلہ کو ہی ترجیح دی جائے گی۔

ابوحسان سے روایت ہے کہ عباس بن خرشہ الکلابی کو ان کے چچا زاد بھائیوں یا ان کی بیوی کے خاندان کے کچھ لوگوں نے کہا کہ تیری بیوی تجھے پسند نہیں کرتی اگر شک ہے تو اس کو طلاق کا اختیار دے کر دیکھو۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی سے کہا: اے حرکی بیٹی! تجھے اختیار ہے بیوی نے فوراً کہا میں نے اپنے نفس کو اختیار کیا (یعنی تجھ سے جدائی کو اختیار کیا) ان الفاظ کو اس نے تین بار دہرایا کہنے والوں نے عباس بن خرشہ سے کہا: تیری بیوی تجھ پر حرام ہوگئی۔ اس نے کہا نہیں ہوئی تم جھوٹ بول رہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا سارا واقعہ عرض کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اس کے قریب نہیں جاسکتے کسی دوسرے سے نکاح کرنے سے پہلے۔ اگر تم اس کے قریب گئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔

ابوحسان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور حکومت آیا تو عباس بن خرشہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا ابو تراب (حضرت علی کی کنیت) نے میری بیوی سے اس طرح جدائی کرائی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا، اسی کو برقرار رکھتا ہوں۔

حضرت مالک سے روایت ہے کہ عبدالمالک بن مروان کے دور امارت میں ابان بن

عثمان کو جب مدینہ منورہ کا گورنر بنایا گیا تو اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کو منسوخ کرنے کا ارادہ کیا اور عبدالملک بن مروان کو خط کے ذریعے اپنے ارادے کی اطلاع دی۔ عبدالملک بن مروان نے جواب میں لکھا: ”ہم ابن الزبیر کے فیصلوں کو ناپسند نہیں کرتے ہم صرف ان کی حکمرانی کی خواہش کو ناگوار سمجھتے ہیں“۔ جب میرا یہ خط پہنچے تو اس پر عمل کرنا ابن الزبیر کے فیصلوں کو برقرار رکھنا ان کو کالعدم قرار نہ دینا کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں ہم بہت مشکل میں پڑ جائیں گے۔^۱

ایک قاضی کا فیصلہ دوسرے قاضی کے سامنے پیش ہو تو وہ اس کو نافذ کرے الا یہ کہ وہ قرآن اور حدیث مشورہ اور اجماع کے خلاف ہو تو اس کے نفاذ کو روکے اور کالعدم قرار دے۔ کیونکہ قرآن حدیث اور اجماع کی موجودگی میں اجتہاد اور اپنی رائے سے کام لینا درست نہیں ہے۔ اس سے پہلے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث گزری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا: ”اگر فیصلہ کرنا ہو تو کس طرح فیصلہ کرو گے؟ عرض کیا: کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا“ فرمایا: اگر کتاب اللہ میں اس کا حل نہ پاؤ تو؟ عرض کیا: سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں فیصلہ دوں گا“ فرمایا: اگر اس میں بھی نہ ملے تو؟ عرض کیا اپنی رائے اور اجتہاد کے ساتھ فیصلہ کروں گا اور اس میں سستی ہرگز نہیں کروں گا۔^۲

اگر قاضی کے سامنے کسی حکمران کا حکم پیش کیا گیا اور وہ حکم کسی دلیل پر مبنی نہ ہو تو قاضی اس حکم کو منسوخ کر سکتا ہے۔ اس کے مطابق فیصلہ نہ دے مثلاً کوئی حاکم کسی کے قرض کو یہ کہہ کر ساقط کرنے کا حکم دے کے سا لہا سال کے گزرنے کے باوجود اس کا مطالبہ نہیں کیا گیا۔

سنت مشہورہ کے مخالف فیصلے کی مثال یہ ہے مثلاً ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں۔ اس نے دوسرے شخص سے نکاح کر لیا، مگر ہم بستری سے قبل طلاق ہو گئی تو اس عورت کو پہلے شوہر کیلئے حلال قرار دینا سنت مشہورہ کیخلاف فیصلہ ہے کیوں کہ یہ مشہور حدیث عسیلہ کے خلاق ہے کہ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں: رفاعہ القرظی نے اپنی بیوی کو طلاق مغلظہ (تین طلاقیں) دیں۔ اس نے عبدالرحمن بن الزبیر سے نکاح کر لیا (ایک دن) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں رفاعہ کے نکاح میں تھی اس نے مجھے تین طلاقیں دیں اس کے بعد میں نے عبدالرحمن بن الزبیر سے نکاح کر لیا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے مگر میرے اس کپڑے کی طرح اپنی چادر کا ایک کونہ اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر فرمایا:

۱ [سنن بیہقی: ۱۰/۱۲۱] ۲ [سنن ابی داؤد: ۳/۳۰۳]

”لعک تریدین ان ترجعی الی رفاعۃ؟ لا حتی یدوق عسیلتک و تذوقی عسیلتہ“
 ”شاید تم دوبارہ رفاعہ کے پاس جانا چاہتی ہو؟ نہیں جاسکتی یہاں تک کہ تم اس کا شہد چکھ لو اور تمہارا
 شہد وہ چکھ لے۔“ اس وقت حضور ﷺ کے پاس ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور خالد بن سعید
 بن العاص حجرہ شریف کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر خالد بن سعید نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو
 آواز دی کہ تم اس عورت کو کیوں نہیں ڈانٹ رہے ہو کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے کیسی باتیں
 کر رہی ہے۔

اور کتاب اللہ کی خلاف فیصلہ دینے کی مثال یہ ہے کہ کوئی قاضی کسی متروک التسمیہ عبد اذبیحہ
 کے حلال ہونے کا فیصلہ دے تو دوسرا قاضی اس فیصلہ کو منسوخ کر دے اور اس کے مطابق فیصلہ نہ
 دے۔

کن لوگوں کی گواہی پر فیصلہ نہیں دیا جاسکتا؟:

اصول و فروع کی گواہی ایک دوسرے کے حق میں قبول نہیں ہوگی یعنی باپ دادے اور
 پڑدادے کی گواہی بیٹے پوتے اور پڑپوتے کے حق میں اور بیٹے پوتے اور پڑپوتے وغیرہ کی بات دادا
 اور پڑدادے کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ نیز بیوی کی گواہی اس کے شوہر کے حق میں اور شوہر کی
 گواہی بیوی کے حق میں قبول نہ ہوگی اور کسی اجیر کی گواہی اس کے مستاجر حق میں قبول نہ ہوگی کیونکہ
 رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”لا تقبل شہادۃ الولد لوالدہ ولا شہادۃ الوالد
 لولدہ ولا المرأۃ لزوجہا ولا الزوج لامراتہ“^۱ ”بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہ
 ہوگی نہ والد کی گواہی اس کے بیٹے کے حق میں نہ بیوی کی گواہی اس کے شوہر کے حق میں اور نہ شوہر کی
 گواہی بیوی کے حق میں قبول ہوگی۔ اور نہ اجیر کی گواہی مستاجر کے حق میں قبول ہوگی۔“ دوسری وجہ یہ
 بھی ہے کہ ان کے منافع آپس میں مشترک ہیں لہذا ان لوگوں کی گواہی پر فیصلہ دینا درست نہیں ہوگا۔

کیا قاضی اپنی ذاتی معلومات کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتا ہے؟:

قاضی اپنی عملداری کے علاقوں میں حقوق العباد کے متعلق اپنی معلومات اور مشاہدات کی
 بنیاد پر فیصلہ کر سکتا ہے۔ کیونکہ اس کا دیکھنا اور کسی معاملے میں ذاتی علم رکھنا دو گواہوں سے بہتر ہے۔
 کیونکہ معاملے کی حقیقت کو خود دیکھنے اور دوسروں سے سننے سے یقینی طور پر علم حاصل ہوتا ہے جب
 کے گواہوں کے ذریعے فراہم شدہ معلومات سے صرف ظن غالب حاصل ہوتا ہے۔ تمام فقہاء کا اس

بات پر اجماع ہے کہ اس کا ذاتی قول مقبول ہے۔ البتہ قاضی بننے سے پہلے حاصل شدہ معلومات یا اپنی عملداری کے علاقوں کے علاوہ دوسرے علاقوں سے حاصل شدہ معلومات کی بنیاد پر فیصلہ کرنا امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک صحیح نہیں ہے یہی قول حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور قاضی شریح سے بھی منقول ہے۔ اور حضرات صاحبین (امام ابو یوسف اور امام محمد) اس کو بھی جائز اور درست قرار دیتے ہیں۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی دلیل یہ ہے کہ قاضی اپنے شہر (جہاں وہ قاضی ہے) کے علاوہ دیگر علاقوں میں ایک عام فرد کی حیثیت رکھتا ہے اور محض ایک گواہ ہے، حاکم نہیں ہے، اور صرف ایک فرد کی گواہی مقبول نہیں ہے۔ یہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے بینہ عادتہ کے ذریعے معلومات حاصل کیں پھر قاضی بنا اور اس سابقہ ثبوت کی بنیاد پر فیصلہ دیا تو یہ درست نہیں ہے۔ قاضی کا اپنے علم کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت ہے، وہ فرماتی ہیں: ابوسفیان کی بیوی ہند بنت عقبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا! ابوسفیان بخیل آدمی ہے مجھے اتنا خرچ نہیں دیتا جو میرے اور میرے بچوں کیلئے کافی ہو والا یہ کہ اس کی اجازت کے بغیر میں لے لوں، کیا بغیر اجازت کے اس کے مال میں سے کچھ لےنے میں مجھ پر کوئی گناہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”خذی من مالہ بالمعروف ما یکفیک ویکفی بنیک“ ”اس کے مال سے اپنے اور اپنے بچوں کی کفایت کے بقدر معروف طریقے سے لے سکتی ہو“۔

استثنائی صورت:

قاضی کیلئے حدود اللہ میں اپنے ذاتی علم کی بنیاد پر فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں وہ ایک فریق ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے نفاذ میں اس کا نائب ہے البتہ حد قذف میں اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی گنجائش ہے کیونکہ اس میں حق عبد بھی ایک گونہ موجود ہے۔

جھوٹی گواہی کی بنیاد پر فیصلے کا حکم:

اگر جھوٹی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ دیا گیا تو امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک عقود اور فسوخ میں اس کا فیصلہ ظاہر و باطناً نافذ ہوگا جیسے نکاح، طلاق، بیع، ہبہ اور وراثت وغیرہ۔ اور حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ اور امام محمد رضی اللہ عنہ کے نزدیک ظاہر تو نافذ ہوگا مگر باطناً نافذ نہیں ہوگا۔ اگر دو گواہوں نے کسی عورت کے کسی شخص کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جھوٹی گواہی دی اور قاضی نے ان کی گواہی پر اعتماد کرتے ہوئے نکاح منعقد ہونے کا فیصلہ دیا تو امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ نکاح نافذ ہوگا حتیٰ کہ اس مرد کیلئے اس عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہوگا۔ مگر حضرات صاحبین (امام

یوسفؑ امام محمدؒ کے نزدیک اس کے ساتھ ہم بستری کرنا اس کیلئے حلال نہیں ہوگا۔ اگر دو مردوں نے عدالت میں گواہی دی کہ فلاں شخص نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دی ہے قاضی نے ان کی گواہی پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے درمیان جدائی کا فیصلہ دے دیا۔ اس کے بعد کسی دوسرے شخص نے اس عورت کے ساتھ نکاح کیا تو یہ نکاح امام صاحب کے نزدیک اس کیلئے جائز ہوگا اور حضرت صاحبین فرماتے ہیں اگر دوسرے شوہر کو اس کا علم نہ ہو تو اس کیلئے ہم بستری جائز ہوگی کیونکہ حقیقت حال سے وہ بے خبر ہے اور باطن کے علم کا وہ مکلف نہیں ہے اور اگر وہ ان کے متعلق جانتا ہو جیسے وہ خود دو گواہوں میں سے ایک ہو تو اس کے ساتھ نکاح کرنا اس کیلئے حلال نہیں ہوگا۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زوج اول کیلئے وہ حرام ہوگی جماع کی صورت میں زانی قرار پائے گا۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جماع حلال ہوگا اور وہ زانی نہیں ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زوج اول کیلئے ہم بستری حلال نہیں ہوگی کیونکہ امام صاحب کے قول سے حرمت کا شبہ پڑ گیا لہذا احتیاط اس میں ہے کہ اس کو حرام قرار دیا جائے۔ وراثت اور ہبہ میں جھوٹی گواہی کی بنیاد پر کیا گیا فیصلہ بھی نافذ ہوگا۔ حتیٰ کے مشہورہ کیلئے ہبہ اور میراث کے مال کو کھانا حلال ہوگا اور امام صاحب سے ایک روایت ہبہ میں عدم نفاذ کی بھی ہے چنانچہ امام صاحب کے اس بارے میں دو قول ہوئے۔

حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے: ”انکم تختصمون الیٰ ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض فاقضیٰ له علیٰ نحو ما اسمع منه فمن قطع له من حق اخیه شیئاً فلا یاخذہ فانما اقطع له بہ قطعاً من النار“^۱ ”تم اپنی خصومات لے کر میرے سامنے آتے ہو ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی ایک اپنی دلیل زیادہ بہتر طریقے سے بیان کرے اور میں اس کی دلیل کی روشنی میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ اور اگر دلیل کو دیکھ کر کسی کو کوئی چیز دے دوں تو وہ اس کو نہ لے کیونکہ یہ اس کے آگ کا ٹکڑا ہے۔“ یہ حدیث عام ہے تمام حقوق، عقود اور منسوخ وغیرہ کو شامل ہے پس باطن پر بھی حکم اثر انداز ہونا چاہیے البتہ ظاہر پر اس کا نفاذ قاضی کے فیصلے سے ہوگا۔ حضرات صاحبین کی دلیل مال کے بارے میں تو صریح ہے اور ہم اس کے قائل ہیں کیونکہ اموال جیسے ہبہ اور وراثت وغیرہ میں جھوٹی گواہی کی بنیاد پر قاضی کا فیصلہ اس حدیث کی رو سے نافذ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس آیت کریمہ: ”وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ“^۲ ”اپنے اموال کو آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ“ سے بھی عدم نفاذ کا حکم ثابت ہوتا ہے اور عقود اور فسوخ میں جھوٹی گواہی پر قاضی کے فیصلے کے نافذ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قاضی کو

معاملہ کے منعقد کرنے اور اسے فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہے لیکن کسی کی ملک کو دوسرے کیلئے بلا سبب ثابت کرنے کا اختیار نہیں ہے چنانچہ قاضی کو کسی بچے یا بچی کے نکاح کے انعقاد کا اختیار حاصل ہے۔ اسی طرح وہ عنین (نامرد) اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عقود کے متعلق فیصلہ دینا قاضی کے اختیار میں ہے۔ عقود و فسوخ میں قاضی کے فیصلے کو ظاہر و باطناً نافذ نہ ماننے کی صورت میں ایک خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ کسی کی جھوٹی گواہی پر قاضی نے میاں بیوی کے درمیان اگر وقوع طلاق کا حکم صادر کیا اور عورت نے دوسرے شوہر کے ساتھ جا کر نکاح کر لیا اب اگر باطناً اس کو نافذ نہ مانا جائے تو زوج اول کیلئے وہ حلال ہوگی اور ظاہر کے اعتبار سے وہ دوسرے شوہر کیلئے حلال ہوگی۔ گویا ایک وقت میں وہ دونوں کیلئے حلال ہوگی اگر اس فیصلے کو ظاہر اور باطناً نافذ مانیں گے تو یہ خرابی لازم نہیں آئے گی۔

قرض سے انکار پر قید کرنے کا حکم:

اگر کوئی شخص کسی کے قرض کا انکار کرے اور قرض اس پر ثابت ہو جائے تو ایسے مدیون کو قید کرنا واجب ہے۔ اس کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد ہے: ”للو اجد يحل عرضه وعقوبته“ ”صاحب حیثیت ٹال مٹول کرنے والے کو سزا دینا درست ہے“۔ اگر مدعی کا حق ثابت ہو جائے اور وہ مدیون کو مجبوس کرنے کا مطالبہ کرے تو قاضی اس کی درخواست پر مدیون کو مجبوس نہیں کرے گا بلکہ اس کو ادائیگی دین کیلئے کہے گا اور اس کو وقت دے گا۔ ہاں اگر ادا کرنے سے انکار کرے تو اس کو قید کر سکتا ہے کیوں کہ اس کا ظلم واضح طور پر سامنے آ گیا۔ قید نہ کرنا اس وقت ہے جب دین اس کے اقرار سے ثابت ہو۔ اگر دین کا ثبوت بذریعہ گواہ ہو تو قرض خواہ کی پہلی درخواست پر ہی اس کو جیل بھیجا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں تو وہ ظالم ہوگا قاضی اس کو فوراً دین کی ادائیگی کا حکم دے گا اور اس سے اس کی مالی حالت دریافت نہیں کرے گا ہاں اگر وہ اپنی تنگ دستی کو ثابت کرے تو اس کو آزاد کرے گا کیونکہ اس صورت میں وہ از روئے نص مہلت دینے کا مستحق ہوا ہے لہذا اس کو وقت دیا جائے گا۔ اگر مدعی کہے کہ مدیون مالدار ہے اور وہ اس کا انکار کرتا ہو اور کہے کہ میں نادار اور غریب ہوں اگر قاضی کو اس کی مالداری کا علم ہو یا اس نے مدعی سے نقد قرض لیا ہو یا اس کے ذمے دین کسی خریدی ہوئی چیز کی قیمت ہو یا بیوی کا مہر ہو یا کسی کی کفالت کی ذمہ داری لینے کی رقم ہو یا بدل خلع ہو تو قاضی اس کو قید کر سکتا ہے کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ جو کچھ اس کے قبضے میں ہے وہ باقی ہے۔ مذکورہ صورتوں کے علاوہ اسے مجبوس

نہیں کر سکتا جبکہ مدیون اپنی فقیری و ناداری کا دعویٰ کرے کیونکہ وہ اصل ہے۔
 قید کرنے کے بعد کافی مدت گزرنے کے باوجود اگر اس کا مال ظاہر نہیں ہوا اور گمان
 غالب ہو کہ اگر اس کے پاس مال ہوتا تو وہ ضرور ادا کرتا اور اس کے بارے میں قاضی کی خفیہ معلومات
 کے باوجود اس کے مالدار ہونے کا علم نہیں ہوا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ اس کی تنگ دستی ظاہر
 ہوگئی پس وہ مہلت کا مستحق ہو گیا۔ اسی طرح اگر دو گواہوں نے اس کے تنگ دست ہونے پر گواہی
 دی تو اس کو آزاد کر کے مہلت دی جائے گی۔ تنگ دستی پر ثبوت اور گواہی قید کرنے کے بعد قبول کی
 جائے گی پہلے نہیں یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ اگر اس کے مالدار ہونے پر گواہوں نے گواہی دے دی تو اس
 کی مدت جس کو بڑھا دیا جائے گا کیونکہ اس کا ظلم ثابت ہو گیا۔

البتہ مدت قید کے متعلق حضرات فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اس معاملہ کو
 قاضی کے صوابدید پر چھوڑا جائے گا کیونکہ قید کی زندگی کو برداشت کرنے اور برداشت نہ کرنے میں
 لوگ برابر نہیں ہوتے بلکہ بہت زیادہ تفاوت ہوتا ہے۔ بیوی کے نفقہ کیلئے شوہر کو قید کیا جائے گا کیونکہ
 یہ ثابت شدہ حق ہے اور وہ حق اس نے روک رکھا ہے اور کسی کے حق کو روکنا ظلم ہے اور ظلم کی سزا قید
 ہے۔ بیٹے کے قرض کی وجہ سے باپ کو قید نہیں کیا جائے گا۔ یہی حکم اجداد و جدات کا ہے یعنی پوتوں
 کے قرضوں کی وجہ سے ان کو قید میں نہیں رکھا جائے گا۔ البتہ ان پر خرچ کو روکنے کی وجہ سے ان کو مجبوس
 کیا جائے گا کیونکہ خرچہ کو روکنا ان کو ہلاک کرنا ہے۔ مریض اگر بیمار ہو جائے اور جیل میں اس کی
 تیمارداری کرنے والے موجود ہوں تو قاضی اس کو آزاد نہیں کرے گا اور اگر اس کی خدمت کرنے والا
 موجود نہ ہو تو اس کو آزاد کرے گا تاکہ ہلاک نہ ہو جائے۔

قاضی کا دوسرے علاقے کے قاضی کو بذریعہ خط معلومات فراہم کرنا:

ہر ایسے حق کے متعلق جو شبہ سے ساقط نہیں ہوتا جس میں قاضی حریفوں اور گواہوں کو جمع
 کرنے سے عاجز ہو جائے اور وہ دوسرے علاقے کے قاضی کو خط کے ذریعے اپنی کارروائی سے مطلع
 کرے تو اس کو قبول کیا جائے گا۔ اور وہ معاملات و حقوق جو شبہ سے ساقط ہوتے ہیں مثلاً حدود
 قصاص وغیرہ تو اس میں ایک قاضی کے دوسرے قاضی کے نام خط کو قبول نہیں کیا جائے گا پہلی صورت
 میں جواز کی دلیل یہ ہے کہ خط مکتوب عنہ (جس کی طرف سے خط لکھا گیا ہے) کے بالمشافہ خطاب
 اور زبانی تعبیر کے قائم مقام ہے دیکھئے! اللہ تعالیٰ کی کتاب جو رسول اللہ ﷺ پر نازل کی گئی وہ امر
 و نواہی وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کے خطاب کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح رسول اللہ ﷺ کے مکاتیب

مبارکہ جو روم و فارس کے بادشاہوں اور دوسرے شہروں کے امیروں کے نام لکھے گئے وہ خطوط آپ ﷺ کے خطاب اور زبانی حکم کے قائم مقام ہیں۔ ان کیلئے ان حکموں پر عمل کرنا واجب تھا جس طرح آپ کے خطاب مبارکہ سے حکم واجب ہوتا ہے۔ جب یہ بات ثابت ہوگی تو ایک قاضی کا خط دوسرے قاضی کے نام اس کے زبانی خطاب کے حکم میں ہے۔ مثلاً اگر گواہوں نے ایک علاقے کے قاضی کے پاس گواہی دی کہ اس شہر کے فلاں غائب شخص کے ذمہ اتنے مال ادا کرنا واجب ہے تو یہ قاضی اس علاقے کے قاضی کے نام خط لکھے گا جس میں وہ مدیون شخص موجود ہے اور اپنی ابتدائی سماعت کے متعلق اس کو لکھے گا۔ یہ شہادت کی کارروائی کو اس تک پہنچانا ہے اس وجہ سے قاضی مکتوب الیہ اس خط کو قبول کر کے اس کے متعلق فیصلہ کرے گا۔

اگر گواہی کسی حاضر شخص کی خلاف ہو تو قاضی گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر اس کی خلاف فیصلہ دے گا اور اس کو باقاعدہ تحریر میں لائے گا اور وہ ایک دستاویز ہوگی۔ اسی طرح نکاح یا دین، غصب، اور وہ امانت جس کا انکار کیا گیا ہو اور مضارب وغیرہ یہ سب فیصلے ضبط تحریر میں لائے جائیں گے کیونکہ یہ سب چیزیں ذمہ میں واجب ہوتی ہیں۔ ان کی ادائیگی ضروری ہے اور ان فیصلوں میں حریفین کے نام اور ان کے اباؤ اجداد کے نام بھی لکھے جائیں گے اس لیے کہ انسان کی پہچان اس کے اباؤ اجداد کے ماحول سے ہوتی ہے۔ اسی طرح زمین کے معاملے میں اور رجسٹری میں بھی ان کے نام اور ان کے باپ دادے کے نام درج کیے جائیں گے کیونکہ جائیداد کی پہچان اس کی حدود اربعہ کی معرفت سے ہوگی۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تمام منقولہ جائیداد میں اصل کے ساتھ اس کے اباؤ اجداد کے نام بھی لکھے جائیں گے اور اس کے اوصاف بھی تحریر ہونگے۔ مقدار کو بھی تحریر میں لایا جائے گا۔ امام اعظم کے نزدیک منقولہ جائیداد میں نام درج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان میں صرف اشارہ کر کے گواہی دینے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن فتویٰ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے۔ دستاویز کی تحریری صورت اس طرح ہوگی مدعی معدی علیہ کے نام ان کے اباؤ اجداد اور ان کے قبیلوں اور علاقوں کے نام ان کے القاب وغیرہ تحریر کیے جائیں گے۔ دادے کے نام کے بغیر تحریر ناقص شمار ہوگی وہ تمام نام درج کرنا ضروری ہیں جن کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ التباس اور اشتباہ ختم ہو جائے۔ قاضی کیلئے لازم ہے کہ جس کے نام خط تحریر کرے اس کو معتین کرے، مثلاً یوں لکھے فلاں بن فلاں کی جانب سے فلاں بن فلاں کے نام یہ مکتوب ہے۔ تاکہ مکتوب الیہ (جس کی طرف خط ارسال کر رہا ہے) معتین ہو جائے اور گواہوں کی موجودگی میں خط کو پڑھے اور خط کے مضمون کے متعلق ان کو آگاہ کرے تاکہ

جس کی وہ گواہی دیں گے اس کو وہ سمجھ بھی سکیں گے اور پھر گواہوں کی موجودگی میں ہی خط کو سر بمہر کرے تاکہ دوسرے قاضی کے پاس جا کر وہ کہہ سکیں گے یہ واقعہ فلاں قاضی کا خط ہے اور یہ اس کی مہر ہے اور اس خط کے اندر ان کے ابا و اجداد کے ناموں کے ساتھ گواہوں کے نام بھی موجود ہوں تاکہ اشتباہ کا مکمل ازالہ ہو جائے۔

قاضی اگر اپنے حکم نامے میں کسی کو متعین کر کے نہ لکھے بلکہ یوں لکھ دے کہ از فلاں بن فلاں بنام قضاة المسلمین تو اس صورت میں جس قاضی کے پاس بھی یہ تحریر پہنچے اس پر اس کو قبول کرنا لازمی ہوگا کیونکہ غیر متعین لوگوں کو مخاطب کرنا جائز ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ نے اطراف و اکناف کے لوگوں کی طرف مراسلے ارسال فرمائے اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دی حالانکہ آپ ﷺ ان کو جانتے نہیں تھے۔ جب مکتوب الیہ قاضی کے پاس مکتوب عنہ قاضی کا خط پہنچے تو وہ مدعی علیہ کو حاضر کرے اور اس کی موجودگی میں خط کو پڑھے اور جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کا اس کو پابند کرے کیونکہ اس کی خلاف حق ثابت ہو چکا ہے۔

اگر خط پہنچنے سے قبل مکتوب عنہ قاضی وفات پا جائے یا معزول کر دیا جائے یا اپنے کسی کردار کی وجہ سے عہدہ قضاء کی اہلیت کھو بیٹھے تو خط پر عمل نہیں کیا جائے گا کیونکہ خط پہنچنے کے وقت بمنزلہ خطاب کے ہوتا ہے لہذا مرنے کی وجہ سے وہ خطاب کا اہل نہ رہا اور وہ معزول ہونے یا اہلیت قضاء سے محروم ہونے کی وجہ سے عام لوگوں کی طرح ہو گیا اسی طرح مکتوب الیہ کے انتقال پر بھی خط پر عمل ختم ہو جائے گا۔ الا یہ کہ اس کے نام کے بعد لکھا ہو کہ یا اس کے علاوہ جس قاضی کو پہنچے۔ اگر حریف کا انتقال ہو جائے تو خط پر عمل در آمد ختم نہیں ہوگا کیونکہ اس کے ورثاء اس کے قائم مقام ہوں گے۔

فیصل مقرر کرنے کا حکم:

دو آدمیوں نے آپس کے جھگڑے کو ختم کرنے کیلئے کسی تیسرے شخص کو حکم (فیصلہ کرنے والا) مقرر کر لیا تو یہ جائز ہے۔ اس کے فیصلے پر عمل کرنا دونوں پر لازمی ہوگا کیونکہ دونوں نے اس کو اختیار دیا ہے لیکن فیصلہ کرنے سے قبل دونوں میں سے ہر ایک کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے مگر فیصلہ کے بعد رجوع کا حق حاصل نہیں ہوگا کیونکہ جب ایک کی رضامندی نہ رہی تو اس کی طرف سے دیا گیا اختیار بھی ختم ہو گیا لیکن حکم مقرر کرنے کی شرط یہ ہے کہ حکم (فیصلہ کرنے والا) اہل قضاء میں سے ہو کیونکہ اس کا حکم قاضی کے حکم کی طرح دونوں پر لازمی طور پر لاگو ہو جائے گا۔ لہذا حکم کو

مقرر کرتے وقت اور فیصلہ کے وقت اس کے اندر قضاء کی اہلیت کا پایا جانا ضروری ہے۔ اس حکم گواہوں کی گواہی اور اقرار وغیرہ کی مدد سے فیصلے کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ اس کے فیصلے کو اگر قاضی کے سامنے پیش کیا گیا تو قاضی کو اختیار ہوگا اگر اس کے منشاء و مذہب کے مطابق ہو تو قبول کرے ورنہ رد کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ اس لیے کہ اس کا حکم قاضی پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ قاضی کو ولایت عامہ حاصل ہے لہذا ایسے فیصلے کا حکم نافذ نہیں ہوگا جس میں گواہی کی اہلیت موجود نہ ہو۔ حدود و قصاص میں فیصلے مقرر کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ حدود شبہ کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ حریفین کو اپنے خون پر ولایت حاصل نہیں ہے۔ بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ قصاص میں تو تحکیم (فیصلے مقرر کرنا) جائز ہے لیکن حدود میں جائز نہیں ہے کیونکہ حدود حقوق اللہ میں سے ہیں لہذا ان میں تحکیم جائز نہیں ہوگی چونکہ قصاص کا اختیار رکھتے ہیں اس لیے اس میں فیصلہ کرنے کے اختیار کو دوسرے کے حوالے کر سکتے ہیں۔ چوری کی ضمان دلانے میں تو تحکیم جائز ہے لیکن ہاتھ کاٹنے میں جائز نہیں ہے۔

﴿ کتاب الشہادات ﴾

شہادت کا لغوی معنی ”یقینی خبر“ اور ”حاضر ہونے“ کے ہیں۔ اور اصطلاح شرع میں آنکھوں دیکھا حال بیان کرنے کو شہادت کہا جاتا ہے۔ کسی واقعہ کو دیکھے سنے اور سمجھے بغیر گواہی دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بھولے ہوئے واقع کو بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ کے سامنے ایک شخص کی گواہی دینے کا تذکرہ ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اما انت یا ابن عباس فلا تشهد الا علی امریضی لک کضیاء هذه الشمس“ لے ”اے ابن عباس! تم گواہی نہ دینا جب تک کہ معاملہ اس سورج کی طرح تیرے سامنے روشن نہ ہو جائے۔“

ابو مجلز کہتا ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے عرض کیا: کچھ لوگ مجھے گواہ بنانے کیلئے بلارہے ہیں مگر میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے فرمایا: ”جو کچھ تم جانتے ہو اس کی گواہی دو۔“^۱

شہادت حجت ہے:

شہادت حق کو ظاہر کرنے والی ایک حجت ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں اس کو مشروع فرمایا ہے: ”وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ“ [البقرہ: ۲۸۲] ”اور شاہد کر لو دو شاہدوں کو مردوں میں سے“ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ ”وَاسْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ“ [الطلاق: ۲] ”اور گواہ کر لو دو صاحب عدل کو آپس میں“۔ نیز حضور ﷺ کا بھی ارشاد گرامی ہے: ”البینة علی المدعی والیمن علی المدعی علیہ“ ”مدعی پر گواہ پیش کرنا لازم ہے اور مدعی علیہ پر حلف“۔ گواہی دینے میں لوگوں کے حقوق کا احیاء معاملات میں انکار کی راہوں کا انسداد اور لوگوں کے اموال کی حفاظت ہے۔

گواہی دینے کا حکم:

گواہی دینا، بعض اوقات فرض، بعض مرتبہ مکروہ اور کبھی حرام بھی ہوتا ہے۔

(۱) کسی واقعہ کے متعلق علم ہو اور مدعی اس کو گواہی کیلئے دعوت دے تو گواہی دینا فرض ہو جاتا

۱ [بیہقی: ۱۵۶/۱۰] ۲ [ترندی: ۲ ص ۳۹۹]

ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ“ [البقرہ: ۲۸۳] ”تم گواہی کو مت چھپاؤ اور جو گواہی کو چھپائے گا تو وہ دل کا گناہ گار ہوگا۔“ دوسری جگہ ارشاد گرامی ہے: ”وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا“ [البقرہ: ۲۸۲] ”نہ انکار کریں گواہ جب ان کی گواہی کیلئے بلایا جائے۔“

جب کسی واقعہ کے بارے میں گواہی کا متعلق صاحب علم کو نہ ہو اور گواہ کو صاحب حق کے حق کے فوت ہونے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں گواہ پر لازم ہے کہ وہ بلا طلب گواہی دینے کیلئے حاضر ہو۔ اس قسم کی گواہی کی حضور ﷺ نے تعریف فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے ”أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهَا“ ۱ ”کیا میں تمہیں بہترین گواہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ بہترین گواہ وہ ہے جو بلانے سے قبل حاضر ہو۔“

(۲) کبھی گواہی دینا مکروہ بھی ہوتا ہے جب صاحب حق کو علم ہو کہ فلاں شخص گواہ ہے پھر بھی وہ اس کو گواہی دینے کیلئے نہ بلائے اور گواہ خود چل کر گواہی دینے کیلئے حاضر ہو جائے کیونکہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: ”ان خير کم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم“ ۲ ”بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں پھر ان کے بعد آنے والے پھر ان کے بعد آنے والے پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو بن بلائے گواہی دیں گے جو خیانت کریں گے امانتداری سے عاری ہوں گے وعدہ خلافی کریں گے ایفاء عہد نہیں کریں گے اور ان میں موٹا پانا ظاہر ہوگا۔“

(۳) بعض دفعہ گواہی دینا حرام بھی ہو جاتا ہے جب گواہ کسی واقعہ میں موجود نہ ہو اور نہ ہی اس کے متعلق اس نے کچھ سنا ہو اور نہ ہی وہ اس کے متعلق کسی طرح کی کوئی معلومات رکھتا ہو۔ یہ درحقیقت جھوٹی گواہی ہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”الا انبئکم باکبر الکبائر“ ”کیا میں تمہیں سب گناہوں سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟“۔ یہ الفاظ آپ ﷺ نے تین مرتبہ ارشاد فرمائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ ﷺ! ضرور بتلا دیجئے، فرمایا: ”الا شراک باللہ، و عقوق الوالدین“ ”اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا“۔ آپ ﷺ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کر

بیٹھ گئے فرمایا: ”الا وقول الزود“ ”سنو! جھوٹ بولنا“۔ ان الفاظ کو آپ ﷺ بار بار بار دہراتے رہے حتیٰ کہ ہم نے کہا کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں۔^۱

حدود میں گواہی کا حکم:

حدود میں گواہ کو اختیار ہے چاہے حکام کے سامنے گواہی دے چاہے خاموش رہے۔ دونوں صورتوں میں وہ آزمائش میں ہے کیونکہ بتانے کی صورت میں ایک حکم الہی (حد) کا قیام ہوتا ہے اور خاموشی کی صورت میں ایک مسلمان رسوائی سے بچتا ہے۔ حد کو قائم کرنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور نیک نیتی سے ایک مسلمان کی پردہ پوشی باعث اجر و ثواب ہے بلکہ کسی کی ہتک عزت سے اس کی پردہ پوشی افضل ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ہزال (جس نے ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کو لاکر اس کے خلاف گواہی دی تھی) سے فرمایا: ”لو سترتہ بشوبک کان خیراً لک“^۲ ”اگر تم اپنے کپڑے سے اس کو چھپاتے تو تیرے لیے بہتر تھا“۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ومن ستر مسلماً سترہ اللہ یوم القیامۃ“^۳ ”جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔“

واجب الحد شخص کو تلقین کرنا:

شارع علیہ السلام نے اس بات کو مستحب قرار دیا ہے کہ جس پر حد واجب ہوگئی ہو اس کو ایسی تلقین کی جائے کہ جس سے وہ ایسی بات کہہ دے کہ اس پر حد نہ لگ سکے اور اقرار سے رجوع کر لے۔ حد کے معاملے میں قاضی کو چاہیے کہ جلد بازی سے کام نہ لے۔

حضور ﷺ حد سراقہ کرنے کیلئے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کو تلقین فرماتے رہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”لعلک قبلت او غمزت او نظرت“ ”ہو سکتا ہے تم نے اس کو بوسہ دیا ہو یا ہاتھ لگایا ہو یا اس کی طرف دیکھا ہو“۔ انہوں نے کہا! نہیں آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم نے اس کے ساتھ جماع کیا ہے؟ انہوں نے کہا! ہاں! اس وقت آپ ﷺ نے رجم کا حکم صادر فرمایا۔ حضرت ماعز رضی اللہ عنہ اگر اس وقت ”لا“ (نہیں) کہہ دیتے تو حد سے بچ جاتے۔

ایک مرتبہ آپ ﷺ نے ایک چور (جس نے چوری کا اعتراف کیا تھا) سے فرمایا: مجھے نہیں لگتا کہ تم نے چوری کی ہے۔ چور نے کہا! کیوں نہیں! آپ ﷺ نے دو تین بار یہ الفاظ دہرائے اس نے یہی جواب دیا۔ تب آپ ﷺ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔^۴

۱ [بخاری: ۵۲۲] ۲ [ابوداؤد: ۴ ص ۱۳۴]

۳ [الترمذی: ۴/۴۴۰] ۴ [ابوداؤد: ۴ ص ۱۳۴]

حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی ایک مرتبہ ایک چور کو حد سے بچانے کیلئے کچھ الفاظ تلقین فرمائے۔ مصنف ابی شیبہ میں عکرمۃ بن ابی خالد کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک چور کو پیش کیا گیا جس نے چوری کا اعتراف کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں ایک شخص کا ہاتھ دیکھ رہا ہوں جو چور کا ہاتھ نہیں ہے۔ چور نے کہا: اللہ کی قسم: میں چور نہیں ہوں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا اس کا ہاتھ نہیں کاٹا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ”شراحة الہمدانیۃ“ کو حد سے بچنے کیلئے حیلہ کی تلقین فرمائی۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ ”شراحة الہمدانیۃ“ کو لایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا ممکن ہے کہ تجھ پر کوئی شخص گرا ہو اور تم سوئی ہوئی ہوگی، کہنے لگی: نہیں، پھر فرمایا: ہو سکتا ہے کہ تجھ پر کسی نے زبردستی کی ہو؟ کہنے لگی: کہ نہیں ایسی بات بھی نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ تلقین کرتے رہے کہ شاید وہ نعم (جی ہاں) کہہ دے۔ ابو معطر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص کو لایا گیا اور عرض کیا گیا کہ اس نے ایک شخص کا اونٹ چوری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا: مجھے نہیں لگتا کہ تم نے چوری کی ہے اس نے کہا: کیوں نہیں، پھر فرمایا: ہو سکتا ہے کہ تجھے شبہ ہو گیا ہو اس نے کہا ”نہیں“ بلکہ میں نے چوری کی ہے۔ فرمایا: اے قنبر! اس شخص کو لے جاؤ، آگ جلاؤ اور قصاب کو بلاؤ میرے آنے تک اس کے باندھے رکھو پھر اس کے پاس آ کر فرمایا: کیا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے چوری نہیں کی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امارت کے زمانے میں ان کی خدمت میں ایک چور کو لایا گیا آپ نے اس سے فرمایا کیا تم نے واقعی چوری کی ہے؟ کہہ دو نہیں، کہہ دو نہیں، دو یا تین مرتبہ ان الفاظ کو دہرایا۔

حدود میں عورتوں کی گواہی:

زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے ”نصب الراية“ میں حضرت امام الزہری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث نقل فرمائی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک اور حضرات خلفاء راشدین کے ادوار سے آج تک یہ بات چلی آرہی ہے کہ حدود میں عورتوں کی گواہی جائز نہیں ہے۔ امام شعبی ”امام ابراہیم نخعی“ حضرت حسن بصری اور امام ضحاک وغیر حضرات کے نزدیک بھی حدود میں عورتوں کی گواہی مقبول نہیں ہے۔ امام بیہقی نے ابراہیم نخعی سے نقل کیا ہے کہ ان کے نزدیک حدود اور طلاق میں عورتوں کی گواہی

جائز نہیں ہے۔ طلاق کا معاملہ حدود سے اشد ہے لیکن حنیفہ کے نزدیک مشہور قول طلاق کی بجائے قصاص کا ہے۔ یعنی قصاص اور حدود میں عورتوں کی گواہی جائز نہیں ہے۔

گواہی کی مراتب:

گواہی کے چار مراتب ہیں۔ (۱) زنا میں گواہی دینا، (۲) حدود و قصاص میں گواہی دینا (۳) حدود و قصاص کے علاوہ امور میں گواہی دینا، (۴) ولادت، بکارت اور عورتوں کے ان عیوب کے بارے میں گواہی دینا جن پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے۔

(۱) زنا کے متعلق گواہی دینا:

اس میں چار مردوں کی گواہی قابل قبول ہے عورتوں کی گواہی قبول نہیں ہے۔ اس کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے۔ ”وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ“ [النساء: ۱۵] ”اور وہ عورتیں کہ آتی ہیں بے حیائی کو عورتوں تمہاری سے۔ پس گواہ مانگو اوپر ان کے چار گواہ اپنے میں سے۔“ دوسری جگہ ارشاد ہے: ”وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً“ [النور: ۴] ”اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامنوں کو پھر نہیں لاتے چار گواہ بس مارو ان کو اسی کوڑے۔“

حدود میں عورتوں کی گواہی مقبول نہ ہونے کی دلیل امام زہری کی یہ روایت ہے وہ فرماتے ہیں: حضور اقدس ﷺ اور حضرات خلفاء کے زمانے سے یہ سنت جاری ہے کہ حدود میں عورتوں کی گواہی جائز نہیں ہے۔ گواہی دینے والے چار گواہ شہادت کے الفاظ سے گواہی دیں گے جس کی تفصیل آگے آرہی ہے اور زنا کے فعل کو صریح الفاظ میں بیان کریں گے۔ اور کہیں گے کہ ہم نے دیکھا کہ فلاں شخص نے زنا کیا جیسے اپنی سلائی کو سرمہ دانی میں داخل کیا یا کہے جیسے اس نے رسی کو کنوئیں میں داخل کر دیا۔

(۲) حدود و قصاص کے متعلق گواہی دینا:

اس میں دو مردوں کی گواہی مقبول ہوگی اور حدود و قصاص میں بھی عورتوں کی گواہی مقبول نہیں ہوگی۔ لواطت کے بارے میں گواہی دینے کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس میں دو عادل مردوں کی گواہی مقبول ہوگی اور حضرات صاحبین کے نزدیک زنا کی طرح اس میں بھی چار مرد کا ہونا ضروری ہے۔ چار سے کم کی گواہی مقبول نہیں ہوگی۔

(۳) حدود و قصاص کے علاوہ دیگر حقوق میں گواہی دینا:

حدود کے علاوہ دوسرے حقوق میں دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی بھی مقبول ہوگی۔ خواہ وہ حق مال کی صورت میں ہو یا کچھ اور ہو مثلاً نکاح، طلاق، وکالت، وصیت وغیرہ۔ اس کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے: "وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَان لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدَهُمَا فِتْدَكِرَّ اِحْدَاهُمَا الْاٰخِرَىٰ" [البقرہ: ۲۸۲] "اور گواہ کر لو دو گواہوں کو مردوں اپنے سے۔ پس اگر نہ ہوں دو مرد پس ایک مرد اور دو عورتیں ان میں سے کہ پسند کرتے ہو تم گواہوں میں سے۔ اگر ہو یہ کہ بھول جاوے ایک ان میں سے پس یاد دلا دے ایک ان دو میں سے دوسری کو۔"

(۴) ولادت و بکارت اور عورتوں کے ان عیوب کے متعلق گواہی دینا

جن پر عورتیں ہی مطلع ہو سکتی ہیں:

ایسے امور میں ایک عورت کی گواہی بھی مقبول ہوگی۔ اس کی دلیل امام زہری کی روایت ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں: ولادت وغیرہ امور میں ایک عورت کی گواہی کے جواز کی سنت جاری ہے۔ اس طرح ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں۔ صرف عورتوں کی گواہی مقبول نہیں۔ مگر ان امور میں صرف عورتوں کی گواہی مقبول ہوگی جن کی اطلاع مردوں کو نہیں ہوتی مثلاً حمل، حیض وغیرہ اور دیگر امور۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے پیدائش کے وقت بچے کی آواز نکالنے اور زندہ پیدا ہونے کے سلسلے میں ایک عورت کی گواہی کو جائز قرار دیا ہے اور اس کو مقبول مانا ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے راجح قول کے مطابق ایک عورت کی گواہی سے ایسا بچہ میراث کا مستحق ہوگا۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک ان امور کے متعلق چار عورتوں کی گواہی مقبول ہوگی جن سے صرف عورتیں ہی مطلع ہو سکتی ہیں، مرد نہیں ہو سکتے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا مسلک اس مسئلہ میں حضرات حنفیہ کے مطابق ہے۔ رضاعت کی گواہی میں دو مردوں کی گواہی مقبول ہوگی یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس سے مرد بھی مطلع ہو سکتے ہیں کیونکہ فقہاء نے لکھا ہے ذی رحم محرم کیلئے عورت کے پستان کی طرف دیکھنا جائز ہے لہذا وہ دودھ پلانے کے عمل کو دیکھ سکتا ہے۔

گواہی کے صحیح ہونے کی شرائط:

گواہی کے صحیح ہونے کی چار شرطیں ہیں۔ (۱) گواہوں کا عادل ہونا۔ (۲) شہادت کے الفاظ سے گواہی دینا۔ (۳) آزاد ہونا۔ (۴) مسلمان ہونا۔

(۱) گواہی کی پہلی شرط گواہوں کا عادل ہونا ہے خواہ حدود و قصاص کا معاملہ ہو یا دوسرے حقوق کا۔ ارشاد خداوندی ہے: ”وَ اَشْهَدُوا ذَوٰی عَدْلٍ مِّنْكُمْ“ [الطلاق: ۲] ”اپنے میں سے عادل لوگوں کو گواہ بناؤ“۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: ”فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّ اِمْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ“ [البقرہ: ۲۸۲] پس اگر نہ ہوں دو مرد پس ایک مرد اور دو عورتیں ان میں سے کہ پسند کرتے ہو تم گواہوں میں سے۔“

فاسق کی گواہی مقبول نہیں ہے کیونکہ حاکم یا قاضی گواہوں کی گواہی پر اعتماد کر کے فیصلہ کرتا ہے اور حکم کو نافذ کرتا ہے پس ضروری ہے کہ حاکم کے ذہن میں اس فیصلے کے درست ہونے کا غالب گمان ہو۔ اور ایسا گواہوں کے عادل ہونے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور عدل کی بہترین تفسیر یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو اور صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنے والا نہ ہو اور اس کے اندر اصلاح کا پہلو نمایاں طور پر موجود ہو۔ بعض نے عادل کی تفسیریوں کی ہے کہ اس کے پیٹ اور شرم گاہ کے متعلق کوئی شخص اس پر انگلی نہ اٹھا سکتا ہو یعنی اس پر حرام خوری اور حرام کاری کا الزام نہ لگا سکے۔ جو شخص حرام خوری اور حرام کاری سے بچ گیا اس کے ملحقات سے بھی بچ سکتا ہے۔

(۲) گواہی کے صحیح ہونے کی دوسری شرط گواہی کی ادائیگی ”شہادت“ کے الفاظ کے ساتھ ہو اس کی دلیل یہ فرمان الہی ہے۔ ”وَ اَسْتَشْهَدُوْا“ یہ طلب شہادت میں صریح ہے۔ لہذا گواہ کیلئے شہادت کے الفاظ استعمال کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ گواہ اگر شہادت کے الفاظ استعمال نہ کرے اور یوں کہہ دے کہ مجھے یقین ہے کہ معاملہ ایسا ہے یا کہہ دے کہ اس معاملے کو میں جانتا ہوں تو یہ گواہی مقبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ“ [النور: ۶] ”پس گواہی ایک کی ان میں سے چار بار گواہیاں۔“

(۳) صحت شہادت کی تیسری شرط: حریت و آزادی ہے کیونکہ شہادت دراصل دوسروں پر کچھ لازم کرنے کا نام ہے۔ جبکہ غلام خود اپنے نفس کا مالک نہیں تو دوسروں پر کیا اثر انداز ہو سکتا ہے۔

(۴) صحت شہادت کی چوتھی شرط مسلمان ہونا ہے اس کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے۔
 ”وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا“ [النساء: ۱۳۱] ”اور ہرگز نہ
 کرے گا اللہ واسطے کافروں کے اوپر مسلمانوں کے راہ۔“

کیا حاکم اور قاضی گواہوں کے عادل ہونے کے متعلق کچھ دریافت کر سکتا

ہے:

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے: قاضی گواہ کے ظاہری اسلام کی بنیاد پر بھروسہ
 کرے گا اس کی عدالت کے متعلق نہیں پوچھے گا۔ الا یہ کہ مد مقابل اس پر جرح کرے تو اس کے
 متعلق دریافت کرے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ایک خط میں لکھا تھا ”
 تمام مسلمان عادل ہیں (ان کی گواہی مقبول ہے)۔ الا یہ کہ وہ محدود فی القذف (تہمت لگانے کی
 بناء پر حد یافتہ) ہو یا جھوٹی گواہی دینے کا عادی ہو یا قریبی رشتے دار ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پوشیدہ اور
 باطنی معاملات کو جانتا ہے۔“

ایک مسلمان کے اندر عدالت و پرہیزگاری ہی اصل ہے اور فسق ایک امیر عارض ہے جو
 درجہ گمان میں ہوتا ہے پس اصل کو محض گمان کی بناء پر ترک نہیں کیا جائے گا۔ البتہ قاضی حدود و قصاص
 کی گواہی کے متعلق گواہوں سے پوچھ گچھ کر سکتا ہے اگرچہ اس کا مد مقابل ان پر طعن نہ بھی کرے
 کیونکہ حاکم حدود و قصاص کیلئے کوئی تدبیر کرتا ہے اور اس بارے میں ایک گواہ کا مذکر ہونا کافی ہوگا۔ زنا
 کی گواہی کیلئے بھی چاروں گواہوں کا مذکر ہونا ضروری ہے۔

حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ قاضی حدود و قصاص کے علاوہ دیگر
 معاملات میں بھی گواہوں کی تنقیح کر سکتا ہے۔ ان کی عدالت کے متعلق سوال کر سکتا ہے کیونکہ صحیح فیصلے
 کرنے کیلئے اسے محتاط ہونا چاہیے اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب گواہوں کے متعلق مکمل معلومات
 اسے حاصل ہوں۔ ظاہری طور پر بھی اور خفیہ طور پر بھی اور فتویٰ بھی صاحبین کے قول پر ہے کیونکہ فی
 زمانہ جھوٹ کی کثرت ہے۔ حضرات صاحبین کے دور میں جھوٹ بولنے کا رواج ہو گیا تھا اس لیے
 انہیں ضرورت پڑی کہ گواہی کی خوب چھان بین کریں۔ حضرت امام صاحب کے دور میں جھوٹ
 بولنے کا رواج نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ضرورت نہ تھی۔ اگر امام صاحب صاحبین کے زمانے میں
 موجود ہوتے تو وہ بھی یہ فتویٰ دیتے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حاکم پر لازم ہے کہ وہ گواہوں

کے متعلق ہر چھ مہینے کے بعد خفیہ معلومات حاصل کرتا رہے کیونکہ بعض دفع اتنے عرصہ میں انسان پر ایسی حالت آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے گواہی کی اہلیت سے محروم بھی ہو جاتا ہے۔

گواہ بننا:

گواہ بننے کی دو صورتیں ہیں: پہلی صورت وہ ہے کہ جس کا حکم بنفسہ ثابت ہوتا ہے دوسری صورت وہ کہ جس کا حکم بنفسہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔

حکم کے بنفسہ ثابت ہونے کی مثال بیع، اقرار، غصب اور قتل وغیرہ ہے جو از قبیل حقوق و عقود ہوں چنانچہ جو کچھ اس نے سنا اس کی گواہی دے جبکہ معاملہ کا تعلق سننے سے ہو۔ جیسے بیع اور اقرار وغیرہ۔ اگر معاملہ کا تعلق دیکھنے سے ہو تو جو کچھ اس نے دیکھا ہے اس کی گواہی دے مثلاً غصب، قتل وغیرہ۔ گواہ دیکھے اور سنے بغیر گواہی نہ دے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا تھا: ”اما انت یا ابن عباس فلا تشهد الا علی امریضی لک کضیاء ہذہ الشمس“^۱ ”حضور ﷺ نے سورج کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ”اے ابن عباس! جب تک کوئی معاملہ اس سورج کی روشنی کی طرح تیرے سامنے واضح نہ ہو اس وقت تک اس کے متعلق گواہی نہ دے۔“

گواہی دیتے وقت یوں کہے ”میں شہادت دیتا ہوں کہ اس نے فروخت کیا ہے“ اگر بیع کا معاملہ اپنے سامنے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا بلکہ پردے کے پیچھے (ایجاب و قبول) کو سنا تو اس کیلئے وقوع بیع کی گواہی دینا جائز نہیں ہے۔ اگرچہ واقعہ کی پوری تفصیل بھی قاضی کے سامنے بیان کر دے تب بھی قاضی کیلئے اس کو قبول کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے کے آوازیں ایک دوسری کے مشابہ ہو سکتی ہیں لیکن اگر معاملہ سننے کے بعد گھر میں داخل ہو جائے اور اس میں متعاقدین کے علاوہ اور کوئی موجود نہ ہو اور اس کو شہادت کے الفاظ سے تعبیر کر کے گواہی دے تو قبول ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اس صورت میں اس کو یقین حاصل ہو گیا کہ متعاقدین یہی ہیں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر گواہ پردے کے پیچھے چھپے ہوئے ہوں اور ایک شخص دوسرے کیلئے مال کا اقرار کرے تو ان گواہوں کی گواہی قبول ہوگی بشرطیکہ یہ اقرار کرنے والے کے چہرے کو پہچانتے ہوں۔ اور اگر چہرہ دیکھے بغیر محض اس کی آواز کو سنا ہو تو پھر ان کیلئے گواہی دینا جائز نہیں ہوگا۔ الا یہ کہ انہیں یقین ہو کہ گھر میں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے تو پھر گواہی دینا جائز ہوگا۔

وہ گواہی جس سے حکم بنفسہ ثابت نہیں ہوتا اس کی مثال شہادت علی الشہادت ہے۔ اس گواہی سے حکم بنفسہ ثابت نہیں ہوتا البتہ عدالت میں اسے نقل کرنا درست ہے۔ کسی گواہ کو گواہی دیتے ہوئے سن کر اس پر گواہی دینا جائز نہیں ہے کیونکہ نیابت موجود نہیں ہے لیکن اگر وہ اس کو اس گواہی پر گواہ بنائے اور اسے گواہی دینے کو کہہ دے تو یہ اس کا نائب ہوگا تب اس کے لئے گواہی دینا جائز ہوگا۔ گواہ کو چاہیے کہ جب تک اسے واقعہ پوری طرح یاد نہ ہو اس کی گواہی نہ دے۔ قاری اور راوی حدیث کا بھی امام صاحب کے نزدیک یہی حکم ہے کیونکہ خط دوسرے خط کے مشابہ ہو سکتا ہے۔ اگر واقعہ تحریری صورت میں اس کے پاس محفوظ ہو اور اس پر اس کے دستخط ثبت ہوں تو واقعہ یاد نہ ہونے کی صورت میں بھی گواہی دینا جائز ہے کیونکہ اس صورت میں واقعہ میں کمی بیشی کا امکان نہیں ہے۔ واقعہ کو مشاہدہ کیے بغیر گواہی دینا درست نہیں ہے اس لیے کہ شہادت مشاہدہ سے مشتق ہے لہذا دیکھے بغیر گواہی دینا درست نہیں ہے البتہ چند امور اس سے مستثنیٰ ہیں جن امور میں مشاہدہ کے بغیر بھی قابل اعتماد شخص کی گواہی جائز ہے۔ مثلاً نسب، موت، نکاح اور دخول وغیرہ ان اشیاء میں یہ گنجائش موجود ہے کہ ان کے متعلق باوثوق (قابل اعتماد) دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں بتادیں جن کے کہنے سے یقین ہو جائے تو گواہی دینا جائز ہو جائے گا۔ بعض علماء نے کہا کہ کسی کی موت کی خبر ایک مرد کے کہنے پر دی جاسکتی ہے البتہ ادائیگی گواہی کے الفاظ لفظ شہادت سے ہوں گے۔

گواہی پر گواہی دینا:

شہادت علی الشہادت ان تمام معاملات و حقوق میں جائز ہے جو شبہ سے ساقط نہیں ہوتے اور وہ حقوق جو شبہ سے ساقط ہوتے ہیں وہ حدود اور قصاص ہیں۔ شبہ کی وجہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے اور قصاص بھی ساقط ہو جاتا ہے اور جو حقوق شبہ کی وجہ سے ساقط نہیں ہوتے وہ بہت زیادہ ہیں۔ لوگوں کے حقوق کے احیاء کے پیش نظر شہادت علی شہادت کو قبول کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ گواہ اپنی کسی مجبوری مثلاً بیماری، سفر یا موت کی وجہ سے گواہی دینے سے قاصر رہتا ہے پس اگر اس کی اجازت نہ ہو تو لوگوں کے حقوق تلف ہوں گے۔ اس کے جواز کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے جسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے ارشاد مبارک یہ ہے: "تسمعون ویسمع منکم وسمیع من سمع منکم"۔

مسروق اور قاضی شریح کہتے ہیں کہ حد میں شہادۃ علی الشہادۃ جائز نہیں ہے۔ طاؤس اور

عطاء بن ابی رباحؓ کے نزدیک بھی یہی حکم ہے کہ حد میں گواہی پر گواہی جائز نہیں۔
ایک شخص کی گواہی پر ایک کی گواہی:

ایک گواہ پر ایک گواہ کی گواہی مقبول نہیں ہوگی کیونکہ ایک گواہ کی گواہی سے حجت قائم نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ثبوت حق کیلئے نصاب کا ہونا ضروری ہے (جو کم از کم دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں) لہذا اس کی گواہی پر دوسروں کی گواہی ضروری ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ دو آدمیوں کی گواہی پر دو آدمیوں کی گواہی دو گواہوں کی گواہی پر دو مرد یا ایک مرد اور عورتوں کی گواہی جائز ہے کیونکہ گواہی دینا منجملہ حقوق میں سے ہے اور یہاں پر دو آدمیوں نے کسی حق پر گواہی دی پھر دوسرے حق دو نے گواہی دی ہے لہذا ایسی گواہی مقبول ہوگی اس لیے دو گواہوں کی دو قسم کے حقوق پر گواہی دینا جائز ہوتا ہے۔

گواہی پر گواہی دینے کے الفاظ:

گواہی پر گواہی دیتے وقت اس طرح کہے گا کہ ”میں فلاں کو اپنی گواہی پر گواہ بنا تا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ فلاں شخص نے میرے پاس فلاں کیلئے اتنے مال کا اقرار کیا ہے“ اور جس کو گواہ بنایا گیا ہو وہ گواہی دیتے وقت یوں کہے گا۔ ”میں شہادت دیتا ہوں کہ فلاں نے اپنی شہادت (گواہی) پر مجھے گواہ بنایا ہے کہ فلاں نے فلاں کیلئے اتنے مال کا اقرار کیا ہے۔“

امام خصاص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ شہادت کے الفاظ آٹھ مرتبہ دہرائے اور وہ نائب یوں کہے گا کہ ”میں شہادت دیتا ہوں کہ فلاں نے اپنی شہادت (گواہی) پر مجھے شاہد (گواہ) بنایا ہے اور یہ شہادت (گواہی) دی ہے کہ فلاں نے اس کے سامنے فلاں کیلئے اتنے مال کا اقرار کیا ہے۔ میں اس کے اقرار پر شاہد (گواہ) ہوں اور مجھ سے کہا ہے کہ تم میری شہادت (گواہی) پر شاہد (گواہ) رہو اور میں اس کی شہادت (گواہی) دیتا ہوں۔“

صاحب ”الدر“ نے کہا ہے کہ مختصر الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ ”میں فلاں کو فلاں واقعہ میں اپنی شہادت (گواہی) پر گواہ بنا تا ہوں“ اور دوسرا گواہی دیتے وقت یوں کہے کہ ”میں فلاں کی فلاں شہادت پر گواہ ہوں۔“ مگر اس دوسرے گواہ کی گواہی جیسی مقبول ہوگی جب اصل گواہ کا عدالت میں حاضر ہونا دشوار ہو گیا ہو اور یہ دشواری موت، مرض یا سفر کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اصل کی عدم موجودگی کی صورت میں فرع (نائب) کی گواہی قبول ہوگی۔ اصل گواہ کی بیماری ایسی ہو کہ جس

کی وجہ سے وہ عدالت میں حاضر نہ ہو سکتا ہو اور سفر سے بھی وہ سفر مراد ہے جس سے شرعی احکام تبدیل ہوتے ہوں اور اگر اصل گواہ گواہی دینے سے بلا وجہ انکار کرے تو نائب کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔

گواہوں کا تعارف مکمل کیسے ہوگا:

گواہ کا تعارف باپ، دادا اور اس کے خاص قبیلہ کے ذکر سے مکمل ہو جاتا ہے۔ عام قبیلے کو ذکر کرنے سے تعارف کامل نہیں ہوتا کیونکہ عام قبیلہ بہت سارے لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے خاص قبیلے کا ذکر تعارف کامل کیلئے ضروری ہے۔ اسی طرح باپ دادا کے نام ذکر کرنا بھی ضروری ہے اس لیے کہ عام طور پر لوگوں کے نام ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن انسان اور اس کے باپ اور دادا کے ناموں میں اشتراک بہت کم ہوتا ہے۔ اس لیے دادا کے نام سے کامل تعارف ہو سکتا ہے۔ صرف شہر یا پیشے کی طرف منسوب کرنا ناقص تعارف ہے جب تک باپ دادا اور قبیلے کے اسماء ذکر نہ کیے جائیں۔ اصل گواہوں کی طرح نائب گواہوں کی تعدیل اور ان کا تزکیہ (بھی ان کے متعلق مکمل چھان بین) بھی ضروری ہے۔

گواہی کا دعویٰ کے مطابق اور مخالف ہونے کے اثرات:

گواہی کا دعویٰ کے مطابق ہونا ضروری ہے لفظاً بھی موافق ہو اور معنی بھی۔ گواہی کا صرف معنی کے لحاظ سے موافق دعویٰ ہونا بھی معتبر ہے۔ دعویٰ سے قبل کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر گواہی اور دعویٰ میں عدم مطابقت پائی جائے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ دو گواہوں کی گواہی آپس میں مختلف ہو تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایک گواہ نے ایک ہزار اور دوسرے نے دو ہزار کی گواہی دی تو یہ گواہی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگی۔ کیونکہ ان کی گواہیوں میں لفظی اختلاف پایا جاتا ہے جو معنوی اختلاف پر دلالت کرتا ہے۔ کیوں کہ ایک ہزار کا مفہوم دو ہزار کے مفہوم کے مخالف ہے۔ اور حضرات صاحبین فرماتے ہیں ایک ہزار میں ان کی گواہی قبول کی جائے گی۔ یہی حکم ہوگا جب ایک نے پندرہ سو اور دوسرے نے ایک ہزار کی گواہی دی ہو۔ ایک طلاق اور دو طلاقوں کا حکم اسی اختلاف پر مبنی ہے لیکن اگر مذکورہ مسائل میں وہ مدعی کم کے وجوب کا دعویٰ کرے تو ان تمام مسائل میں گواہی مقبول نہ ہوگی۔ کیونکہ مدعی اس طرح ایک گواہ کو جھٹلا رہا ہے۔

اگر دو گواہ ایک گائے کے چوری ہونے کی گواہی دیں اور اس کا رنگ بتانے میں اختلاف کریں تو یہ گواہی مقبول ہوگی ان کی گواہی سے چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا لیکن اگر مادہ اور نر میں مختلف گواہی دیں تو چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائیگا۔ یہ قول امام صاحب کا ہے جبکہ صاحبین دونوں مسئلوں میں

ہاتھ نہ کاٹنے کے قائل ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ گواہوں کے مختلف بیانات سے شبہ پیدا ہو گیا اور حدود و شبہ سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ ایک گائے دو رنگوں کی ہو سکتی ہے ہر ایک نے جو رنگ دیکھا اس کی گواہی دے دی۔ نر اور مادہ کی گواہی اس کے خلاف ہے کیونکہ ایک گائے میں یہ دونوں صفات جمع ہونا ممکن نہیں ہے۔

مثال: دو گواہوں میں سے ایک نے گواہی دی کہ زید کو عید کے دن مکہ میں قتل کر دیا گیا دوسرے نے گواہی دی کہ زید کو عید کے دن مدینہ میں قتل کر دیا گیا تو یہ گواہی رد کی دی جائے گی کیونکہ ان میں سے ایک کا جھوٹا ہونا یقینی ہے۔ لیکن یہ معلوم نہیں کہ کون جھوٹا ہے لہذا دونوں مشکوک ہو گئے لہذا دونوں کی گواہی قابل رد ہوگی۔ ایک نے پہلے گواہی دی جس کی بنیاد پر فیصلہ دے دیا گیا پھر دوسرے نے آ کر اس کے خلاف گواہی دی تو دوسرے کی گواہی رد کی جائے گی کیونکہ پہلی گواہی کو فیصلے میں ترجیح حاصل ہوگئی ہے۔

گواہوں پر جرح:

مدعی علیہ اگر مدعی کے گواہوں پر جرح کرے اور کہہ دے کہ یہ لوگ گواہی کے اہل نہیں بلکہ فاسق ہیں اور اپنے دعوے پر گواہ بھی لائے تو قاضی اس کی طرف التفات نہیں کرے گا اور اس کا فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ اپنے طور پر خفیہ اور علانیہ گواہوں کے متعلق معلومات حاصل کرے گا۔ اگر قاضی کی اپنی تحقیق اور چھان بین سے گواہوں کا اہل ہونا ثابت ہو گیا تو ان کی گواہی کو قبول کر کے فیصلہ دے گا اور اگر وہ گواہی کی اہلیت سے محروم ثابت ہوئے تو ان کی گواہی رد کر دے گا۔

جھوٹی گواہی دینے والے کا حکم:

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینے والے کو اس کے علاقے اور اس کے بازار میں مشتہر کیا جائے گا کہ یہ شخص جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ تم لوگ اس سے بچتے رہو اور دوسروں کو بھی اس سے بچاؤ۔ حضرت قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ جھوٹی گواہی دینے والے کو بازار میں لے جاتے اور لوگوں کو جمع کر کے لوگوں کو اس کے متعلق بتاتے کہ یہ شخص جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ جھوٹی گواہی دینے والا مرد ہو یا عورت اس کی یہی سزا ہے۔ البتہ اس کو مار کر متنبہ نہیں کی جائے گی، مقصود تنبیہ ہے اور یہ مقصد مذکورہ عمل سے حاصل ہو جاتا ہے بلکہ بعض اوقات وہ مار سے بھی زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے۔

سوال: اگر جھوٹی گواہی دینے والا توبہ کر لے تو کیا اس کی گواہی کسی معاملے میں مقبول

ہوگی؟

جواب: اس کے دو جواب ہیں: پہلا جواب یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی فاسق ہونے کی وجہ سے دی تھی اور پھر فسق سے توبہ کر لی تو اس کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا کیونکہ توبہ کی وجہ سے فسق جاتا رہا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر وہ مستور الحال ہے یعنی اس کے فاسق ہونے اور نہ ہونے کا علم نہیں ہے تو فیصلوں میں اس کی گواہی ہرگز مقبول نہیں ہوگی۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک توبہ کے بعد اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول فتویٰ پر ہے۔

جھوٹی گواہی دینے والے کو بازار میں مشہور کرنے کی سزا جب دی جائے گی جب اس نے جان بوجھ کر جھوٹی گواہی دی ہو اور اس کا جھوٹ گواہوں سے واضح ہو جائے۔ اگر غلطی سے غلط بیانی کی تو اس کو مذکورہ سزا نہیں دی جائے گی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جھوٹی گواہی دینے والے کو مارنے اور قید کرنے کی سزا دینا بھی درست ہے تاکہ وہ اپنی غلطی سے توبہ کر لے جب کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مارنے اور قید کرنے کی سزا نہیں دی جائے گی۔

کن لوگوں کی گواہی قبول نہیں ہوگی؟:

(۱) نابینے کی گواہی قبول نہیں ہوگی اسی طرح نابینا شخص کو قاضی بنانا بھی درست نہیں ہے کیونکہ گواہی دیتے وقت اشخاص کے درمیان فرق اور امتیاز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ نابینا شخص جس کے حق میں گواہی دے رہا ہے یا جس کے خلاف گواہی دے رہا ہے ان دونوں کے درمیان امتیاز کرنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ وہ تو صرف آوازوں کے ذریعے سے پہچان سکتا ہے جبکہ آوازیں ایک دوسری کے مشابہ ہو سکتی ہیں۔ اگر گواہی دینے کے بعد فیصلے سے قبل نابینا ہو گیا تب بھی امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ کیونکہ فیصلے کے وقت گواہی کی اہلیت کا موجود ہونا ضروری ہے۔ یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے گواہ فیصلے سے پہلے گونگ یا مجنون یا فاسق ہو جائے تو گواہی باطل ہو جاتی ہے۔

(۲) محدود فی القذف (تہمت لگانے کی وجہ سے سزایافتہ) کی گواہی قبول نہیں ہوگی اگرچہ توبہ بھی کر لے کیونکہ ارشاد خداوندی ہے: ”وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا“ [النور: ۴] اور ”مت قبول کرو ان کی شہادت کبھی بھی“۔ اور ”الَّذِينَ تَابُوا“ [البقرہ: ۶۱] میں استثناء کا تعلق ”وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ“ [النور: ۴] سے ہے۔

(۳) والد کی گواہی بیٹے کیلئے قبول نہیں ہوگی اسی طرح دادے پڑدادے کی گواہی پوتے پڑپوتے کیلئے قبول نہیں ہوگی بیٹے پوتے اور پڑپوتے کی گواہی باپ دادے اور پڑدادے کے حق میں قبول نہیں ہوگی کیونکہ منافع اولاد اور اباؤ اجداد کے مابین متصل اور مشترک ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اپنی اپنی زکوٰۃ ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے یعنی اصول (اباؤ اجداد) فروع (اولاد) کو اور فروع اصول کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ رضاعی بیٹے کی گواہی رضاعی باپ کے حق میں اور رضاعی باپ کی گواہی رضاعی بیٹے کے حق میں قبول کی جائے گی۔ کیونکہ منافع ان کے درمیان مشترک و متصل نہیں ہیں۔

اولاد اباؤ اجداد کے اجزاء ہیں اس کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد گرامی ہے: ”فاطمة بضعة منی“ فمن اغضبها فقد اغضبنی“^۱ ”فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔“ یعلیٰ بن منیہ اشقی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ حضور ﷺ تک پہنچنے کیلئے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہوئے خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے حضور اقدس ﷺ نے ان کو گلے لگا کر فرمایا: ”ان الولد منجلة مجبنة محزنة“^۲ ”اولاد بخل بزدلی اور حزن کا سبب ہوتی ہے۔“ جب بیٹا باپ کا جزو قرار پایا تو فطری بات ہے کہ باپ بیٹے پر مہربان ہوتا ہے اور بیٹا باپ پر لہذا ان کی ایک دوسرے کے حق میں گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔

(۴) میاں بیوی کی گواہی بھی ایک دوسرے کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ ان کے فوائد و منافع ایک ہیں گویا یہ گواہی خود اپنے حق میں دینے کے مترادف ہے۔

(۵) ایک شریک کی گواہی شراکت کے معاملات میں دوسرے شریک کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ شراکت کے معاملے کے علاوہ دوسرے امور میں ایک دوسرے کیلئے ان کی گواہی مردود نہیں ہوگی کیونکہ اس میں تہمت کا اندیشہ نہیں ہے۔ اسی طرح تعصب پھیلانے والے کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس نے ایک حرام فعل کا ارتکاب کیا ہے تعصب کے حرام ہونے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کیسے ہو سکتا؟ جبکہ ارشاد خداوندی ہے: ”إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ“ [المحجرات: ۱۰]

امام عبدالرزاق نے اپنے مصنف میں قاضی شریح مسند کا قول نقل فرمایا ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں اور باپ کی بیٹے کیلئے قبول نہیں ہوگی نہ ہی بیوی کی گواہی اپنے شوہر کیلئے

اور شوہر کی بیوی کے حق میں قبول ہوگی اسی طرح دو شریکوں کی گواہی شراکت کے معاملے میں ایک دوسرے کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی نہ ہی اجیر کی گواہی اپنے مستاجر کے حق میں اور غلام کی گواہی اپنے آقا کے حق میں قبول ہوگی۔

(۶) نوحہ کرنے والی عورت کی گواہی بھی نامقبول ہے، گانا گانے والی اور اس طرح شاعر جو اپنے اشعار میں لوگوں کی جھوٹی تعریف کرتا ہو ان کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی۔ کیونکہ جھوٹی تعریف کرنا شرعی لحاظ سے غلط ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے سامنے ایک شخص کی تعریف کی گئی تو حضور ﷺ نے فرمایا: ”ویحک قطع عنق صاحبک“ ”تیرا ناس ہو تو نے اپنے صاحب کی گردن کاٹ دی“۔ آپ ﷺ یہ الفاظ بار بار دہراتے رہے پھر فرمایا کہ اگر تعریف کرنا ہی ہے تو یوں کہیے کہ میرے خیال میں وہ ایسا ایسا ہے۔

شاعر اپنے اشعار کے ذریعے کسی کی تعریف کرنا چاہے تو ان صفات سے تعریف کرے جو موصوف کے اندر واقعی موجود ہوں۔ اگر جھوٹی تعریف کرے گا تو وہ مردود الشہادۃ ہوگا کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”آیۃ المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، واذا وعدا خلف، واذا اتمن خان“^۱ ”منافق کی تین علامتیں ہیں اگر بولے تو جھوٹ بولے، اگر وعدہ کرے تو وعدہ کی خلاف ورزی کرے اور اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے“۔ مخنت کی گواہی بھی نامقبول ہے کیونکہ خود کو عورت جیسا بنانے والا فاسق ہے لیکن اگر اس کی آواز میں قدرتی طور پر نرمی ہو اور اعضاء بھی خلقت کمزور ہوں تو وہ مردود الشہادۃ نہیں ہوگا بلکہ اس کی شہادت قبول ہوگی گانے والی بھر مردود الشہادۃ ہے کیونکہ اس نے آواز بلند کر کے فسق کا ظہور کیا ہے۔ اور فاسق بھی مردود الشہادۃ ہوتا ہے۔

پیشہ ورنوحہ کناں جو کسی کے مرنے پر اس لیے روتا ہے کہ لوگ رونے پر اس کو کوئی چیز پیش کریں گے وہ بھی اس کے مثل ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے صاحبزادے حضرات ابراہیم رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے دیکھا کہ وہ جان کنی کے عالم میں ہے۔ حضور ﷺ نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا اور رونے لگے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: آپ نے رونے سے منع نہیں فرمایا تھا؟ فرمایا: نہیں لیکن میں نے دو فاجرا حقوں کی آوازوں سے منع کیا تھا۔ ایک وہ آواز جو مصیبت کے وقت چہرہ نوح کر گریبان پھاڑ کر اور شیطان کی طرح چیخ چیخ کر ہو۔^۲

حضرت عبدالرحمن بن غنم کہتے ہیں کہ ابوما لک اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ”لیکونن فی امتی اقوام یستحلون الحر والحریر، والخمر والمعارف۔ الحدیث“^۱ ”میری امت میں ایسے لوگ ضرور آئیں گے جو نوحہ کرنے، ریشم پہننے اور شراب پینے اور آلات موسیقی کو حلال سمجھیں گے“۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور فرمایا: ”ان ربی حرم علی الخمر والمیسر والکوبۃ والقنین“ ”بے شک میرے رب نے مجھ پر شراب اور جوئے کو اور ڈھول بجائے اور دف کو حرام قرار دیا ہے“۔

نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن عمر نے باجے کی آواز سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور فرمایا: ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ نے اسی طرح کی آواز سن کر اسی طرح کیا تھا جس طرح میں نے کیا۔^۲

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ دف حرام ہے، گانا باجے اور ڈھول بجانا حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا: ”یأیہا الذین آمنوا إنما الخمر والمیسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشیطن فاجتنبوه لعلکم تفلحون“ [المائدہ: ۹۰] ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو؟ سوائے اس کے نہیں کہ شراب اور جو انام بتوں کے اور تیر فال کے ناپاک ہیں کام شیطان کے۔ پس بچو اس سے تاکہ تم فلاح پاؤ“۔ انہوں نے فرمایا کہ تورات میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق نازل فرمایا تاکہ اس کے ذریعے باطل کو مٹا دے اس کے ذریعے لہو لعب کو باطل قرار دے ڈھول باجے گانے اور دف کو حرام قرار دے۔ ایک روایت میں مزید ہے کہ (اس حق کے ذریعے) تصاویر، شعر و شاعری اور شراب کو حرام فرمادے۔ جس نے ان چیزوں کو چکھا اس کیلئے سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ جس نے اس کو پیا قیامت کے دن میں اس کو ضرور پیسا رکھوں گا اور جس نے اس کو حرام جان کر اس سے احتراز و اجتناب کیا تو اس کو جنت کے حوض سے پلاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گانا بجانا دل میں منافقت کی ایسی آبیاری کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو تقویت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں ایمان کو اس طرح پیدا کرتی ہے جس طرح پانی کھیتی کو آگاتا ہے۔

اس آیت کریمہ ”وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ“ [لقمان: ۶] کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا تو فرمایا: ”لهو الحدیث“ سے مراد گانا اور اس جیسی چیزیں

ہیں۔ امام مجاہد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ”لہو الحدیث“ خریدنے سے مراد گانے بجانے والوں کو پیسہ دے کر ان سے گانا بجانے کا عمل کرانا ہے چنانچہ گانا گانا اور اس کو سننا سب حرام اور باطل ہیں۔

(۷) شراب خور کی گواہی بھی مردود ہے کیونکہ شراب خوری فسق ہے اور فاسق گواہی کی اہلیت سے محروم ہے اسی طرح فاسق کی گواہی بھی مردود ہے۔ البتہ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص تنہائی میں وحشت کو دور کرنے اور اپنے دل کو بہلانے کیلئے گانا گائے تو کوئی گناہ نہیں ہے جب تک کہ گانے میں عورت کی صفات اور حرام باتیں شامل نہ ہوں۔

روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گننا رہے ہیں اور بڑے ترنم کے ساتھ کچھ گارہے ہیں۔ حضرت ابن عوف نے گھر کے دروازے پر دستک دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور فرمایا: عبدالرحمن تم نے میری آواز کو سنا؟ فرمایا جی ہاں! میں نے آپ کی آواز کو سنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم تنہائی میں اشعار پڑھا کرتے تھے تمہیں یاد ہے کہ ہم کیا پڑھا کرتے تھے؟ عبدالرحمن نے کہا کہ نہیں فرمایا میں تو یہ کہا کرتا تھا۔

لم یبق من شرف العلاء الا التعرض للخیوف

فلا رمین بمہجتی بین الا سنة والسیوف

(۸) گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی گواہی کا اہل نہیں ہے۔ گناہ کبیرہ وہ بڑا گناہ ہے جس کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہو اور اس کے ارتکاب پر سزا مقرر ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کبار

کل سات ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق قتل کرنا، یتیم کے مال کو ظلماً کھانا، سود کھانا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، جھوٹی قسم کھانا۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: گناہ کبیرہ نو ہیں مذکورہ سات کے علاوہ ایک ہے جھوٹی گواہی دینا اور دوسرا ہے زنا کرنا یا جھوٹی گواہی دینا یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہونا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کبار کی تعداد کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا وہ تقریباً ستر تک پہنچتے ہیں۔ بعض حضرات کی رائے کے مطابق وہ سترہ ہیں ان میں سے چار کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور وہ یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا انکار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اصرار کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہونا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا۔ اور چار کا تعلق زبان سے ہے اور وہ یہ ہیں زبان سے کفریہ الفاظ بکنا، جھوٹی گواہی دینا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا اور جھوٹی قسم کھانا۔ تین کا تعلق پیٹ سے ہے اور وہ

یہ ہیں: سود کھانا، یتیم کے مال کو ناحق طریقے سے کھانا اور شراب پینا اور دو کا تعلق شرم گاہ سے ہے اور وہ یہ ہیں: زنا کرنا اور لواطت کرنا۔ اور دو کا تعلق ہاتھ کے ساتھ ہے قتل کرنا اور چوری کرنا۔ اور ایک کا تعلق پاؤں کے ساتھ ہے اور وہ ہے میدان جنگ سے بھاگ نکلنا۔ ایک کا تعلق پورے بدن اور جسم سے ہے اور وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ اسی طرح جادو کرنا، بلا وجہ گواہی کو چھپانا، بلا عذر رمضان میں روزے نہ رکھنا، رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرنا، جان بوجھ کر نماز ترک کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، قرآن کریم کو یاد کر کے بھلا دینا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہنا، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، رشوت وصول کرنا، کسی مسلمان کو ناحق مارنا، بیوی کا بلا وجہ اپنے شوہر کو اپنے اوپر قابو نہ دینا، مردار کھانا، اضطراری حالت کے علاوہ خنزیر کا گوشت کھانا، حالت حیض میں بیوی کے ساتھ جماع کرنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، جھوٹ بولنا، نوحہ کرنا، حسد کرنا، تکبر کرنا، استطاعت و قدرت کے باوجود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنا، غربت کے خوف سے اولاد کو قتل کرنا اور وصیت کے معاملہ میں ظلم کرنا اور مسلمانوں کی تحقیر کرنا یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر وہ گناہ جس پر اللہ تعالیٰ کی وعید سنائی ہے وہ

کبیرہ ہے۔

گناہ صغیرہ یہ ہیں: غیر محرم کی طرف دیکھنا، اس کو چھونا، بوسہ دینا، ایک مسلمان سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرنا، مسجد میں خرید و فروخت کرنا، نماز میں فضول حرکتیں کرنا، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کیلئے صفیں پھلانگنا، خطبہ جمعہ کے وقت گفتگو کرنا، قبلہ کی طرف رخ کر کے بول و براز کرنا، مسلمانوں کی گذرگاہ میں پاخانہ کرنا، مشیت زنی کرنا، غیر محرم کے ساتھ خلوت نشینی کرنا، عورت کا غیر محرم کے ساتھ سفر کرنا، غبن کرنا، کسی کے خرید و فروخت کے معاملہ میں دخل اندازی کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، عیب دار چیز عیب بتائے بغیر فروخت کرنا، کسی کے منگیتر کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کرنا، اکڑ کر چلنا، اوقات مکروہ میں نماز پڑھنا، غیبت سننا اور اس میں خاموش رہنا، ظہار والی بیوی کے ساتھ کفارہ ادا کرنے سے پہلے ہم بستری کرنا، تنبیہ: جان لیجئے صغیرہ پر اصرار اور اس کو بار بار کرنے سے وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔

(۹) حرام خور کی شہادت مردود ہے کیونکہ حرام خوری اور سود رشوت وغیرہ بھی فسق ہے اور فاسق

مردود الشہادۃ ہے

(۱۰) چوسر لڈو کھیلنے والے کی گواہی بھی مقبول نہیں ہے کیونکہ علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے چنانچہ

مسلم شریف میں روایت ہے ”من لعب بالنرد فکانما صبغ یدہ فی لحم خنزیر و

دمہ“۱۔ ”جو زرد کھیل کھیلے گویا اس نے اپنے ہاتھ کو خنزیر کے گوشت اور خون سے ملوث کیا۔“ اسی طرح جو شخص زرد چوسر، تاش وغیرہ کے ذریعے جو بازی کرتا ہو وہ بھی مردود الشہادۃ ہے کیونکہ جو احرام ہے اور حرام کا مرتکب فاسق ہے اور فاسق کی گواہی مردود ہے اگر شطرنج اور دوسرے کھیل بغیر جوئے بازی کھیلے اور اس میں فحش گوئی اور ترک نماز نہ ہوتی ہو تو مردود الشہادۃ نہیں ہوگا اور مذکورہ امور کے ساتھ شطرنج کھیلنا گواہی کی اہلیت سے محروم کر دیتا ہے اسی طرح ہر وہ عمل جو نماز سے غافل کر دے وہ ممنوع ہے اور جو ہے۔ قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو عمل بھی یاد الہی اور نماز سے غافل کر دے وہ جو ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”اصدق کلمۃ قالها الشاعر کلمۃ لبید الا کل شی ما خلا اللہ باطل“۲۔ ”سب سے سچی بات جو شاعر نے کہی ہے وہ لبید (شاعر) کا یہ قول ہے: سنو: اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔“

(۱۱) اس طرح ناپسندیدہ افعال کے مرتکب شخص کی گواہی بھی مقبول نہیں ہے۔ مثلاً لوگوں کے

سامنے بغیر پردے کے بول و براز کرنا، صرف شلو اور پہن کر راستے میں چلنا، اسی طرح ہر وہ فعل جو مروت کے خلاف ہو جائز نہیں ہے۔ جیسے کوئی گالی گلوچ کا عادی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اخذ نوالہ، فبئس ابن العشیرۃ“ ”اسے اندر آنے کی اجازت دو یہ شخص اپنے قبیلہ کا برا آدمی ہے۔“ جب وہ حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نرم انداز میں گفتگو فرمائی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کے متعلق کچھ اور فرمایا تھا مگر اب اس کے ساتھ گفتگو میں نرم انداز اختیار فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا عائشہ! ”ان شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه او تركه الناس اتقاء فحشه“۳۔ ”عائشہ! قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین درجہ والا وہ ہوگا جس کی فحش گوئی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔“

(۱۲) حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین کو گالی دینے والا بھی مردود الشہادۃ ہے۔ اسی طرح اعراض

کرتے ہوئے نماز جمعہ ترک کرنے والا بھی گواہی کا اہل نہیں ہے کیونکہ بلا عذر جمعہ کی نماز ترک کرنا فسق ہے اور فاسق کی گواہی قبول نہیں ہوتی، اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والے کی گواہی بھی مقبول نہیں ہوگی، اسی طرح جھوٹ بولنے کا عادی شخص بھی مردود الشہادۃ ہے لیکن

۱۔ [مسلم: ۳ ص ۱۷۷۰] ۲۔ [صحیح بخاری: ۱۳۰۴] ۳۔ [مسلم: ۳ ص ۲۰۰۲]

اگر جھوٹ بولنے کا عادی نہ ہو بلکہ اس نے کسی وجہ سے جھوٹ بولا ہو اور بھلائی اس کے اندر غالب ہو تو گواہی اس کی مقبول ہوگی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ہارون الرشید کے وزیر نے قاضی ابو یوسف کے پاس حاضر ہو کر گواہی دی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی گواہی کو قبول نہیں فرمایا۔ ہارون الرشید نے امام صاحب سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس کی گواہی قبول نہیں فرمائی، میں تو اس کے اندر خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھتا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اگر وہ اپنے قول میں سچا ہے تو غلام کی گواہی غیر مقبول ہے، اگر جھوٹا ہے تو جھوٹ بولنے والا گواہی کا اہل نہیں۔

(۱۳) کبوتر بازی کرنے اور دیگر پرندوں کے ذریعہ بازیاں لگانے والا بھی شہادت کا اہل نہیں

ہے۔ ہاں پرندوں کو فروخت کرنے والا ان سے جو انہ کھیلنے والا مردود الشہادۃ نہیں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو اپنے کبوتر کا پیچھا کرتے دیکھ کر فرمایا: ”شیطان يتبع شیطاناً“ ”شیطان شیطان کا پیچھا کر رہا ہے“۔

کون لوگ مقبول الشہادۃ ہیں؟:

(۱) ان شعراء کی گواہی مردود نہیں ہوگی جو لوگوں کو تکلیف پہنچانے ان کی ہجو اور برائی بیان کرنے میں معروف نہ ہوں۔

(۲) ایک مسلمان کی گواہی دوسرے مسلمان کے حق میں مقبول ہے۔

(۳) ایک شخص کی گواہی اس کے بھائی اور اس کے چچا کے حق میں مقبول ہوگی کیونکہ بھائی بھائی اور چچا بھتیجے کے منافع جدا جدا ہوتے ہیں اس میں تہمت کا اندیشہ نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ

نے روایت کیا ہے کہ قاضی شرف رحمۃ اللہ علیہ بھائی کی گواہی کو قبول فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھائی کی بھائی کیلئے گواہی کو صحیح اور جائز قرار دیا۔

(۴) ولد الزنا کی گواہی بھی مردود نہیں ہوگی۔ حضرت عطاء اور شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ”المؤمنون شهداء اللہ فی الارض“ ”مسلمان زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں“۔

(۵) مزاح کرنے والا جو اپنے مزاح میں حد تجاوز نہ کرتا ہو جو کسی کے نسب اور عزت پر حملہ نہ کرتا

ہو کسی پر تہمت نہ لگاتا ہو اس کی گواہی بھی مردود نہیں ہوگی چنانچہ حضرت عوف بن مالک

اجتماعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے ایک خیمہ کے اندر تشریف فرما تھے۔ میں خیمہ کے باہر بیٹھ گیا اور سلام عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب دیا، فرمایا: ”عوف اندر آ جاؤ“ میں نے عرض کیا میں مکمل طور پر اندر آ جاؤں یا آدھا؟ فرمایا: مکمل، تو میں اندر داخل ہوا۔

(۶) عید کے دن کھیل کود جائز ہے، اس دن لہو لعب کرنے والے شخص کی گواہی مردود نہیں ہوگی۔

حضرت عقبہ ابن عامر الجعفی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کل شئی یلہو بہ الرجل باطل، الا رمی الرجل بقوسہ، و تادیبہ فرسہ، و ملاعبتہ امراتہ فلہن من الحق“^۱ ”ہر وہ کھیل جو انسان کو غفلت میں ڈالے باطل ہے مگر اپنی کمان سے تیر اندازی کرنا، اپنے گھوڑے کو سدھانے کیلئے کھیلنا، اپنی بیوی کے ساتھ ملاعبت کرنا باطل نہیں ہے کیونکہ یہ ان کے حقوق میں سے ہے۔“

حضرت عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میرے پاس دو لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں جنگ لعات کے متعلق اشعار گا رہی تھی اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بستر پر لیٹ گئے اور چہرہ انور کو پھیر لیا، اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور مجھے ڈانٹنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شیطانی آواز؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”دعہما“ ان کو اپنی حالت پر چھوڑ جب وہ خاموش ہو گئے تو میں نے ان کو اشارے سے جانے کو کہا تو وہ چلی گئیں۔

ایک مرتبہ عید کے دن سوڈان کے کچھ لوگ آلات حرب کے ساتھ کھیل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: تم انہیں دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے عرض کیا ہاں میں دیکھنا چاہتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر دیا، میرا رخسار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے برابر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جا رہے تھے: ”وانکم یا نبی ارفدہ“ حتی کہ جب میں (دیکھ دیکھ کر) اکتا گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، فرمایا: تو پھر اندر چلی جاؤ۔^۲

(۷) شطرنج کھیلنے والے شخص کی گواہی بھی مردود نہیں ہوگی، بشرطیکہ ”یاد الہی سے غافل نہ ہو، نماز ترک نہ کرنے اور اس پر جھوٹی قسم نہ کھائے اور جو بازی کیلئے نہ کھیلے اسی طرح تاش وغیرہ کھیلنے کی عادت نہ بنائے ایک دو مرتبہ کھیلنے سے مردود الشہادۃ نہیں ہوگا ہاں اگر عادی ہو جائے تو گواہی اس کی قبول نہیں ہوگی۔

شہادت سے رجوع کرنا:

اس کا ایک رکن ایک شرط اور ایک حکم ہے۔ اس کا رکن تو گواہ کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنی گواہی سے رجوع کیا یا یہ کہنا کہ میں نے جھوٹی گواہی دی تھی۔ یہ بات عدالت کے روبرو کہنا شرط ہے اور اس کا حکم اس پر قاضی کی طرف سے سزا کا مقرر کیا جانا ہے۔ چاہے وہ قاضی کے فیصلے سے پہلے رجوع کرے یا بعد میں۔ اگر گواہی مال کے متعلق ہو اور رجوع قاضی کے فیصلے کے بعد ہو تو بدنی سزا کے ساتھ مالی جرمانہ بھی اس پر ڈال دیا جائے گا۔

رجوع کے معاملے میں اصل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ مکتوب ہے جس کو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے نام لکھا تھا کہ ”سابقہ فیصلے کے متعلق اگر معلوم ہو کہ وہ غلط تھا تو اس سے رجوع کرنے میں کوئی چیز بھی تیرے لیے رکاوٹ نہ بنے تاکہ حق حقدار کو پہنچے کیونکہ حق ثابت شدہ ہے۔ باطل میں مبتلا ہونے کے بجائے حق کی طرف رجوع کرنا زیادہ بہتر ہے۔“ گواہ کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح ہے کیونکہ جھوٹی گواہی سے رجوع کرنا باطل سے رجوع کر کے حق کی طرف آنا ہے۔ شاہد (گواہ) اپنی شہادت کے ذریعے مشہود علیہ (جس کی خلاف گواہی دی) کے مال کو ضائع کرنے کا سبب بنتا ہے۔ پس اگر بلا عوض اس کی ملکیت کو زائل کرے تو سارے مال کا ضامن ہوگا اور اگر مشہود علیہ سے اس کی ملکیت بالعوض زائل کی ہو تو اگر وہ عوض اس کے مثل ہو تو اس پر ضمان نہ ہوگا اور اگر عوض اس مال سے کم ہو جو مال اس کی شہادت (گواہی) کے سبب اس کی ملکیت سے خارج ہوا ہے تو نقصان کا ضامن ہوگا۔

شہادت سے رجوع کرنے کی شرط:

عدالت کے علاوہ دوسری جگہ رجوع کا اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ اس میں قاضی کے فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کیلئے قاضی کے روبرو کہنا ضروری ہے۔ اگر قاضی کے فیصلے سے قبل اپنی شہادت سے رجوع کر لیا تو شہادت ساقط ہوگی۔ کیونکہ حق ثابت ہی قاضی کے فیصلے سے ہوتا ہے اور قاضی کے فیصلے کی بنیاد شہادت پر ہے اور شہادت تضاد پایا جانے کی وجہ سے ساقط ہوگی۔ اگر قاضی کے فیصلے کے بعد رجوع کر لیا تو فیصلہ کو منسوخ نہیں کیا جائے گا کیونکہ صدق و کذب کے احتمال میں شہادت اور رجوع عن الشہادت دونوں برابر ہیں۔ مگر شہادت کی بنیاد پر فیصلہ قاضی کے حکم سے مستحکم ہو گیا پس شہادت سے رجوع کی وجہ سے اس کو منسوخ نہیں قرار دیا جائے گا۔ ہاں یہ ہوگا کہ گواہ اس

چیز کے ضامن ہوں گے جن کی گواہی کی وجہ سے وہ مال تلف ہوا۔ مثلاً دو گواہوں نے عدالت کے روبرو گواہی دی کے مدیون اپنا قرض دائن کو ادا کر چکا ہے یا یوں شہادت دی کہ صاحب حق نے اپنا حق (دین) معاف کر دیا۔ قاضی نے اس شہادت کو بنیاد بنا کر مدیون کی برات کا حکم دیا۔ قاضی کے فیصلے کے بعد گواہوں نے اپنی گواہی سے رجوع کر لیا تو گواہ اس کے ضامن ہوں گے جب کہ مشہود لہ مشہود علیہ سے قرض وصول کر لے کیونکہ قرض کی ملکیت قبضہ سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اگر کسی کیلئے مال کی گواہی دی قاضی نے فیصلہ سنا دیا مدعی نے فیصلہ کے مطابق مال پر قبضہ کر لیا پھر گواہوں نے گواہی سے رجوع کر لیا تو جس کے خلاف انہوں نے گواہی دی تھی اس کے مال کا تاوان دیں گے۔ کیونکہ اس کے ہاتھ سے مال ان کی گواہی کی وجہ سے نکلا ہے اس کا سبب یہ لوگ بنے ہیں اور یہ چیز ضمان کا موجب ہے۔ مدعی پر تاوان نہیں ڈالا جائے گا کیونکہ حکم اور فیصلہ کو منسوخ نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی قاضی اس کا تاوان بھرے گا کیونکہ اس نے تو گواہوں کی شہادت کی بنیاد پر فیصلہ دیا اور اگر قاضی کو مورد الزام ٹھہرائیں گے اس کو ضامن قرار دیں گے تو آئندہ قضاء کیلئے کوئی شخص تیار ہی نہ ہوگا۔

دو گواہوں نے ایک قطعہ اراضی کے متعلق گواہی دی کہ یہ فلاں شخص کی ملکیت ہے جس پر قاضی نے فیصلہ سنا دیا۔ اس کے بعد گواہوں نے اپنی گواہی سے رجوع کر لیا تو فیصلہ منسوخ نہیں ہوگا اور دونوں گواہ اس کا تاوان ادا کریں گے۔ زمین کی قیمت ادا کرنا ان کی ذمہ داری ہوگی۔ چاہے مشہود لہ (جس کے حق میں گواہی دی گئی) نے زمین پر قبضہ کیا ہو یا نہ کیا ہو کیونکہ وہ زمین کے صرف فیصلے سے ہی مالک بنا ہے۔

اگر دو گواہوں میں سے ایک نے رجوع کیا ایک نے نہیں کیا تو جس نے رجوع کیا ہے اس کے ذمہ نصف تاوان ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اگر گواہی تین آدمیوں نے دی تھی پھر ان میں سے ایک نے رجوع کر لیا تو اس پر تاوان نہیں ہے کیونکہ دو کی شہادت سے سارا حق باقی ہے۔ اگر ان میں سے دو نے رجوع کیا اور ایک نے نہیں کیا تو رجوع کرنے والوں پر نصف تاوان ادا کرنا لازم ہوگا۔ اگر ایک مرد اور دو عورتوں نے شہادت دی ان میں ایک عورت نے رجوع کر لیا تو وہ ایک ربع ۱/۴ تاوان ادا کرے گی اگر دونوں نے رجوع کیا تو نصف تاوان بھریں گے اور اگر دو مرد اور ایک عورت نے گواہی دی پھر سب نے اس سے رجوع کر لیا تو تاوان صرف مردوں کا پر آئے گا اس لیے کہ عورت کے علاوہ دو مردوں کی گواہی سے حق ثابت ہو چکا ہے۔

اگر دو گواہوں نے گواہی دی کہ فلاں شخص نے اپنی بیوی کو قبل از دخول طلاق دی ہے پھر گواہوں نے رجوع کیا تو وہ نصف مہر ادا کریں گے کیونکہ ان کی گواہی سے اس شخص پر آدھا مہر لازم

ہو گیا جس کے سقوط کا احتمال بھی تھا کیونکہ اگر مطالبہ طلاق عورت کی طرف سے ہوتا تو پھر شوہر پر کچھ بھی واجب نہ ہوتا لیکن اگر طلاق دینے کی گواہی ہم بستری کے بعد ہو تو گواہوں پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ کیونکہ مہر کا وجوب دخول سے ہو گیا تھا اور ملک بضعہ کی ملکیت سے نکلتے وقت کوئی قیمت نہیں ہے لہذا اس کے بدلے کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر نائب گواہ شہادت دینے کے بعد رجوع کر لیں تو ضامن بھی وہی ہوں گے کیونکہ قاضی کی عدالت میں انہوں نے گواہی دی ہے اور فیصلہ انہی کی گواہی پر ہوا ہے لہذا ضامن بھی وہی ہوں گے۔

نائب گواہوں کی شہادتوں سے فیصلہ سنانے کے بعد اصل گواہ یہ کہہ دیں کہ ہم نے ان لوگوں کو گواہ نہیں بنایا ہے تو بھی اصل گواہوں پر تاوان نہیں آئے گا وہ نائب گواہ ہی ضامن ہوں گے کیونکہ اصل گواہوں نے تو گواہ بنانے سے ہی انکار کر دیا لیکن پھر بھی فیصلے کو منسوخ قرار نہیں دیا جائے گا۔ ہاں اگر فیصلہ سے قبل اصل گواہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو ہم نے گواہ نہیں بنایا ہے تو اس سے نائب کی گواہی باطل ہوگی۔ اور ان کی بنیاد پر فیصلہ نہیں دیا جائے گا اور اگر نائب گواہوں نے کہا کہ وہ (اصل گواہ) جھوٹ بول رہے ہیں انہوں نے ہمیں گواہ بنایا ہے تو ان کی بات کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا ان کے قول سے حکم منسوخ نہیں ہوگا اور ان پر ضمان بھی واجب نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے اپنی شہادتوں سے رجوع نہیں کیا ہے۔ اگر گواہوں کے اہل ہونے کی گواہی دینے والوں نے فیصلے کے بعد اپنے قول سے رجوع کر لیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ ضامن ہوں گے کیونکہ انہوں نے ہی گواہوں کو گواہی کا اہل قرار دیا تھا کیونکہ اس سے پہلے وہ محل شک پر تھے۔

دو گواہوں نے گواہی دی کہ فلاں شخص نے اپنی بیوی کی طلاق کو فلاں گھر میں داخل ہونے کے ساتھ معلق کیا ہے اور پھر دو گواہوں نے گواہی دی کہ وہ عورت فلاں گھر میں داخل ہو گئی ہے قاضی نے طلاق کا حکم نامہ صادر کیا۔ پھر پہلے گواہوں نے کہا کہ ہم نے غلط گواہی دی تھی اس نے اپنی بیوی کی طلاق کو گھر میں داخل ہونے کے ساتھ معلق نہیں کیا تھا۔ جو گواہ اس کا سبب بنے ہیں یعنی تعلق کے گواہ تاوان ان کے ذمہ ہوگا۔ دوسرے گواہوں پر نہیں ہوگا جنہوں نے نہ شرط کے پائے جانے کی گواہی دی تھی۔

﴿ کتاب الحجر ﴾

حجر کا لغوی معنی روکنا اور منع کرنا ہے۔ پتھر کو بھی اس کی سختی کی وجہ سے حجر کہتے ہیں اور شریعت کی اصطلاح میں ”حجر“ مخصوص اوصاف کی وجہ سے مخصوص چیزوں پر پابندی لگانے کو کہا جاتا ہے۔

پابندی کے اسباب:

حجر (پابندی) کے تین سبب ہیں (۱) صغر (نابالغ ہونا) (۲) مجنون ہونا (۳) غلام ہونا۔ نابالغ بچہ اور مجنون اپنے امور درست طریقے سے انجام نہیں دے سکتے اور اپنے فائدے اور نقصان کی پہچان بھی نہیں رکھتے لہذا مجنون اور ایسے بچے کا تصرف جو معاملات سے بالکل واقف نہ ہو عدم اہلیت کی بنا پر جائز نہیں ہے۔ اور وہ بچو جو سمجھدار ہو فائدہ اور نقصان کی پہچان رکھتا ہو تو سرپرست کی اجازت سے تصرف کر سکتا ہے کیونکہ اس کے سرپرست کا اجازت دینا اس بات کی دلیل ہے وہ تصرف کرنے کا اہل ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کو تصرف کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتا اور مجنون کا تصرف کسی طرح بھی جائز نہیں ہے اگرچہ اس کو تصرف کی اجازت دی گئی ہو جبکہ وہ ہمیشہ جنون کی کیفیت میں رہتا ہو۔ ہاں اگر کبھی جنون طاری ہوتا ہو اور کبھی ہوش میں بھی رہتا ہو تو اس کا تصرف جائز ہے۔ لہذا بچے اور مجنون کا معاملات کرنا اقرار کرنا اور طلاق دینا وغیرہ وغیرہ ناقابل اعتبار ہے ہاں اگر کسی چیز کو تلف کر دیں تو ضامن ہوں گے تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو اور ضمان و تاوان قصداً ارادے کے بغیر بھی واجب ہو جایا کرتا ہے جیسا کہ سونے والے کا جرم کرنا اس پر تاوان کو لازم کرتا ہے۔ اسی طرح مجنون ہے کیونکہ اتلاف جو ضمان کا سبب ہے اس میں موجود ہے البتہ حدود و قصاص ان پر نہیں ہوگا کیونکہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبر وعن الصبي حتى يكبر“ ”دو تین آدمیوں سے قلم اٹھالیا گیا ہے ایک سونے والے سے یہاں تک کہ بیدار ہو جائے دوسرا بیمار سے یہاں تک کہ ٹھیک ہو جائے اور بچہ سے یہاں تک کہ بڑا ہو جائے“۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مجنونہ کو لایا گیا جس نے زنا کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ مشورہ کے بعد حضرت عمر نے اسے سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ اس کو سنگساری کیلئے لے جا رہے تھے راستے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے آنا سامنا ہوا فرمایا اس کا کیا معاملہ ہے اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا: اس کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے۔ یہ مجنونہ ہے اور اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو سنگسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا: اس کو واپس لے چلو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے فرمایا: آپ کو معلوم نہیں تین اشخاص مرفوع القلم ہیں۔ (۱) مجنون جب تک ہوش میں نہ آجائے (۲) خوابیدہ شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو (۳) اور بچہ جب تک سمجھدار نہ ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: واقعی ایسا ہی ہے حضرت علی نے فرمایا تو پھر اس مجنونہ کو رجم کرنے کا حکم کیسا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو چنانچہ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ پھر آپ نے نعرہ تکبیر لگایا۔ ان لوگوں میں سے اگر کوئی خرید و فروخت کا معاملہ کرے اور اس کے فائدہ و نقصان کو سمجھتا ہو تو اس کے سر پرست کو اختیار ہے چاہے وہ اس کی اجازت دے اگر اس میں مصلحت اور بہتری سمجھتا ہو اور چاہے تو فسخ کر دے کیونکہ ان کے معاملات ولی کی اجازت پر موقوف ہوتے ہیں کیونکہ نقصان کا بھی احتمال موجود ہے اگر وہ اس میں مصلحت دیکھے تو اجازت دے سکتا ہے۔ اگر ہنسی مزاح میں معاملہ کیا تو سر پرست کی اجازت کے باوجود اس کا معاملہ درست نہ ہوگا۔

حد بلوغ:

لڑکے کے بالغ ہونے کا حکم اس کے احتلام یا احبال (عورت کو حاملہ کرنا) یا انزال یا سن شعور سے لگایا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ”وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ“ [الانعام: ۱۵۲] ”اور مت نزدیک جاؤ مال یتیم کے مگر؟ اس طرح کہ جو بہت اچھا ہو یہاں تک کہ پہنچے جوانی اپنی کو“۔ یہ قول امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا ہے اور ان کے نزدیک حد بلوغ اٹھارہ سال ہے اور یہی بلوغ الاشد ہے۔ امام ابن جریر طبری نے ”وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ“ [یوسف: ۲۲] کی تفسیر میں فرمایا ہے جب وہ قوت کی انتہا اور جوانی کو پہنچے اور اس کی حد اٹھارہ سال سے ساٹھ سال تک ہے۔ ایک قول کے مطابق چالیس سال تک ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ جوانی اٹھارہ سے تیس سال کے درمیان ہے۔ دیکھئے جوانی کی ابتداء سبھی نے اٹھارہ سال بتائی ہے لہذا حد بلوغ اٹھارہ سال ہے۔ جہاں تک امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے قول کا تعلق ہے وہ احتیاط پر مبنی ہے ورنہ

”بلوغ اشد“ چالیس سال کو بھی قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے: ”حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً“ [الاحقاف: ۱۵] ”یہاں تک کہ پہنچا جوانی اپنی کو اور پہنچا چالیس برس کو“۔ اور لڑکی کے بلوغ کا حکم احتلام یا حیض یا حمل یا سترہ سال کی عمر کو پہنچنے پر لگایا جائے گا۔ بلوغ کی حقیقت احتلام اور انزال سے ثابت ہوتی ہے کیونکہ ارشاد نبوی ﷺ ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا ”ومن كل حاله ديناراً او عدله معافراً“^۱

مذکورہ حدیث میں موجود لفظ ”حالم“ سے ماخوذ ہے اور بلوغ کی علامت حیض بھی ہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے ”لا يقبل الله صلاة الحائض الا نجمار“^۲ ”بالغہ کی نماز بغیر دوپٹے کے اللہ کے ہاں مقبول نہ ہوگی“۔ یہاں حائض سے مراد بالغہ ہے اگر ان میں سے کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو حد بلوغ سترہ سال ہے۔ لڑکی جلدی بالغ ہو جاتی ہے لہذا ایک سال کم کر دیا گیا اور صاحبین رضی اللہ عنہم کے نزدیک مذکور ہو یا مونث دونوں کی حد بلوغ پندرہ سال مکمل ہونا ہے کیونکہ یہی عام عادت ہے۔ اور دوسری دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول بھی ہے وہ فرماتے ہی غزوہ احد میں مجھے خدمت نبوی شریف میں پیش کیا گیا۔ اس وقت میری عمر چودہ سال تھی۔ حضور ﷺ نے مجھے جہاد میں شرکت کی اجازت نہیں دی جب غزوہ خندق (غزوہ احزاب) کا موقع آیا تو مجھے اجازت مل گئی اس وقت میر عمر پندرہ سال کی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں میں نے ان کو یہ حدیث سنائی تو انہوں نے اپنے گورنروں کو لکھا کہ پندرہ سال کے بالغ شمار کرو اور پندرہ سال سے کم عمر والوں کو عیال میں شمار کرو۔^۳ امام صاحب رضی اللہ عنہ اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حضور ﷺ بعض اوقات نابالغ کو بھی جہاد میں شریک ہونے کی اجازت مرحمت فرمایا کرتے تھے چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں ان کو خدمت اقدس ﷺ میں پیش کیا گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے کم سنی کی وجہ سے اجازت نہ دی پھر انہیں غزوہ احد میں جہاد میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ اسی طرح حضرت سمرہؓ کو بھی پیش کیا گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اجازت نہ انہوں نے کہا کہ ان کو (رافع کو) آپ نے اجازت دی اور مجھے اجازت نہیں اگر اس کے ساتھ میرا مقابلہ کرا دیں تو میں اس پر غالب آؤں گا۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مقابلہ کرو پھر ان کا مقابلہ ہوا سمرہ رضی اللہ عنہ غالب آگئے تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں شریک جہاد فرمایا۔ اگر لڑکا بلوغ کا دعویٰ کرے تو اس کیلئے بلوغ کی ادنیٰ مدت بارہ سال ہے اور لڑکی کی نو سال ہے۔ اگر وہ اس عمر میں بلوغ کا دعویٰ کرے تو ان کی تصدیق کی جائے گی کیونکہ یہ معاملہ ان کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں ہو سکتا۔

کیا بالغ بے وقوف پر تصرف کی پابندی لگائی جاسکتی ہے:

اس میں دو قول ہیں۔ امام ابوحنیفہ کا قول یہ ہے کہ (۱) عاقل بالغ پر پابندی نہیں لگائی جاسکتی۔ اگرچہ وہ بے وقوف ہو اور اپنے مال کو بلا مقصد خرچ کرتا ہو اور فضول خرچی کرتا ہو، کیونکہ ایسا کرنا حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہے۔ اپنے مال میں تصرف کرنا اس کا حق ہے اور اس حق کو اس سے چھیننا اس کیلئے مال کے خرچ ہونے سے بڑھ کر ضرر ہے اور اس کو بہائم کی صف میں شامل کرنے کے مترادف ہے۔ چھوٹے نقصان سے بچنے کیلئے بڑے نقصان میں مبتلا کرنا درست اقدام نہیں ہے لیکن اگر اس کے تصرف پر پابندی نہ لگانے سے دوسروں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو اس کا تصرف کا عدم قرار دے کر اس پر پابندی لگائی جاسکتی ہے جیسے۔ جاہل طبیب یا غلط فتوہ دینے والے مفتی پر فتویٰ دینے کی پابندی لگائی جاسکتی ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کے اقدام سے دوسروں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ البتہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بچہ بالغ تو ہو گیا ہو مگر ہوشیاری اور سمجھداری ابھی تک اس کے اندر پیدا نہ ہوئی ہو تو اس کے مال کو اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا کیونکہ مال حوالہ کرنے کی شرط رشد (سمجھداری) ہے اور یہ اس میں بھی تک مفقود ہے اس کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے: ”فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشِدًا فَأَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ“ [النساء: ۶] ”پس اگر پاؤ تم ان میں سے ہوشیاری پس حوالے کر دو ان کو ان کے مال“۔ تاہم اگر وہ اپنے مال میں تصرف (خرید و فروخت) کرے تو اس کا تصرف نافذ ہوگا کیونکہ مال میں تصرف کرنے کی اہلیت (بلوغ) موجود ہے جب پچیس سال کو پہنچ جائے تو بہر صورت اس کا مال اس کے سپرد کیا جائے گا۔ اگرچہ رشد اس میں نہ آئی ہو کیونکہ ارشاد خداوندی ہے ”وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْحَانِ“ [النساء: ۶] ”اور مت کھاؤ ان کو زیادتی سے اور جلوس سے اس سے کہ بڑے ہو جائیں“۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے جب بڑا ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالہ کر دو۔ بڑے ہونے کی حد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پچیس سال مقرر فرمائی ہے کیونکہ عام طور پر پچیس سال میں سمجھداری آ ہی جاتی ہے۔ دیکھئے پچیس سال میں وہ دادا بھی سن سکتا ہے وہ اس طرح کے بچے کے بالغ ہونے کی کم از کم مدت بارہ سال ہے۔ چنانچہ بارہ سال کی عمر میں اس نے شادی کر لی شادی کے چھ مہینے بعد بچہ پیدا ہوا اس بچے نے بھی بارہ سال میں بالغ ہو کر نکاح کر لیا۔ شادی کے چھ مہینے بعد اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ اس طرح پچیس سال میں وہ دادا بن گیا۔ اور یہ محال ہے کہ وہ دادا تو بن جائے لیکن اس کے اندر رشد پیدا نہ ہو لہذا پچیس سال کے بعد بھی اس کا مال اس کے حوالہ نہ کرنا مناسب نہیں ہے بلکہ نتیج

فعل ہے۔ (۲) دوسرا قول صاحبین کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ بے وقوف پر پابندی لگ سکتی ہے۔ اسے مالی تصرفات سے منع کیا جاسکتا ہے جیسا کہ جنون یا عدم بلوغ کی وجہ سے اس کا تصرف درست نہیں تھا کیونکہ نابالغ ہونے کی وجہ سے تصرفات کی پابندی عدم رشد کے احتمال کی وجہ سے تھی جب کہ اس وقت عدم رشد حقیقتاً موجود ہے لیکن فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ لہذا ان کے فتویٰ کے مطابق اگر پابندی کے بعد کوئی چیز فروخت کرے تو اس کی بیع نافذ نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اس کی بیع کے نفاذ میں کوئی مصلحت موجود ہو تو عدالت اس کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ اگر وہ کسی عورت سے نکاح کر لے تو نکاح ہو جائے گا کیونکہ یہ اس کی ضروریات اصلیہ میں شامل ہے اور اگر مہر اس کیلئے مقرر کرے تو وہ مہر مثل کی مقدار میں درست ہوگا کیونکہ مہر مقرر کرنا نکاح کی ضروریات میں سے ہے اور مہر مثل سے زیادہ مقرر کرنا ضروریات میں داخل نہیں ہے لہذا اس مقدار سے زیادہ مقرر کرنا درست نہیں ہوگا۔ اس طرح چار شادیاں کرنا بھی ضروریات میں داخل نہیں ہے۔ اور حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر بارگاہ ہونے کے باوجود بھی سمجھداری اس میں پیدا نہیں ہوئی تو اس کا مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا اگرچہ اس کی عمر پچیس سال ہو جائے جب تک کہ اس میں سمجھداری پیدا نہ ہو کیونکہ اس کے تصرفات پر پابندی کی علت اس کی بے وقوفی ہے لہذا جب تک یہ علت برقرار رہے گی تو پابندی بدستور برقرار رہے گی۔

لہذا اس کیلئے اپنے مال میں تصرف کرنا جائز نہیں ہوگا لیکن اگر اس میں کوئی مصلحت کارفرما ہو تو عدالت اس کو نافذ قرار دے سکتی ہے۔ اس کے مال سے زکوٰۃ نکالی جائے گی کیونکہ زکوٰۃ امور واجبہ میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے جیسا کہ اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ البتہ زکوٰۃ کی مقدار کے مطابق اس کو مال دیا جائے گا تا کہ وہ مصرف زکوٰۃ میں اس کو صرف کرے اور اس کی ادائیگی کیلئے اس کی نیت شرط ہے لیکن اس کے ساتھ ایک امین کو بھی مقرر کیا جائے گا تا کہ وہ اس مال کو زکوٰۃ کے علاوہ کسی اور جگہ صرف نہ کرے۔ اس کے مال میں سے اس کی بیوی بچوں اور جن لوگوں کا خرچ اس پر واجب ہے ان پر خرچ کیا جائے گا۔

بے وقوفی اور کم عقلی کی وجہ سے لوگوں کے وہ حقوق جو اس کے ذمہ ہیں واجب الادا ہیں باطل نہیں ہوں گے اسی طرح اگر وہ حج فرض ادا کرنا چاہے تو اس کو منع نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب شدہ ہے لیکن قاضی مال اس کے حوالہ نہیں کرے گا بلکہ کسی بااعتماد شخص کے حوالہ کرے گا جو اس کے ساتھ حج کیلئے جا رہا ہو۔ وہ راستہ میں معروف طریقے کے مطابق اس پر خرچ کرتا رہے گا۔ اگر وہ کم عقل بیمار ہو جائے اور اپنے عزیز واقارب وغیرہ کیلئے اپنے اموال میں سے

وصیت کر لے تو ایک ثلث (۱/۳) مال میں اس کی وصیت نافذ ہوگی اس لیے کہ وصیت کا حکم شرعی لحاظ سے ہے اس سے اس کو منع نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے تصرف پر پابندی اس کی حالت حیات کے ساتھ متعلق ہے جبکہ وصیت کا تعلق حالت ممات کے ساتھ ہے۔

مفلس پر پابندی کا حکم:

حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں مفلس پر دین کی وجہ سے پابندی لگانے کے حق میں نہیں ہوں چنانچہ ایک شخص کے اوپر مختلف لوگوں کے قرض ہوں اور قرض خواہ یہ مطالبہ کریں کہ اس پر تصرف کی پابندی لگائی جائے اور اس کو مجبوس کیا جائے تو اس پر تصرف کی پابندی نہیں لگائی جائے گی کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں اس کی اہلیت تصرف کی توہین لازم آتی ہے۔ قرض خواہ کے ضرر کو دور کرنے کیلئے مقروض پر پابندی لگانا جائز نہیں ہے۔

پس اگر اس کے پاس مال موجود ہو تو حاکم اس میں تصرف نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی پابندی ہے ہاں البتہ حاکم اس کو قید کر سکتا ہے تاکہ وہ اس مال کو فروخت کر کے قرض خواہ کے قرض اتار دے کیونکہ قرض کو ادا کرنا اس پر واجب ہے اور قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: ”مطل الغنی ظلم“^۱ ”مال دار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے“۔ لہذا حاکم حقدار تک حق کو پہنچانے اور اس کو ظلم سے بچانے کیلئے اس کو مجبوس کر سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس نقد مال موجود ہو اور قرض بھی نقد کا ہو تو قاضی اس کی اجازت کے بغیر بھی وہ مال قرض خواہ کو دے سکتا ہے کیونکہ اصول ہے کہ قرض دینے والا اگر مقروض کے پاس اپنا دیا ہو قرض پائے تو مقروض کی اجازت کے بغیر اسے لے سکتا ہے۔ کیونکہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے: ”من ادرك ماله بعينه عند رجل او انسان قد افلس، فهو احق به من غيره“^۲ ”جو شخص اپنے مال کو بعینہ کسی ایسے شخص کے پاس دیکھے جس کو مفلس قرار دیا گیا ہے تو وہ دوسروں کے مقابلے میں اس کا زیادہ حق دار ہے“۔ یہ حدیث مبارک صرف نقد پر محمول ہے سامان اسباب کا مسئلہ اس کے خلاف ہے۔ اس کے متعلق بات آگے آرہی ہے۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر مفلس کے قرض خواہ اس پر پابندی لگانے کا مطالبہ کریں تو اس پر عدالت پابندی لگا سکتی ہے اور ثمن مثل سے کم قیمت پر اشیاء فروخت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اپنے مال میں تصرف اور دوسرے کیلئے اقرار کرنے سے اس کو روکا جاسکتا ہے تاکہ اس کے قرض خواہ ضرر سے محفوظ رہیں اگر وہ اپنے مال کو فروخت کر کے قرض ادا کرنے سے انکار

کرے تو قاضی اس کو فروخت کر کے حاصل شدہ قیمت قرض خواہوں کے درمیان تقسیم کر سکتا ہے۔
 فروخت کرنے میں پہلے اس کا سامان پھر اس کی جائیداد اور زمین کو فروخت کیا جائے گا جو بھی آسانی
 سے فروخت ہو سکے اس کو پہلے فروخت کیا جائے گا۔ اگر اس نے پابندی کے زمانے میں قرض
 خواہوں کے علاوہ کسی اور کیلئے بھی قرض کا اقرار کر لیا تو موجودہ مال اس کو ادا کرنا ہوگا۔ کیونکہ موجودہ
 مال کے ساتھ ان قرض خواہوں کا حق متعلق ہوا ہے۔ لہذا دوسرے کیلئے اقرار کر کے ان کے حقوق کو
 باطل کرنے کا سے اختیار نہیں ہوگا ہاں اگر پابندی لگنے کے بعد مال اس کے پاس آ گیا ہو تو اس مال
 میں سے مقررہ (جس کیلئے اقرار کیا ہے) کو دے سکتا ہے کیونکہ اس مال کے ساتھ قرض خواہوں کا حق
 متعلق نہیں ہوا ہے۔

مفلس کا خرچ:

مفلس مال میں سے اس پر اور اس کی بیوی بچوں پر خرچ کیا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ اس
 کی ضرورت اصلیہ میں سے ہے اور ضرورت اصلیہ قرض سے مقدم ہوتی ہے اگر مفلس (دیوالیہ
 شخص) کے پاس کوئی مال موجود نہ ہو اور قرض خواہ اس کو قید کرنے کا مطالبہ کریں اور وہ یہ کہے کہ
 میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ جس سے میں قرض ادا کر سکوں تو قاضی اس کو قید کرنے کا حکم
 دے سکتا ہے اور مفلس کی ہر اس دین کے معاملے میں تصدیق نہیں کی جائے گی جو اس کے پاس
 موجود مال کے بدلے اس پر لازم ہو گیا ہو۔ چنانچہ اس نے ایک مدت کیلئے ایک چیز خریدی پھر
 اس کو نقد مال کے عوض فروخت کر دیا یا ایک شخص سے نقدی رقم قرض کے طور پر وصول کی پھر اپنے
 مفلس ہونے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے
 گی۔ کیونکہ مال خریدنا اور بیچنا اس کے پاس مال ہونے کی دلیل ہے اور قرض کی ادائیگی سے مال
 مٹول کرنے پر دلالت کرتا ہے جو کہ ظلم ہے۔ اسی طرح ہر اس دین کے متعلق اس کے اعلان مفلسی کی
 تصدیق نہیں کی جائے گی جو کسی معاہدے اور عقد کے نتیجے میں اس پر واجب ہو چکا تھا۔ مثلاً مہر کفالت
 وغیرہ کیونکہ ان امور کو بجالانا اس کے پاس مال ہونے اور ادائیگی پر قادر ہونے کی دلیل ہے۔ ہاں
 اگر وہ کسی تاوان مالی یا جانی ادا کرنے کی وجہ سے دیوالیہ ہو گیا ہو اور اپنے پاس مال ہونے سے انکاری
 ہو اور قرض خواہ اس کو پکڑنے اور قید کرنے کا مطالبہ کر رہے ہوں تو عدالت اس کو قید نہیں کر سکتی اور اس
 کے محتاج اور مفلس ہونے کی تصدیق کی جائے گی اور اسے مفلس قرار دیا جائے گا لیکن اگر اس کے
 کہنے کے باوجود بینہ کے ذریعے اس کے پاس مال موجود ہونے کا ثبوت ملے تو قرض خواہوں کا

مطالبہ پورا کیا جائے گا۔

مفلس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟

جب قرض خواہوں کے مطالبے پر قاضی نے اس کو قید کر لیا اور خفیہ طور پر اس کے متعلق معلومات اکٹھی کرنے اور اس کے قریبی پڑوسیوں سے معلومات لینے کے بعد قاضی اس نتیجہ پر پہنچا کہ اگر اس کے پاس مال ہوتا تو وہ ضرور اس کو ظاہر کرتا اور قاضی کو گمان غالب حاصل ہوا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ اس کو آزاد کر دے گا اور اس کو پہلی فرصت میں قرض کی ادائیگی کا حکم دے گا۔ اگر قید کیے جانے کے بعد اس نے گواہوں کے ذریعے ثبوت پیش کیا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ دیوالیہ ہو گیا ہے تو اس کے گواہوں کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا اور اس کو آزاد کر دیا جائے گا اور اگر قید کیے جانے سے پہلے ثبوت فراہم کرے تو اکثر مشائخ کی رائے کے مطابق اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ قاضی اس کو آزاد کرنے کے بعد اس کے اور اس کے قرض خواہوں کے درمیان حائل نہیں ہوگا۔ قرض خواہ ہر وقت اس کا پیچھا کر سکتے ہیں اپنے قرض کی وصولی کیلئے ہر وقت اس کے دروازے پر بیٹھ سکتے ہیں تاکہ وہ چھپ نہ سکے۔ اس کی دلیل یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر اپنا قرض مانگا اور رسول اللہ ﷺ کیلئے نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کو مارنے کا ارادہ کیا تو سرکار عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”دعوہ فان لصاحب الحق مقالا“^۱ ”اس کو چھوڑ دو اس لیے کہ حق دار کو بولنے کا حق ہے۔“ لیکن قرض خواہوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو بیع اور تصرف سے روک لیں تاکہ وہ خرید و فروخت کے ذریعہ مال کمائے۔ قاضی اس کو قرضوں کے تناسب سے قرض خواہوں کے درمیان تقسیم کرے گا۔

حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر عدالت نے اس کو مفلس (دیوالیہ) قرار دے کر آزاد کر دے تو قاضی درمیان میں حائل ہو سکتا ہے۔ قرض خواہ اس کا پیچھا کرنے کا مجاز نہیں ہوں گے الا یہ کہ باوثوق ذرائع سے معلوم ہو جائے کہ اس کے پاس مال آ گیا ہے تو وہ قاضی کے پاس آ کر ثابت کر سکتے ہیں کہ اس کا افلاس ختم ہو گیا ہے۔

کیا فاسق کے تصرفات پر پابندی لگائی جاسکتی ہے؟

اگر فاسق درست طریقہ سے اپنا مال خرچ کرنے کی اہلیت رکھتا ہو تو عدالت اس کے تصرف (خرید و فروخت) پر پابندی نہیں لگا سکتی ہے کیونکہ پابندی لگانے کی علت اسراف و تبذیر ہے

اور وہ اس میں نہیں ہے۔ چاہے پہلے سے فاسق ہو یا بعد میں فسق و مجور میں مبتلا ہو گیا ہو۔ بہر صورت اس کے تصرف پر پابندی نہیں لگائی جاسکتی۔

فوت شدہ شخص یا مفلس کے پاس دوسرے کا سامان موجود ہو تو کیا حکم

ہے؟:

کوئی شخص مفلس قرار دیا گیا یا مر گیا اور اس شخص کا سامان موجود ہو جس سے اس نے خریداری کی تھی اور اس کی اجازت سے اس پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کی قیمت ابھی ادا نہیں کی تھی یا ساری ادا نہیں کی تھی اور دوسرے لوگوں کے قرض بھی اس کے ذمہ واجب الادا ہوں تو اس سامان میں تمام قرض خواہ برابر کے حقدار ہوں گے اس کا بائع دوسروں سے زیادہ حقدار نہیں ہے کیونکہ جب فروخت کرنے والے نے اس کو خریدنے والے کے سپرد کر دیا تو وہ اپنی چیز پر ملکیت کے سقوط سے راضی ہو گیا ہے پس وہ بھی دوسرے قرض خواہوں کی طرح ہو گیا۔ اگر بائع (فروخت کرنے والا) نے بیع مشتری کے حوالہ نہ کی ہو تو دیکھا جائے گا کہ اگر قیمت موجدل ہو تو یہی حکم ہے کیونکہ مشتری کے مرنے سے مدت ختم ہو گئی اور اگر ثمن (قیمت بیع) موجدل ہو تو اس صورت میں دوسرے قرض خواہوں کے مقابلے میں بائع بالاتفاق زیادہ حقدار ہو گا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں صورت میں سامان کا مالک (بائع) زیادہ حقدار اور مقدم ہو گا۔

مسئلہ: ایک شخص کا انتقال ہو اس حال میں کہ مختلف لوگوں کا اس پر قرض ہے اور تر کہ اس کی ادائیگی کیلئے پورا نہیں ہوتا تو اس صورت میں تر کہ کو قرض خواہوں کے درمیان ان کے قرضوں کے تناسب سے تقسیم کر دیا جائے گا جس کا قرض کم ہے اس کو اس اعتبار سے کم اور جس کا کچھ زیادہ ہے اس کو اس تناسب سے کچھ زیادہ دیا جائے گا۔ مثلاً زید کا انتقال ہوا خالد کے اس کے ذمہ ایک لاکھ تھے ارشد کے اس کے ذمہ تیس ہزار امجد کے بیس ہزار اور صفدر کے دس ہزار روپے قرض تھے اور تر کہ چھوڑا کل چالیس ہزار روپے۔

﴿ کتاب الاقرار ﴾

اقرار کا لغوی معنی مضبوط کرنا اور ٹھہرانا ہے اس وادی کو اہل عرب قرار الوادی کہتے ہیں جس میں پانی ٹھہر جاتا ہو، منی کے ایام کو ایام القرب بھی اس لیے کہتے ہیں کہ ان دنوں میں لوگ وہاں ٹھہرتے اور سکونت اختیار کرتے ہیں اور شریعت کی اصطلاح میں کسی کیلئے کوئی چیز اپنے ذمے ثابت ماننے کو اقرار کہا جاتا ہے۔ اور یہ حجت شرعیہ ہے اس کا حجت شرعیہ ہونا کتاب اللہ سنت اور اجماع و قیاس سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے: ”وَكُونُوا قَوْمِ مِثْلَ شُهَدَاءِ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ“ [النساء: ۱۳۵] ”ہو جاؤ تم قائم رہنے والے ساتھ انصاف کے گواہی دینے والے واسطے اللہ کے اگرچہ اوپر جانوں اپنی کے ہو“۔ اپنے نفس کے خلاف گواہی دینا اقرار ہے اور دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے: ”وَلِيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ“ [البقرة: ۲۸۲] ”چاہیے کہ املاء کرائے وہ جس پر ادا کرنا لازمی ہے“۔ یہ اپنے نفس کے خلاف اقرار ہے۔

حدیث سے اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے: ”واغد یا انیس الی امرأ هذا فان اعترفت فارجمها“^۱ ”اے انیس! اس کی بیوی کے پاس جاؤ اگر وہ زنا کا اعتراف کرے تو اس کو سنگسار کر دو“۔ اسی طرح حضور ﷺ نے عامد یہ اور حضرت معز رضی اللہ عنہما کو اقرار کی بناء پر رجم کرنے کا حکم دیا اور اسی پر اجماع ہے۔ قیاس سے اس کا ثبوت یہ ہے کہ اقرار ایک ایسی خبر ہے جو عدم تہمت کی وجہ سے سچائی کے ساتھ صادر ہوئی ہے لہذا دوسرے کیلئے اقرار کرنے کی تکذیب نہیں کی جائے گی اقرار حق کو ظاہر کرنے والی حجت اور دلیل ہے جب کہ وہ عاقل بالغ سے صادر ہو اور کسی متعین شخص کیلئے اقرار ہو اگرچہ وہ چیز جس کا اقرار کر رہا ہے مجہول ہی کیوں نہ ہو کیونکہ جہالت صحت اقرار سے مانع نہیں ہے البتہ اس پر وضاحت کرنا لازم ہوگا کیونکہ اقرار دراصل کسی کے حق کے ثبوت کے بارے میں خبر دینا ہے۔

اقرار کی شرط:

شرط اس یہ ہے کہ جس چیز کا اقرار کر رہا ہے وہ چیز قیمت والی ہو لہذا اگر کسی بے قیمت چیز کا اقرار کرے گا تو وہ اس پر لازم نہیں ہوگی۔

کیا اقرار میں گواہ شرط ہے:

اقرار میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اقرار کرنے والا اقرار اس لیے کرتا ہے کہ وہ ذمے سے بری ہونا چاہتا ہے اس کے لئے اسے گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی اقرار بنفسہ مقررہ (جس کا اقرار کیا گیا ہو) کو واجب کرنے والا ہے حدود کے علاوہ دوسرے معاملات میں اقرار سے رجوع کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔

اقرار کی صورتیں:

اقرار اگر یوں کیا: فلاں کی مجھ پر کوئی چیز واجب ہے یا کہا کہ فلاں کا مجھ پر ایک حق ہے تو اس کی قیمت بیان کرنا اس پر لازم ہے اگر مقررہ (جس کیلئے اقرار کیا گیا) نے اس کی تکذیب کی تو اس مقررہ (اقرار کرنے والے) کی بات اس کی قسم کے ساتھ مانی جائے گی اس لیے کہ وہ زیارت کا منکر ہے منکر کا قول اس کی قسم کے ساتھ معتبر ہوتا ہے۔ اگر کہا کہ فلاں کا مجھ پر واجب ہے تو یہ کہنا ہی دین کا اقرار کرنا ہے اور اگر اس قول کے ساتھ ہی کہا کہ ”بطور امانت“ تو اس کی بات مانی جائے گی کیونکہ یہ لفظ اس کا احتمال رکھتا ہے اگر اس کو وقفہ کے بعد ذکر کیا تو تصدیق نہیں کی جائے گی کیونکہ فلاں کا مجھ پر واجب ہے کا لفظ دین (قرض) پر دلالت کرتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ فلاں کی چیز یا حق میرے پاس ہے“ یہ کہنا امانت کا اقرار شمار ہوگا اور اگر مقررہ کہہ دے کہ وہ قرض ہے امانت نہیں ہے تو بینہ (گواہ) کے ساتھ اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اگر کہہ دے کہ فلاں کا ایک ہزار روپیہ شراب کی ضمانت میں سے مجھ پر واجب ہے تو ایک ہزار واجب مانا جائے گا اور اس کی تفسیر (شراب کی قیمت) امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں مانی جائے گی خواہ اس کو متصل کہے یا منفصل کیونکہ یہ لفظ اقرار سے رجوع کرنا ہے اقرار سے رجوع کے علاوہ مقبول نہیں ہے اور یہ رجوع اس طرح ہے کہ اس کلام کا پہلا حصہ وجوب پر دلالت کرتا ہے اور دوسرا حصہ شراب کی قیمت کہنے کی وجہ سے عدم وجوب پر دلالت کرتا ہے کیونکہ شراب کی قیمت مال نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان کے ذمہ واجب نہیں ہے اور حضرات صاحبین رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں اگر کلام کا دوسرا حصہ (شراب کی قیمت) پہلے جملے کے ساتھ متصل کہہ دیا تو ایک ہزار واجب نہیں ہوگا کیونکہ اس نے کلام کے آخری حصے سے یہ بتانا چاہا ہے کہ اس نے اس کا ارادہ نہیں کیا ہے۔

امام موصی نے امام نسفی اور صدر الشریعت نے امام صاحب کے قول پر اعتماد فرمایا ہے۔

مسئلہ: اگر یوں اقرار کیا کہ فلاں عورت کے پیٹ میں جو حمل ہے اس کا اتنا مال میرے

ذمہ واجب الادا ہے۔ اگر اس وجوب کی کوئی معقول وجہ بیان کی مثلاً یوں کہا کہ فلاں شخص نے اس کیلئے وصیت کی تھی یا کہہ دیا کہ اس کے والد کا انتقال ہو اس کی میراث کا فلاں حصہ میرے پاس موجود ہے تو اس اقرار کو بالاتفاق درست مانا جائے گا۔ اور اگر اس مدت حمل میں بچہ پیدا ہوا تو ادا کرنا اس پر لازم ہوگا اور اگر بچہ مردہ پیدا ہوا تو یہ مال وصیت کرنے والے یا مورث کا ہوگا کیونکہ درحقیقت یہ ان کے مال کا اقرار ہے اور بچے کی طرف پیدائش کے بعد منتقل ہوتا ہے چونکہ وہ پیدائش کے وقت مردہ پیدا ہوا ہے لہذا اس کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ اگر اس حمل سے دو جڑواں بچے پیدا ہوئے تو مال ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا اور اگر کوئی معقول وجہ بیان نہیں کی مثلاً کہا کہ اس (حمل) نے مجھ کو فروخت کیا تھا اور مجھے بطور قرض دیا تھا تو اقرار بالاتفاق باطل ہوگا اور اگر سبب بتائے بغیر مبہم رکھا تب بھی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ اقرار درست نہیں ہوگا۔ صاحب ”نیایع“ نے کہا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کے متعلق فرمایا اگر وجوب کی کوئی معقول وجہ بتائی مثلاً وراثت یا وصیت تو اقرار کی بنیاد پر اس پر واجب ہوگا۔

مرض الموت میں اقرار کرنا:

مرض الموت وہ مرض ہے کہ جس میں مریض زمانہ صحت کی طرح اپنی ضرورت و حاجت کو بیان نہ کر سکے اور مرض کی عدم کیفیت اس طرح ہو کہ اس جیسے مرض سے اکثر ہلاکت ہوتی ہو اور اس میں مریض مر بھی جائے۔ تو یہ تین صفات جس مرض میں ہوں وہ مرض الموت ہے اگر ان میں سے ایک صفت بھی مفقود ہو تو وہ مرض الوفا نہیں کہا جائے گا۔ یعنی اگر مرض اتنا سخت نہ ہو جو اپنی ضروریات انجام دینے میں رکاوٹ بنے بلکہ بآسانی ضروریات سرانجام دیتا ہو جیسا کہ عام صحت مند لوگ انجام دیتے ہیں یا مرض اس طرح ہو جس سے عام طور پر لوگ بچ جاتے ہوں یا مرض تو سخت تھا مگر اس میں مر نہیں تو یہ مرض الموت شمار نہیں ہوگا۔ لہذا اگر وہ اس حالت میں تصرف کرے گا تو عام حالت صحت کے تصرف کی طرح درست ہوگا اور جو شخص مرض الموت میں ایسے دین کا اقرار کرے جو زمانہ صحت میں اس پر واجب ہو گیا تھا چاہے اس دین کے اسباب معلوم ہوں یا نہ ہوں یا ایسے دیون کا اقرار کرے جو مرض الموت میں اس پر واجب ہو گئے تھے اور اس کے وجوب کے اسباب بھی معلوم تھے مثلاً اپنی ضرورت کیلئے کوئی چیز خریدی اور اس کی قیمت ابھی تک ادا نہیں کی یا بیماری کی حالت میں کسی کی چیزیں تلف کیں جس کی وجہ سے ان اشیاء کی قیمت اس پر لازم ہو گئی تھی یا اس زمانے میں کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا اور اس کا مہر اس کے ذمہ لازم ہو گیا تو وہ دیون جو صحت کے زمانے میں

واجب ہو گئے تھے ان کے اسباب معلوم ہوں یا نہ ہوں اور وہ دیون جن کے واجب ہونے کے اسباب معلوم ہوں اور مرض الموت میں واجب ہوں وہ مقدم ہوں گے ان دیون پر جن کا مرض الموت میں اقرار کیا تھا مگر ان کے اسباب معلوم نہ ہوں کیوں محض اقرار جس میں غیر کے حق کا ابطال لازم آتا ہو دلیل نہیں بن سکتا۔

زمانہ صحت کے دیون اور مرض الموت کے معلوم الاسباب دیون کی ادائیگی کے بعد کچھ مال بچ جائے تو زمانہ مرض کے ان دیون کو ادا کیا جائے گا جو معلوم الاسباب نہیں ہیں کیونکہ اقرار فی ذاتہ تو صحیح ہے مگر زمانہ صحت کے قرض خواہوں کی حق تلفی کے اندیشے سے ان کو مؤخر کیا جائے گا۔ جب ان کے حقوق ان کو مل گئے تو اقرار کا صحیح ہونا واضح ہو گیا۔ اگر صحت کے زمانے میں اس پر کوئی قرض نہیں تھا مرض الموت میں کسی کے قرض کا اقرار کیا تو اس کا یہ اقرار درست مانا جائے گا کیونکہ یہ اقرار کسی کے حق کے ابطال کا باعث نہیں ہے اور جس کیلئے اقرار کیا ہے اس کا حق و رثاء کے حقوق سے مقدم ہوگا کیونکہ ادائیگی دیون ضرورت اصلیہ میں شامل ہے اور وراثت کا حق اس ترکہ کے ساتھ متعلق ہوتا ہے جو دین سے خالی ہو۔ البتہ مرض الموت میں اپنے کسی وارث کیلئے دین کا اقرار کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کے مرض الموت میں مبتلا ہونے پر وراثت کے حقوق اس کے ساتھ متعلق ہو چکے ہیں ان میں سے بعض کو مختص کرنا دوسروں کے حق کو باطل کرنا ہے۔ ہاں اگر دوسرے وراثت بھی اس کی تصدیق کریں تو یہ اقرار درست مانا جائے گا کیونکہ اس اقرار کی صحت کی راہ میں دوسرے وراثت کا حق مانع ہے لیکن جب وہ خود اس پر راضی ہیں اور اس کی تصدیق کر رہے ہیں تو مانع دور ہو گیا لہذا اقرار صحیح ہوگا۔ مرض الموت میں کسی اجنبی کیلئے اقرار کیا پھر کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے اور عمر کے اعتبار سے وہ اس کا بیٹا بن سکتا ہے اور مقررہ (جس کیلئے اقرار کیا ہے) نے بھی اس کی تصدیق کی تو اس کا نسب اس کے ساتھ ثابت ہوگا اور اقرار باطل ہوگا اس لیے کہ بیٹے ہونے کا دعویٰ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نسب حمل ٹھہرنے کے زمانے سے اس کے ساتھ ثابت ہوگا گویا اس نے اپنے بیٹے کیلئے اقرار کیا اور اپنے وارث کیلئے اقرار کرنا صحیح نہیں ہے۔

اگر کسی اجنبی عورت کیلئے اقرار کیا پھر اس کے ساتھ نکاح کر لیا تو نکاح کرنے سے اقرار باطل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ زوجیت کا تعلق زمانہ نکاح کے ساتھ محدود ہے اور اجنبی کیلئے اقرار باقی ہے۔ جس شخص نے اپنی بیوی کو اس کے مطالبہ پر تین یا اس سے کم طلاقیں دیں پھر اس عورت کیلئے قرض کا اقرار کر لیا پھر وہ عورت کے عدت گزارنے کے زمانے میں انتقال کر گیا تو عورت کے لئے میراث اور اقرار (دین) میں سے جو بھی کم ہوگا اس کی وہ حقدار ہوگی کیونکہ دین اور میراث میں سے

جو کم ہو اس کے دینے میں اس پر کوئی تہمت کا اندیشہ نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب طلاق عورت کی رضامندی سے دی ہو یعنی اس کے مرض الوفات میں عورت نے اس سے طلاق کی درخواست کی ہو جس پر اس نے اس کو طلاق دے دی ہو۔

اور اگر طلاق عورت کی رضامندی کے بغیر دی ہو تو میراث ہی کی مستحق ہوگی خواہ وہ جتنی بھی ہو اگر اس کے مرنے سے قبل عدت پوری ہوگئی تو اقرار یعنی دین کی حقدار ہوگی میراث نہیں ملے گی۔ اگر وہ عورت ان لوگوں میں سے ہو جو وارث نہیں بن سکتی مثلاً ذمی (کافر) ہو تو اس کیلئے جمع مال کا اقرار کرے تو درست ہے اور اگر اس کیلئے وصیت کرے تو ایک تہائی مال میں اس کی وصیت نافذ ہوگی۔

ایک شخص نے غیر معلوم النسب لڑکے کے بارے میں اقرار کیا کہ وہ اس کا بیٹا ہے اور لڑکا اس کا بیٹا ہونا ممکن ہے اور لڑکے نے بھی اس کی تصدیق کی چاہے اس کے مرنے سے پہلے تصدیق کی ہو یا بعد میں تو اس لڑکے کا نسب اس سے ثابت ہوگا اگرچہ وہ مرض الموت میں ہو اور وہ میراث میں دوسرے ورثاء کے ساتھ شریک ہوگا۔ معلوم النسب نہ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ معلوم النسب کا نسب دوسرے سے ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا کسی اور کا بیٹا ہونا پہلے سے معلوم ہے تو اس کا بیٹا ہونا کیسے ممکن ہوگا۔ اور لڑکے کا اس کے اقرار کی تصدیق کرنا اس وقت ضروری ہے جب وہ سمجھدار ہو اگر وہ بالکل نا سمجھ ہو تو تصدیق کرنا ضروری نہیں۔ پھر مقرر (اقرار کرنے والا) اگر مرد ہے تو اس کی عمر لڑکے سے کم از کم بارہ سال زیادہ ہو اگر عورت ہے تو کم از کم نو سال زیادہ ہونا لازمی ہے۔ کہنی کے بارے میں اپنے والد یا والدہ یا بیوی ہونے کا اقرار کرنا صحیح ہے البتہ ان حضرات کا تصدیق کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے اقرار کا نافذ ہونا ان کی تصدیق پر موقوف ہے۔ اگر وہ اس کی تصدیق کریں تو اس کا اقرار معتبر ہے ورنہ نہیں۔ کسی شخص کی بیوی کا کسی کے لڑکے کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ میرا بیٹا ہے تو شوہر کی تصدیق کے بغیر اس کا دعویٰ صحیح نہیں ہوگا یا دانی جو اس کی پیدائش کے وقت اس کے پاس موجود ہوگا وہی دے تو اس کا دعویٰ صحیح ہوگا۔ شوہر کی تصدیق اس لیے ضروری ہے کہ نسب اس سے ثابت ہوگا۔

والدین اولاد اور زوج و زوجہ کے علاوہ دوسرے رشتوں کے نسب کا اقرار کرے مثلاً یوں کہے فلاں میرا چچا ہے یا کہے فلاں میرا بھائی یا دادا ہے یا کہے کہ میرا پوتا ہے تو اس کے اقرار کو قبول نہیں کیا جائے گا اگرچہ مقرر اس کی تصدیق بھی کر دے کیونکہ اس صورت میں دوسرے پر نسب کو محمول کرنا لازم آتا ہے۔ لہذا مقرر (اقرار کرنے والا) کا کوئی وارث معروف النسب موجود ہو خواہ قریبی ہو یا دور کا

ہو تو وہ مقررہ (جس کیلئے اقرار کیا) سے مقدم ہوگا۔ میراث کا حق دار وہی ہوگا۔ کیونکہ جب اس کا نسب اس سے ثابت نہیں تو وہ معروف النسب وارث کا مزاحم نہیں ہو سکتا اور اگر اس کا کوئی معروف النسب وارث موجود نہ ہو تو مقررہ اس کا وارث بنے گا کیونکہ اقرار کرنے والے کیلئے اپنے مال میں تصرف کرنے کا حق ہے۔ جبکہ اس کا کوئی وارث موجود نہ ہو تو پس مقررہ جمیع مال کا مستحق ہوگا اگرچہ اس کا نسب ثابت نہ ہو۔

کسی کے والد کا انتقال ہو گیا اس نے کسی شخص (جو غیر معروف النسب ہو) کے بارے میں اقرار کیا کہ وہ میرا بھائی ہے اس کے اقرار سے اس کا نسب اس کے والد کے ساتھ ثابت تو نہیں ہوگا لیکن میراث میں اقرار کرنے والے کے ساتھ شریک ہوگا۔ کیونکہ اقرار کرنے والے کا اقرار دو چیزوں کو شامل ہے۔ نسب کو دوسرے پر محمول کرنا جبکہ اس پر سے ولدیت حاصل نہیں لہذا نسب ثابت نہ ہوگا۔ مال میں اشتراک اور اس میں اسے ولدیت حاصل ہے لہذا یہ ثابت ہوگا۔

﴿ کتاب الصلح ﴾

صلح کا لغوی معنی ہوتا ہے ٹھیک کرنا، درست کرنا اور شرعی معنی ہے مخالفت و مشاجرت کے بعد تنازع کو ختم کرنے کیلئے معاہدہ کرنا۔ ارشاد خداوندی ہے: ”فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا“ [الحجرات: ۹] ”ان کے درمیان صلح کراؤ“۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: ”وَالصُّلْحُ خَيْرٌ“ [النساء: ۱۲۸] ”اور صلح بہتر ہے“۔ ارشاد نبوی ہے: ”الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا حرم حلالاً او احل حراماً“۔ ”مسلمانوں کے درمیان صلح کرنا جائز ہے مگر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کی صلح جائز نہیں ہے“۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے: ”ردوا الخصوم کی یصلحوا“ ”جھگڑنے والوں کو واپس لوٹا دو تا کہ وہ آپس میں صلح کر لیں“۔

صلح کی قسمیں:

صلح کی تین صورتیں ہیں (۱) مدعی علیہ کے اقرار کے ساتھ صلح ہو۔ (۲) مدعی علیہ کے سکوت کے ساتھ صلح ہو یعنی مدعی علیہ مدعی کیلئے نہ اقرار کرے نہ اس کے حق کا انکار کرے۔ (۳) مدعی علیہ کی طرف سے انکار کے ساتھ صلح ہو۔

ان تینوں صورتوں میں صلح جائز ہے۔ بدل صلح میں مدعی کیلئے ملکیت ثابت ہوگی اور مدعی علیہ کا حق استرداد منقطع ہو جائے گا اور یہی آپس کے جھگڑے اور تنازع کا سبب ہے جو شریعت کی رو سے ناجائز ہے۔ ارشاد خداوندی ہے ”وَلَا تَنَازَعُوا“ [الانفال: ۴۶] ”اور جھگڑا مت کرو“۔ اگر صلح مدعی علیہ کے سکوت کے ساتھ واقع ہو یعنی وہ مدعی کے دعوے کا نہ انکار کرے نہ اقرار لیکن مدعی نے اس کے ساتھ صلح کر لی محض خصومت کو ختم کرنے کیلئے بدل صلح بھی دے دیا کیونکہ وہ اپنے زعم میں خود کو اس چیز کا مالک خیال کرتا ہے جو اس کے قبضہ میں ہے پس بدل صلح اس کا عوض نہیں ہوگا لیکن جب خصومت اس پر لازم ہوگئی تو اس کیلئے فدیہ دے کر اس سے جان چھڑانا جائز ہو گیا۔ یہی حکم مدعی علیہ کے انکار کے ساتھ صلح کی صورت میں ہے۔ وہ صرف قسم کے فدیہ کے طور پر بدل صلح ادا کرتا ہے مدعی کے حق میں بدل صلح معاوضہ کے حکم میں ہے۔ کیونکہ اپنے زعم میں اپنے دعویٰ کو درست خیال کرتا ہے اور جو کچھ اس نے بدل صلح وصول کیا ہے وہ اس کے حق کے بدلے اور عوض میں آیا ہے پس مدعی اور

مدعی علیہ میں سے ہر ایک کے ساتھ اپنے اپنے زعم کے مطابق معاملہ کیا جائے گا۔
 اگر مدعی علیہ نے کسی کے متعلق جو اس کے پاس تھا اور مدعی نے اس پر دعویٰ کیا تھا صلح کر کے بدل صلح ادا کیا چاہے اس دعوے کے انکار کے ساتھ ہو یا خاموشی کے ساتھ تو اس گھر پر کوئی شفعہ کا دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ مدعی علیہ کا خیال ہے کہ اس نے بدل صلح کے بدلے اس کو نہیں خریدا ہے بلکہ قسم کھانے سے بچنے یا منازعت سے جان چھڑانے کیلئے اس نے ایسا کیا ہے اور مدعی کا قول اس پر لاگو نہیں ہوگا اور زمین پر اس کی ملکیت پہلے سے ثابت ہے وہ بدل صلح ادا کرنے کے بعد گھر کا مالک نہیں بنا ہے۔ اگر مدعی کو بدل صلح کے طور پر گھر مل گیا تو اس پر شفیح حق شفعہ دائر کر سکتا ہے کیونکہ مدعی کی دانست میں یہ گھر اس کے حق کے عوض حاصل ہوا ہے تو اس پر شفیح ہو سکتا ہے اور شفیح اس کو اس حق کی قیمت کے برابر قیمت ادا کرے مدعی سے لے لے گا۔

متنازعہ چیز میں استحقاق کا ثابت ہونا:

اگر صلح مدعی علیہ کے اقرار کے ساتھ ہوئی تھی اور بدل صلح ادا کر دیا گیا تھا پھر مصالح عنہ (وہ چیز جس کے بارے صلح ہوتی تھی) کے کچھ حصہ میں مدعی علیہ کا حق ثابت ہو گیا تو جتنے میں اس کا استحقاق ثابت ہوا اتنی مقدار میں بدل صلح میں سے مدعی سے واپس لے لے گا کیونکہ سابق میں گزرا ہے کہ صلح مع الاقرار بیع کی طرح ہے اور اگر صلح مدعی علیہ کے سکوت یا اس کے انکار کے ساتھ واقع ہوئی تھی پھر مدعی علیہ کا سارے متنازع قید میں استحقاق ثابت ہوا تو مدعی شخص سے خصومت کے ذریعہ واپس لے گا۔ مدعی علیہ نے مدعی کے ساتھ صلح اس لیے کی تھی کہ اس کو خصومت نہ کرنی پڑے اور جب استحقاق ثابت ہو گیا تو خصومت ہی ختم ہو گئی لہذا مدعی کے ہاتھ بدل صلح بلا عوض رہ گیا لہذا واپس کرنا لازمی ہو گیا۔

ایک شخص نے ایک گھر کے غیر معین حصہ میں حق دار ہونے کا دعویٰ کیا جس کے قبضے میں گھر تھا اس نے مدعی کے ساتھ صلح کر لی اور کچھ مال اس کو دے کر خصومت کو ختم کر دیا۔ پھر گھر کے کچھ حصے کا کوئی مستحق نکل آیا۔ تو مدعی علیہ مدعی سے صلح کے بدلے ادا کردہ مال کو واپس لوٹانے کا مطالبہ نہیں کر سکتا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مدعی کا حق اس کے ساتھ متعلق ہو جس کا ابھی کوئی مستحق نہیں نکل آیا۔ ہاں اگر پورے گھر کا مستحق نکل آیا تو اپنا بدل صلح واپس لے سکتا ہے کیونکہ اس صورت مدعی کے ہاتھ میں بدل صلح بلا عوض رہ گیا۔

کن امور میں صلح جائز اور کن میں ناجائز؟

اموال کے دعویٰ، منافع، قتل عمد کی جنایت اور قتل خطا کی دیت کے مطالبے میں صلح کرنا جائز ہے البتہ مقدار دیت سے زیادہ پر صلح درست نہیں ہے کیونکہ شرعی وہی مقدار مقصود ہے اس مقدار کو ختم کرنا جائز نہیں ہے۔ یہی مقدار سے زیادہ لینے کا عدم جواز قتل خطا کی دیت میں ہے البتہ قتل عمد میں اس مقدار سے زائد لینا بھی جائز ہے کیونکہ یہاں صلح مال کے بدلے نہیں بلکہ قصاص کے بدلے ہو رہی ہے اور قصاص مال نہیں ہے اس میں مقدار معاہدے میں طے کی جائے گی۔ کسی حد شرعی کے مطالبہ پر صلح کرنا جائز نہیں کیونکہ یہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ حقوق العباد میں سے نہیں کسی اور کے حق کا عوض لینا جائز نہیں ہے چاہے حد چوری کرنے کی وجہ سے لگ رہی ہو یا کسی پرتہمت لگانے کی پاداش میں یا زنا کرنے کی وجہ سے ہو زنا اور سرقہ (چوری) میں حد کا حقوق اللہ میں سے ہونا بلا خلاف ہے یعنی اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں اور حد قذف بھی ہمارے نزدیک حق اللہ ہے لہذا حد قذف میں صلح کی گئی مگر کسی عدالت میں جانے سے پہلے صلح کی گئی تو بدل صلح واجب نہیں ہوگی مگر حد بھی نہیں لگے گی کیونکہ صلح کی طرف آ کر اس نے گویا اپنے مطالبے سے اعتراض کیا لیکن عدالت میں جانے کے بعد صلح پر آمادہ ہوا تو بدل صلح جائز نہیں ہوگا۔ البتہ حد ساقط نہیں ہوگی اور عدالت اس پر حد جاری کرے گی۔

دعویٰ نکاح میں مرد و عورت میں مصالحت:

ایک شخص نے ایک عورت پر دعویٰ کیا کہ وہ اس کی بیوی ہے اور عورت نے انکار کیا پھر اس نے اس سے دعویٰ واپس لینے پر مصالحت کر لی اور کچھ مال اس کو دے کر خاموش کر لیا تو یہ ظاہری اور دنیاوی اعتبار سے جائز ہے بظاہر یہ خلع کی طرح ہوگا اور اگر حقیقت میں وہ عورت اس کی بیوی نہ ہو تو اس شخص کیلئے صلح کیلئے عوض میں مال کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔

کسی عورت نے کسی مرد کے متعلق دعویٰ کیا کہ وہ اس کا شوہر ہے اور اس مرد نے دعویٰ واپس لینے کیلئے عورت کو کچھ مال دے کر صلح کر لی تو یہ صلح درست نہیں ہے کیونکہ اس نے عورت کو ترک دعویٰ کے عوض مال دیا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر ترک دعویٰ سے آپس میں فرقت ہوتی ہے تو فرقت پر شوہر کے ذمے کچھ واجب نہیں ہوتا اور اس کو فرقت (جدائی) قرار نہ دیا جائے تو عورت اس مال کو کسی چیز کے عوض وصول کرے گی یعنی بلا عوض مال اس کے قبضے میں جا رہا ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔

موصلی رحمۃ اللہ علیہ نے ”الاختیار“ میں لکھا ہے کہ یہ صلح جائز ہے اس عوض کو جو عورت وصول کرے گی مہر میں

اضافہ تصور کیا جائے گا لیکن صحیح قول پہلے والا ہے۔

صلح میں فضولی کا تصرف:

فضولی اس غیر متعلق شخص کو کہتے ہیں جو متعلقہ شخص کی اجازت کے بغیر کسی کام کو سرانجام دے۔ ایک شخص نے دوسرے شخص پر کسی چیز کا دعویٰ کیا پھر تیسرے شخص نے طرفدار بن کر مدعی کے ساتھ دعویٰ کرنے پر صلح کر لی اور اپنی طرف سے بدل صلح ادا کیا تو معاہدہ صحیح ہے۔ کیونکہ اس نے معاہدے کو اپنی طرف منسوب کیا البتہ جو کچھ اس نے مدعی کو صلح کے عوض دیا ہے اس کا وہ مدعی علیہ سے مطالبہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اس کی طرف سے تبرع (احسان) ہے اور مدعی علیہ کی جان خصومت سے چھوٹ جائے گی اس میں مدعی علیہ کا کوئی نقصان نہیں تو یہ عقد صحیح ہے۔ گویا یہ مدیون کے حکم کے بغیر اس کے دین کی ادائیگی کی ذمہ داری لینے کی طرح ہے۔

فضولی نے مدعی سے کہا کہ میں نے اس رقم کے عوض تجھ سے صلح کر لی تو یہ درست ہے تو یہ رقم مشارالیه کو ادا کرنا ضروری ہوگا یا اس طرح کہہ دے کہ میں نے فلاں کی طرف سے ایک ہزار روپے کے عوض تجھ سے صلح کر لی تو یہ بھی درست ہے اور ایک ہزار روپیہ مدعی کو ادا کر دیا تو صلح صحیح ہوگی۔ اگر ایک ہزار روپیہ مدعی کے حوالہ نہیں کیا تو اس صورت میں معاہدے کی صحت مدعی علیہ کی اجازت پر موقوف ہوگی۔ اگر مدعی مان جائے تو عقد صحیح ہے ورنہ یہ معاہدہ کالعدم ہوگا۔

قرض پر صلح کرنا:

ایک شخص کا دوسرے پر خریدے ہوئے سامان کی قیمت کا ایک ہزار روپیہ قرض ہے اس نے اس کے ساتھ اس بات پر مصالحت کی کہ فی الحال مجھے پانچ سو روپے ادا کرو یہ معاہدہ صحیح ہے اور اس کو معاوضہ پر محمول کیا جائے گا تا کہ سود کی صورت نہ بن جائے۔ اگر مدیون نے دین دینے والے سے کہا کہ تم اپنے دین کی ادائیگی کا وقت بڑھا دو یا اس میں کچھ کمی کرو ورنہ میں تیرے دین کا اقرار نہیں کر رہا گا تو قرض خواہ نے وقت میں تاخیر کر دی یا قرض میں سے کچھ معاف کر دیا تو یہ قضاء صحیح ہے چنانچہ دائن کیلئے وقت سے پہلے یا معاف کی ہوئی مقدار کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔

ایک ہزار موجدل کے بدلے ایک ہزار موجدل دین پر صلح کی تو یہ صحیح ہے۔ اور اگر ایک ہزار موجدل ڈالر کے بدلے ایک ہزار موجدل ریال پر صلح کر لی تو یہ صحیح نہیں ہوگا کیونکہ یہ بیع صرف ہوگئی اور بیع صرف میں ثمن اور بیع دونوں پر مجلس عقد میں قبضہ کرنا ضروری ہے اور اس میں ادھار اس لیے جائز نہیں کہ یہ حق واجب کی جنس میں سے نہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنے مقروض سے کہا کہ میرے جو ایک

ہزار روپے تم نے بعد میں دینے ہیں اس میں سے پانچ سو روپے کل مجھے دے دو اور باقی میں تجھے معاف کرتا ہوں چنانچہ مقروض نے اگلے روز پانچ سو روپے اسے دے دیئے تو باقی قرض سے بری ہو جائے گا اور اگلے روز پانچ سو روپے سوا دینے کی اصل حالت کی طرف لوٹ آئے گا یعنی بعد میں ایک ہزار ہی ادا کرنا ہوں گے۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جبکہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک باقی سے بری ہوگا بعد میں بھی پانچ سو ہی دینا لازم ہوگا ہزار نہیں۔

دین مشترک کا حکم:

دین مشترک کی مثال یہ ہے کہ دو آدمیوں نے برابر برابر مال دے کر ایک عقد میں ایک چیز خریدی پھر اس کو تیسرے شخص کے ہاتھ شمن مؤجل کے عوض فروخت کر دیا اب ان میں سے ایک نے اگر شمن کے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا تو دوسرا بھی اس حصے میں اس کے ساتھ شریک ہوگا۔ اگر ان میں سے ایک نے اپنے حصے کے بعد شمن پر صلح کر کے مشتری سے کوئی سامان وغیرہ خرید لیا جو دین کی جنس کے علاوہ ہو تو دوسرے شریک کو حق حاصل ہے کہ وہ اس سامان کے نصف حصے کو لے لے، کیونکہ صلح آدھے دین پر ہوئی ہے اور دین دونوں کا مشترک ہے۔ اور دین کو وصول کرنے سے پہلے تقسیم کرنا صحیح نہیں ہے۔ لہذا دوسرے شریک کا حق دین کے اس حصے کے ساتھ بھی متعلق ہے تو یہ صلح اس کی اجازت پر موقوف ہوگی اور نصف سامان کو وصول کرنا دلیل اجازت ہے پس یہ عقد صحیح مانا جائے گا۔ اور صلح کرنے والا شریک اگر سامان نہ دے تو اصل دین (شمن بیع) کے ایک چوتھائی حصے کا ضامن ہوگا۔ جو اپنے دوسرے شریک کا رکو ادا کرے گا اس صورت میں پھر سامان میں اس دوسرے شریک کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اور اگر ان میں سے ایک شریک نے صلح کے الفاظ استعمال نہیں کیے بلکہ اپنے نصف دین کے بدلے اس سے کوئی چیز خریدی تو دوسرا شریک اس نصف کے نصف یعنی کل دین کے ایک چوتھائی کا ضامن ہوگا اور شریک اس سے اس کو وصول کرے گا کیونکہ یہاں خریدنے کا لفظ استعمال ہوا ہے صلح کا نہیں ہے۔ صلح میں دوسرے شریک کو اختیار دیا جائے کیونکہ صلح کا معاملہ عنو ودر گزر اور کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پر وجود پذیر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صلح کی صورت میں شریک نے مشتری کو دین کا کچھ حصہ معاف کر کے سامان پر قبضہ کر لیا ہو لہذا دوسرے شریک کو اختیار نہ دینے کی صورت میں اس کو نقصان کا اندیشہ ہے۔

اگر ایک شریک نے اپنے حصے کا دین مدیون کو معاف کر دیا تو دوسرا شریک اس سے اس کے آدھے کا مطالبہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے اپنا حصہ معاف کیا ہے وصول کچھ نہیں کیا ہے۔

اگر ایک شریک نے اپنے حصے کے نصف دین سے مدیون کو بری کیا تو وہ باقی نصف کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اور دوسرا شریک اپنے پورے نصف کا مطالبہ کرنے کا حقدار ہوگا۔ صورت مسئلہ اس کی اس طرح ہوگی۔ مثلاً ایک شخص کے اوپر دو آدمیوں کے بیس روپے قرض ہیں ان میں سے ایک نے اپنے حصے کا آدھا یعنی پانچ روپے معاف کر دیئے تو اس کے باقی پانچ روپے اور دوسرے شریک کے مکمل دس روپے اس کے ذمہ واجب الادا ہیں وہ اس سے مطالبہ وصولی کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کی میت کے ترکہ کے کئی ورثاء ہیں ان میں سے ایک نے کسی خاص مال پر دوسرے ورثاء کے ساتھ صلح کر لی اور کہا کہ میں صرف یہ مال لوں گا۔ باقی میراث تم آپس میں تقسیم کر لو دوسرے ورثاء نے اس کو قبول کیا اور وہ خاص مال لے کر باقی میراث سے دستبردار ہو گیا تو یہ جائز ہے۔ ترکہ چاہے زمین ہو یا عام مال جو مال اس نے لے لیا چاہے وہ زیادہ ہو یا کم بہر صورت یہ صلح جائز ہے کیونکہ یہ بیع کی طرح ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بیوی کو صلح کے طور پر ان کے مال کے آٹھویں حصے کا ایک چوتھائی یعنی اسی ہزار دینار دے کر صلح کی تھی یہ سارا واقعہ حضرات صحابہ کرام کی موجودگی میں ہوا کسی نے بھی اس پر تنقید نہیں فرمائی۔ اگر ترکہ میں سونا تھا اور صلح کے طور پر اس کو سونا یا کچھ اور دے دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے البتہ مجلس صلح میں اس پر قبضہ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ بھی صرف کے حکم میں ہے اور بیع صرف میں مجلس میں قبضہ شرط ہے۔ ترکہ میں اگر دین بھی ہو یعنی میت کا کسی کے اوپر قرض ہو اور صلح میں صلح کرنے والے کو دین کے مال سے نکال دیا جائے اور کہہ دیا کہ دین کے مال میں سے صلح کرنے والے کو کچھ نہیں ملے گا تو دین اور عین دونوں میں صلح باطل ہوگی کیونکہ اس میں غیر مدیون کو دین کا مالک بنانا ہے جب اس کے حصہ دین میں صلح باطل ہے تو کل میں بھی باطل ہوگی کیونکہ دونوں (دین اور عین) میں ایک ہی معاہدے کے تحت صلح ہو رہی ہے۔ البتہ اس کو جائز کرنے کا ایک طریقہ ہے وہ یہ کہ صلح کرنے والے کے دین میں اس کے حصہ کی بقدر اس کو قرض دے دیا جائے اور اس سے یہ مصالحت کی جائے کہ اس قرض کے بدلے وہ قرض وصول کیا جائے گا جو اس کے حصے کا قرض دوسرے شخص پر ہے گویا اس نے اپنے دین کی وصولی کام کو دوسرے ورثاء کی تحویل میں دے دیا۔

ابن سعد نے ”طبقات“ میں ابن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو سات سو افراد دے کر شعبان ۶ھ میں دمۃ الجندل کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ بار بار دعوت دی مگر انہوں نے انکار کیا اس کے بعد ان کے سردار اصبح بن عمرو الکلبی نے اسلام قبول کیا۔ عبدالرحمن

بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کو اس کی اطلاع دی۔ حضور اقدس ﷺ نے ان کو بذریعہ خط فرمایا: اصبح کی بیٹی تماضر کے ساتھ نکاح کر لو حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس کو لے کر مدینہ منورہ چلے آئے اس کے لطن سے صرف ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ابو سلمہ تھا۔

واقدی کی ایک روایت کے مطابق ان کے مزاج میں سختی تھی عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے اس کو دو طلاقیں دے رکھی تھیں۔ مرض الموت میں تیسری طلاق بھی دے دی دوران عدت حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو وارثت میں شامل رکھا۔

﴿ کتاب الہبۃ ﴾

لغت میں ہبہ کسی کے ساتھ مہربانی اور تبرع کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ انسانی کمال اور اچھی صفات میں سے شمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس صفت کے ساتھ اپنی ذاتی گرامی کو موصوف فرمایا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: ”أَمَّ عِنْدَهُ هُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ“ [ص: ۹] ”کیا نزدیک ان کے جس خزانے و رحمت پروردگار تیرے غالب بخشنے والے“۔ جب انسان اس صفت کے ساتھ متصف ہوگا تو وہ عظیم صفت کا مالک ہوگا کیونکہ اس سے وہ سخاوت جیسی عظیم صفت سے بہرور ہوتا ہے اور نفس کا بخل دور ہوتا ہے نیز موہوب لہ (جس کو ہبہ کیا گیا) کے دل میں خوشیوں کی لہر دوڑتی ہے۔ اس سے آپس کے بغض و حسد کا فور ہو جاتا ہے آپس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے ارشاد نبوی ﷺ ہے۔ ”تجادوا و اتحابوا“۔ ”ایک دوسرے کو ہدیہ دے کر آپس میں محبت پیدا کیا کرو۔“ ہبہ کی صفت سے متصف شخص نجات یافتہ لوگوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: ”وَمَنْ يُوقِ شَحْحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ“ [الحشر: ۹] ”اور جو کوئی بچایا جاوے بخلی جان اپنی کے سے بس یہ لوگ وہی ہیں فلاں پانے والے“۔ اور ہبہ کا شرعی معنی کسی کو بلا عوض کسی چیز کا مالک بنانا ہے۔

ہبہ کا ثبوت قرآن سے بھی ارشاد ہے: ”فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا“ [النساء: ۴] ”پس اگر خوشی سے دیں واسطے تمہارے کچھ چیز سے اس میں سے جی سے پس کھاؤ اس کو خوشی کے ساتھ“۔ ہبہ کا ثبوت حدیث سے بھی ہے: ارشاد نبوی ﷺ ہے: ”لو اهدی الی کراع لقبلت“^۱ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس ﷺ ہدیہ قبول فرماتے تھے۔^۲

ہبہ کا حکم:

حضرت امام ابو منصور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان پر جس طرح اپنے بچے کو توحید ایمان اور اخلاقیات کی تعلیم دینا فرض ہے اسی طرح ہبہ و احسان کی تربیت دینا بھی واجب ہے کیونکہ اس سے دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہے دنیا کی محبت تو تمام برائیوں کی جڑ ہے۔

ہبہ کرنا مندوب و مستحب ہے اس کو قبول کرنا سنت ہے۔ ہاں اگر قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو دوسری بات ہے مثلاً اسے معلوم ہو کہ جو چیز اس کو ہبہ میں مل رہی ہے وہ حرام ہے یا یہ

خطرہ ہو کہ ہبہ کرنے والا ہبہ کر کے احسان جتلاتا پھرے گا تو قبول نہ کرنا خلاف سنت نہیں ہوگا۔

ہبہ کارکن:

ہبہ کے دورکن ہیں۔ ہبہ کرنے والے کی طرف سے ایجاب اور موہوب لہ کی طرف سے قبول۔ البتہ بعض دفعہ صرف واہب کے ایجاب سے بھی ہبہ درست ہو جاتا ہے۔ اور ہبہ کے مکمل ہونے کی شرط اس پر قبضہ کرنا ہے کیونکہ موہوب لہ کیلئے ملکیت کے ثابت ہونے کیلئے قبضہ ضروری ہے۔ کیونکہ ہبہ عقد تبرع ہے قبضہ سے پہلے واہب کو ہبہ سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے قبضہ سے پہلے موہوب لہ کو مالک بنانا ہبہ کرنے والے پر اسی چیز کو لازم کرنا ہے جس کا اس نے التزام نہیں کیا ہے۔ قبضہ کے شرط ہونے کی دلیل ”ہبہ سے رجوع“ کی بحث میں آئیگی۔

ہبہ پر قبضہ:

اگر مجلس ہبہ میں موہوب لہ نے موہوب چیز پر ہبہ کرنے والے کے حکم کے بغیر قبضہ کر لیا اور ہبہ کرنے والے نے اس کو نہیں روکا تو یہ استحسانا جائز ہے کیونکہ ایجاب قبضہ کرنے کے حکم پر دلالت کرتا ہے لیکن مجلس برخاست ہونے کے بعد قبضہ کر لے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ الا یہ کہ واہب اس کو قبضہ کرنے کیلئے کہہ دے اور اگر واہب قبضہ سے روکے تو قبضہ کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ قبضہ سے روکنا رجوع کرنے کی دلیل ہے اور اگر مال موہوب، موہوب لہ کے پاس پہلے سے بطور عاریتہ یا امانت کے یا کرایہ کے طور پر موجود تھا یا اس نے زبردستی اپنے پاس رکھا تھا تو صرف ہبہ کرنے سے ملکیت آ جاتی ہے اور ہبہ تام ہو جاتا ہے کیونکہ اگر موہوب چیز امانت کے طور پر اس کے قبضے میں ہو تو وہ ہبہ کے قائم مقام ہوگی اور اگر کسی عوض کے تحت اس کے پاس موجود ہو تو وہ بطریق اولیٰ ہبہ کے قائم مقام ہوگی۔

اگر باپ اپنے چھوٹے بیٹے کو کوئی چیز ہبہ کر دے تو محض اس کے کہنے سے ہبہ تام ہو جاتا ہے قبضہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خود موہوب لہ (بیٹا) باپ کی زیر سرپرستی اور قبضے میں ہے لہذا ہبہ کے طور پر قبضہ کرنے کے حکم میں ہوگا چاہے وہ اس کے قبضے میں ہو یا اس کے سرپرست کے ہاتھ میں ہو۔ اس لیے کہ سرپرست کا قبضہ اس کا قبضہ شمار ہوتا ہے یہی حکم ہے جب والدہ اپنے چھوٹے بیٹے کیلئے ہبہ کر لے اور اس کی سرپرست اور پرورش کرنے والی ماں ہی ہو اور باپ کا انتقال ہو گیا ہو اور باپ کا کوئی وصی بھی موجود نہ ہے اگر کسی اجنبی نے بچے کو کوئی چیز ہبہ کر دی بچے کے باپ نے اس پر قبضہ کر لیا تو ہبہ تام ہوگا اس لیے کہ باپ اپنے بچے کے تمام امور کا مالک ہے حتیٰ کہ بچے کے نفع و نقصان کا بھی وہی ذمہ دار ہے۔

کسی یتیم بچے کو ہبہ کیا گیا اس کے ولی (سرپرست) نے اس کو قبضہ میں لے لیا تو یہ جائز ہے اور ہبہ مکمل ہے۔ (ولی باپ یا اس کا وصی دادا اس کا ولی ہے) اگر وہ اپنی ماں کی سرپرستی میں ہے یا بھائی کے زیر پرورش ہے یا چچا اس کی سرپرستی کر رہا ہو تو ماں کا موہوب چیز پر قبضہ کرنا جائز ہے کیونکہ بھائی اور چچا پر اس کی اور اس کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اگر وہ بچہ کسی اجنبی کے زیر پرورش ہے تو پرورش کرنے والے کا اس موہوب چیز پر قبضہ کرنا درست ہے اگر بچہ خود موہوب چیز اپنے قبضہ میں لے لے تو درست ہے بشرطیکہ اس میں نفع و نقصان کی تمیز ہو کیونکہ وہ منافع میں محض بالغ کی طرح ہے حتیٰ کے باپ کی موجودگی میں بھی اس کا مالک بن سکتا ہے۔

دو آدمیوں نے ایک چیز کسی کو ہبہ کی تو یہ شرعی لحاظ سے صحیح ہے اور اگر ایک آدمی نے ایک گھر دو آدمیوں کو ہبہ کیا تو یہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صحیح نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں گھر کا نصف حصہ دونوں میں مشترک ہوگا تو غیر متعین اشتراک لازم آتا ہے جو کہ جائز نہیں ہے جبکہ پہلی صورت میں دونوں نے ایک گھر اکٹھے ایک ہی وقت میں ہبہ کیے اور اس نے بیک وقت اس پر قبضہ کر لیا جبکہ حضرات صاحبین کے نزدیک دوسری صورت بھی صحیح ہے کیونکہ یہاں بھی سارا گھر دونوں کیلئے ہبہ کیا گیا ہے تملیک چونکہ واحد ہے اس لیے شیوع (اشتراک) کی صورت نہیں ہوگی۔ ترجیح امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ہے۔

ہبہ سے رجوع کرنا:

اگر کوئی چیز اجنبی کیلئے ہبہ کی گئی اور موہوت لہ نے ہبہ پر قبضہ بھی کر لیا تو پھر بھی واہب کو رجوع کا حق حاصل ہے کیونکہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: ”من وهب هبة فهو احق بها مالاً يشب منها“۔ ”جو ہبہ کرے وہ اس کا زیادہ حق دار ہے جب تک کہ اس پر عوض وصول نہ کرے۔“ لیکن ہبہ کر کے رجوع کرنا مکروہ ہے۔ پسندیدہ امر نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”العائد فی هبة کا لعائد فی قیہ“۔ ”ہبہ کر کے رجوع کرنے والا ایسا ہے جس طرح قے کر کے چائے والے۔“ ہبہ سے رجوع کرنا خاست اور کمینگی ہے۔

سوال: پہلی حدیث ”من وهب هبة فهو احق بها“ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہبہ سے رجوع کرنا جائز ہے جبکہ ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے ہبہ سے رجوع کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث یہ ہے کہ ”لا يحل لرجل ان يعطى عطية او يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطى ولده مثل الذي يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب ياكل

فاذا شبع قاء ثم عاد في قيه“ کسی کو عطیہ دے کر یا ہبہ کر کے رجوع کرنا حلال نہیں ہے مگر والد اپنے بیٹے کو کچھ عطاء کر کے واپس لے سکتا ہے۔ کسی کو کچھ عطاء کر کے یا ہبہ کر کے واپس لینے والے کی مثال اس کتے کی سی ہے جو پیٹ بھر کر کھا کر اس کو قے کر لے اور اس قے کو چائے۔“

جواب: یعنی موہوت لہ کی رضا مندی اور فیصلے کے بغیر ہبہ سے رجوع کرنا حلال نہیں

ہے مگر والد کیلئے اپنی اولاد کو ہبہ کر کے واپس لینا جائز ہے اور ایسا ضرورت کے وقت جائز ہے۔ اور والد کے ہبہ سے رجوع کرنے کی مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عمل ہے جس کو سیدہ عائشہؓ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے باغ میں سے بیس وسق منتخب کھجوریں مجھے لینے کی اجازت زبانی مرحمت فرمائی تھی قبضہ نہیں دیا تھا۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو مجھ سے فرمایا کہ اے میری لخت جگر! مجھے یہ بہت پسند ہے کہ میں تجھے خوش حال دیکھوں اور میرے بعد تیری محتاجی مجھ پر زیادہ باعث تکلیف ہوگی۔ میں نے بیس وسق کھجوریں ہر سال وصول کرنے کیلئے کہا تھا اب تک جو کچھ تم نے وصول کر لی ہیں وہ تو تیری ہیں لیکن اب یہ مال وراثت ہے تمہارے دو بھائی اور دو بہنیں اور بھی ہیں کتاب اللہ کے حکم کے مطابق اس کو میراث میں تقسیم کر لو۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا ابا جان! بات اگر ایسی ہے تو میں اس کو چھوڑتی ہوں لیکن یہ بتائیے کہ میری بہن کو ایک ”اسماء“ ہے دوسری کون ہے؟ فرمایا ”ذو بطن بنت خارجه“ یعنی (بانڈی)۔

ہبہ بالعوض سے رجوع نہیں کیا جاسکتا:

اگر موہوب لہ نے واہب کو ہبہ کے عوض کچھ دے دیا اور واہب نے عوض پر قبضہ کر لیا اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ ہبہ کا عوض اور بدل ہے تو اب اس کو ہبہ سے رجوع کا حق حاصل نہیں ہوگا کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ ”من وهب هبة فهو احق بها مال من يثب منها“ ”جو ہبہ کرے وہی اس کا حقدار ہے جب تک کہ اس پر عوض وصول نہ کرے۔“

جب اس نے اس کے بدلے عوض وصول کر لیا تو اس نے اس کا بدل یعنی (ہبہ) کو اس کے حوالہ کر دیا اب اس کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہوگا چاہے عوض قلیل ہو یا کثیر۔ موہوب چیز اس کی جنس میں سے ہو یا غیر جنس میں سے ہو البتہ واہب کو یہ معلوم ہونا شرط ہے کہ یہ ہبہ کا عوض ہے۔ یا اس کے بدلے میں مجھے ملا ہے لیکن اگر ایسی بات نہ ہو اور دینے والا اس کا تذکرہ بھی نہ کیا ہو اور نہ اسکے حاشیہ خیال میں آیا کہ یہ میرے ہبہ کا عوض ہے تو دونوں کو حق رجوع حاصل ہے۔

ہبہ کردہ مال میں اضافہ سے بھی رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے چنانچہ کسی کو گھر بطور ہبہ مل

گیا اس نے اس میں مزید تعمیرات کیں تو ہبہ کرنے والا رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ ہبہ میں اضافہ کی وجہ سے رجوع کرنا ممکن نہیں رہا۔ لیکن موہوب میں موہوب لہ (جس کو ہبہ کیا گیا ہو) کے تصرف یا کسی اور وجہ سے کمی اور نقص پیدا ہونا حق رجوع کو ساقط نہیں کرتا ہے۔

موت سے بھی حق رجوع ساقط ہو جاتا ہے:

اگر ہبہ کرنے والا یا وہ شخص جس کو ہبہ کیا گیا تھا فوت ہو گیا تو ہبہ کرنے والے کے ورثاء کو ہبہ واپس لینے کا حق ختم ہو گیا کیونکہ موہوب لہ کے مرنے سے ملکیت اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہو گئی ہے اور واہب کے مرنے سے اس کے ورثاء ہبہ کے معاملہ میں بھی اجنبی کی حیثیت رکھتے ہیں۔

موہوب چیز کا موہوب لہ کی ملکیت سے نکلنا بھی حق رجوع کو ساقط کرتا

ہے:

اگر موہوب چیز موہوب لہ کی ملکیت سے فروخت کرنے کی وجہ سے یا کسی کو ہبہ کرنے کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے خارج ہو جائے تو بھی واہب کیلئے ہبہ سے رجوع کرنے کا حق نہیں رہتا ہے۔ حتیٰ کہ موہوب لہ نے اس کو آگے ہبہ کر دیا وہ اس سے رجوع کر کے موہوب کو اپنے قبضے میں لے بھی لیا تب بھی واہب اول کیلئے رجوع کا حق نہیں رہتا۔

محرم رشتہ دار کو بھی ہبہ میں رجوع کا حق حاصل نہیں ہے اگر اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو ہبہ کیا اور موہوب لہ نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا تو اب ہبہ کرنے والے کیلئے ہبہ کو واپس لینا جائز نہیں ہے۔ ہاں قبضہ سے پہلے رجوع کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے کیونکہ رشتہ دار کو ہبہ کرنے کا مقصد صلہ رحمی کو بڑھانا ہوتا ہے اور ہبہ کر کے واپس لینا اس صلہ رحمی میں رخنہ اندازی ہے۔ اس لیے یہ درست نہیں ہے لیکن رضاعی رشتہ دار یا بیوی کی طرف سے رشتہ داروں کو ہبہ کرنے کے بعد اس سے رجوع کرنا جائز ہے۔

میاں بیوی کیلئے بھی ہبہ کرنے کے بعد اس سے رجوع کرنا جائز نہیں ہے یہاں بھی ہبہ سے مقصود آپس میں کی محبت کو بڑھانا اور ہبہ کو واپس لینے میں الفت ختم اور نفرت بڑھتی ہے۔ بعض حضرات نے مانع رجوع کو یاد کرنے اور اسے آسان کرنے کیلئے یہ شعر کہا ہے:

”و مانع عن الرجوع فی الہبۃ یا صاحبی حروف (مع خزقۃ)“

یعنی انہوں نے ”مع خزقۃ“ میں موانع رجوع جمع کر دیئے ہیں وہ اس طرح کہ دال سے

مراد موہوب چیز میں زیادتی، میم سے مراد موہوب لہ یا واہب کی موت عین سے عوض خاء سے موہوب چیز کا موہوب لہ کی ملکیت سے خارج ہونا، زاء سے زوجیت، قاف سے قرابت اور ہاء سے موہوب لہ کی ہلاکت مراد ہے۔

ہبہ میں رجوع کے صحیح ہونے کی شرائط:

واہب اور موہوب لہ کی رضامندی شرط ہے یا عدالت کا فیصلہ اگر آپس کی رضامندی سے واپس کیا ہو تو اس نے خود اپنے حق کو باطل کیا ہے۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ موہوب چیز واہب کو واپس دیدی جائے اگر عدالت کے فیصلے کے بعد واہب کو واپس کرنے سے قبل موہوب لہ کے پاس ہلاک ہو جائے تو موہوب لہ ضامن نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ اس کے ہاتھ میں امانت ہے اور امانت کی ہلاکت سے ضمان نہیں آتا۔

عمر بھر کیلئے ہبہ کرنا:

عمر بھر کیلئے ہبہ کرنا درست ہے یعنی ہبہ صحیح ہوگا مگر تاحیات کی شرط ساقط ہو جائے گی جس کو تاحیات ہبہ کیا تھا اس کے انتقال سے موہوب تو واپس واہب کی طرف نہیں لوٹے گی بلکہ وہ بدستور موہوب لہ سے اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہوگی کیونکہ ارشاد نبوی ﷺ ہے: "العمریٰ جائزۃ" تاحیات ہبہ جائز ہے۔ دوسرا ارشاد ہے: "العمریٰ میراث لا ہلہا"۔

تاحیات ہبہ موہوب کے ورثاء کی میراث ہے۔ تیسرا ارشاد ہے: "ایما رجل اعمر عمریٰ له ولعقبہ فانہا للذی اعطیہا لا ترجع الی الذی اعطاہا لا نہ اعطی عطاء وقعت فیہ الموارث" ۱۔ "جو چیز کسی کو تاحیات ہبہ کی گئی ہو وہ موہوب لہ کا حق ہے واہب کو واپس نہیں لوٹائی جائے گی اس لیے کہ اس نے ایسی چیز عطا کی ہے جس میں میراث جاری ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے گھر کسی کو ہبہ کر کے کہا کہ یہ گھر تیری زندگی میں تیرا ہے اور تیرے مرنے کے بعد میں واپس لوں گا تو ہبہ صحیح ہے گھر موہوب لہ کا ہوگا مگر مرنے پر واپسی کی شرط باطل ہو جائے گی۔ اور ہبہ شرط باطل سے باطل نہیں ہوتا جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "امسکو علیکم اموالکم ولا تفسدواھا فانہ من اعمر عمریٰ فہی للذی اعمرھا حیا ومیتا ولعقبہ" ۲۔ "اپنے اموال کو اپنے پاس رکھو اس کو فاسد مت کرو جس کو عمر بھر کیلئے ہبہ کیا گیا وہ زندگی میں بھر اس کا ہے اور مرنے کے بعد بھی"۔ اسی طرح اگر ہبہ کر کے موہوب لہ سے یہ معاہدہ کیا کہ اگر تو پہلے مر گیا

تو یہ میرا ہوگا اور اس سے پہلے مر گیا تو مستقل طور پر تیری ملکیت ہوگی۔ اس کو فقہ کی اصطلاح میں ”رقعی“ کہتے ہیں یعنی ایک دوسرے کے مرنے کا انتظار کرنا۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے اس سے ہبہ نہیں ہوگا اگر گھر موہوب لہ کے حوالہ کر دیا تو اس کے ہاتھ میں مستعار (بطور عاریت) ہوگا موہوب لہ اس کا مالک نہیں بنے گا بلکہ مالک جب چاہے اس کو واپس لے سکتا ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہبہ ہے اور صحیح ہے کیونکہ واہب کا یہ کہنا کہ میرا یہ گھر تیرا ہے تمہاری ملکیت ہے۔ اور رقی کی شرط لگانا شرط فاسد ہے۔ یہ ہبہ صحیح ہوگا اور شرط کا اعتبار نہیں ہوگا دلیل اس کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ارشاد نبوی ہے ”العمرى جائزة لمن ارقبها“۔

صدقہ:

صدقہ قبضے کے بغیر نام نہیں ہوگا یہ بھی ہبہ کی طرح ایک تبرع (احسان) ہے قبضہ ہونے کے بعد اس کو واپس کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جاسکتا ہے کیونکہ صدقہ کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دربار عالی سے ثواب کا حاصل کرنا ہے چاہے فقیر یہ صدقہ کرے چاہے غنی پر لیکن غنی کو صدقہ کرنے کے بعد رجوع کرنا قیاس کے خلاف نہیں ہے کیونکہ غنی کو صدقہ کرنا دنیاوی غرض سے ہوتا ہے لیکن فقہاء نے فرمایا: رجوع کرنا اچھا نہیں ہے کیونکہ اس کو صدقہ کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔

صدقہ کرنے کی نذر ماننا:

جو شخص اپنے مال میں سے صدقہ کرنے کی نذر مانے اور کہے کہ ”میں اپنے مال میں سے صدقہ کرنے کی نذر مانتا ہوں“ تو جس مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کی جنس میں سے صدقہ کرنا استحساناً ضروری ہوگا۔ اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ سارے مال کا صدقہ لازم ہوگا استحسان کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا کسی چیز کو اپنے اوپر واجب کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب ہونے سے تعبیر کیا جاتا ہے پس بندے کا واجب کرنا گویا اللہ تعالیٰ کا واجب کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے زکوٰۃ واجب ہے لہذا اس پر زکوٰۃ کی مقدار کے مطابق مال واجب ہوگا۔ اس شخص کی عبارت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ فاضل مال کو صدقہ کرے گا اور وہ مال زکوٰۃ ہے: ارشاد خداوندی ہے ”نُحَدِّثُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ“ [التوبہ: ۱۰۲] ”آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیں جو ان کو پاک و صاف کرے گا“۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر یہ کہہ دے کہ میں مملوک مال کو صدقہ کرنے کی نذر مانتا ہوں تو سارے مال کو صدقہ کرنا اس پر لازم ہوگا مگر صحیح یہ ہے کہ اس صورت میں بھی پہلی صورت کی طرح مقدار زکوٰۃ ہی واجب ہوگی۔

اگر کوئی شخص یوں کہہ دے کہ ”میرا گھر مساکین کیلئے صدقہ ہے“ تو اس کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا اور اگر اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت کو صدقہ کیا تو یہ بھی جائز ہے۔ ایک شخص نے مزاح کے طور پر دوسرے شخص سے کہا کہ یا رب یہ چیز مجھے ہبہ کر دو اس نے کہا میں نے تجھے ہبہ کر دی۔ اس نے کہا کہ میں نے قبول کر لی پھر اس نے وہ چیز اس کے حوالہ کر دی تو یہ ہبہ صحیح ہے اور جائز ہے جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک کہیں جا رہے تھے کہ راستہ میں دیکھا کہ کچھ لوگ دف بجا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے ان سے فرمایا: یہ دف مجھے ہبہ کرو اور دیکھو کہ میں کس طرح دف بجاتا ہوں لوگوں نے دف ان کے حوالہ کر دی انہوں نے دف کو زمین دے مارا اور اس کو توڑ دیا پھر لوگوں سے کہا: دیکھ لیا کس طرح میں نے دف بجائی؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے تو ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ عبداللہ بن مبارک نے ہبہ کرنے کی درخواست ضمان سے بچنے کیلئے کی تھی۔

﴿ کتاب الودیعة ﴾

ودیعت کا لغوی معنی ترک کرنا ہے۔ اسی لیے لڑائی ترک کرنے کو اہل عرب موادعة الحرب کہتے ہیں۔ حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”لینتھین اقوام عن ودعہم الجمعات اولیٰ ختمن اللہ علی قلوبہم ثم لیکونن من الغافلین“^۱ ”لوگ اگر جمعہ یا جماعت چھوڑنے سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے پھر وہ غافلوں میں سے ہوں گے۔“ دوسرا معنی حفاظت کرنا ہے۔ حضور ﷺ سفر پر جانے والوں سے فرمایا کرتے تھے: ”استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک“^۲ ”میں تیرا دین، تیری امانت اور تیرے آخری عمل کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔“ اسی طرح امانت بھی مودع (جس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے) کے پاس حفاظت کیلئے چھوڑی جاتی ہے اس لیے اس کو ”ودیعت“ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ودیعت کا شرعی معنی: تسلیط الغیر علی حفظ مالہ یعنی کسی دوسرے کو اپنے مال کی حفاظت پر مقرر کرنا۔ یا دوسرے الفاظ میں یوں تعریف کی جاتی ہے کہ جو شخص حفاظت کرنے کا اہل اس کے پاس اپنے مال کو حفاظت کیلئے رکھوانے کو ودیعت کہا جاتا ہے۔

امانت اور ودیعت میں فرق:

ودیعت قصداً حفاظت کیلئے کوئی چیز دینے کو کہتے ہیں اور امانت بلا قصد کسی کے پاس کوئی چیز آ جانے کو کہتے ہیں۔ اس لیے ودیعت عام طور پر اس آدمی کے پاس رکھوائی جاتی ہے جو امانت و دیانت میں معروف ہو۔ یہ مشروع عقد ہے اس میں مودع (جس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے) پر ہلاکت و دیعت کی صورت میں ضمان و تاوان نہیں آتا۔ اور یہ عقد بھی ایجاب و قبول سے منعقد ہوتا ہے۔ ودیعت رکھنے والے کی طرف سے یہ کہنا کہ میں اس کو آپ کے پاس بطور امانت رکھتا ہوں۔ ایجاب ہے اور مودع کا کہنا کہ ”ٹھیک ہے“ یا اس سے ملتے جلتے الفاظ جو قبول پر دلالت کریں قبول کہلاتا ہے۔

قاضی شریح رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ حضرت عمرو بن شعیب سے حضور ﷺ کا یہ ارشاد گرامی مروی ہے: ”لیس علی المستودع غیر المغل ضمان“ (مال مودع میں) زیادتی

نہ کرنے والے مستودع پر کوئی تاوان نہیں ہے۔“

ودیعت کا حکم:

ودیعت مودع کے ہاتھ میں امانت ہے۔ اگر اس کی زیادتی یا تصرف کے بغیر ہلاک یا تلف ہو جائے تو اس پر کوئی تاوان نہیں ہوگا۔ مودع کو اختیار ہے خود اس کی حفاظت کرے یا اپنے گھر والوں سے اس کی حفاظت کرائے اس لیے کہ اس مال کی حفاظت کی ذمہ داری لینے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح اس مال کی بھی حفاظت کرے گا۔ اور اس کو اپنے گھر والوں کے ذریعے حفاظت کرائے بغیر اس کیلئے کوئی چارہ کار نہیں کیونکہ وہ ہر وقت گھر میں نہیں رہ سکتا نہ ہی اس مال کو اپنے ساتھ لیے پھر سکتا ہے۔ اور محالہ گھر والے ہی حفاظت کرتے ہیں البتہ گھر والوں کے علاوہ کسی اور کو دینے کا اختیار نہیں ہے۔ اور اگر ودیعت رکھوانے والے نے کہا کہ اس کو حفاظت کیلئے اپنی بیوی کے حوالہ نہ کرنا اور مودع نے وہ چیز اپنی بیوی کو دیدی اور وہ ہلاک ہوگئی تو ضامن نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس کو دیئے بغیر اس کیلئے کوئی چارہ کار نہیں ہے کیونکہ جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو سارا گھر بیوی کے حوالے ہوتا ہے۔ اور اگر اپنے گھر والوں کے علاوہ کسی اور کی حفاظت میں دیدیا یا کسی اور کے پاس بطور ودیعت رکھ دیا اور وہ ہلاک ہو گیا تو ضامن ہوگا۔ کیونکہ مالک اس کے ہاتھوں حفاظت کرنے پر رضامند تھا نہ کے غیر کے ہاتھوں۔ کیونکہ امانت و دیانت میں لوگ مختلف ہوتے ہیں۔ پس اس طرح مودع مالک کے حق میں اس کے وکیل یا مضارب کی طرح ہو گیا وکیل اور مضارب کسی اور کو وکیل یا کسی کو مضارب نہیں بنا سکتے۔

اگر مودع کے گھر میں ایسی حالت پیش آئی جس کے سبب سے ودیعت کے مال کی حفاظت مخدوش نظر آنے لگی جس کی وجہ سے اس نے بغرض حفاظت وہ چیز اپنے کسی پڑوسی کو دے دی اور پڑوسی کے ہاتھ سے وہ چیز کسی وجہ سے ہلاک ہوگئی یا اس نے اس میں کوئی ایسا تصرف کیا جس کے ذریعے اس کی حفاظت ہو مگر وہ چیز ہلاک ہوگئی تو مودع کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جائے گا اور اس پر تاوان نہیں آئے گا۔ بشرطیکہ وہ اپنے اس فعل پر گواہ پیش کرے کیونکہ وہ مدعی ہے اور تاوان نہ لگنے کا دعویٰ کر رہا ہے اور مدعی پر گواہ پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کی عام تشہیر ہو جائے جس کی وجہ سے اس نے مال ودیعت دوسرے کے ہاتھ رکھوایا تھا تو تب گواہ پیش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔

اگر ودیعت رکھنے والے نے مودع سے اس کے گھر کے ایک مخصوص کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میرا سامان (ودیعت) اس کمرے میں رکھو۔ صاحب خانہ نے اس کو دوسرے کمرے میں رکھا اور وہ ہلاک ہو گیا تو ضامن نہیں ہوگا کیونکہ یہ شرط غیر ضروری اور غیر مفید ہے۔

کیونکہ حفاظت کے حوالے سے ایک گھر کے تمام کمرے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ہاں اس گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں رکھی اور وہ ہلاک ہوگئی تو ضامن ہوگا اس لیے کہ دو مختلف گھر محفوظ اور غیر محفوظ ہونے میں مختلف ہو سکتے ہیں۔

مودع کب ضامن ہوگا:

(۱) مودع نے ودیعت کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر حفاظت کی اور ودیعت اس کے مال کے ساتھ اس طرح مختلط ہوگئی کہ فرق کرنا مشکل ہو گیا پھر سارا مال ہلاک ہو گیا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس صورت میں مودع ضامن ہوگا۔

(۲) مودع نے مال ودیعت میں سے کچھ خرچ کر لیا پھر اپنے مال میں سے خرچ کردہ مال کو دوبارہ ودیعت میں شامل کر دیا اور وہ آپس میں مختلط ہو گئے پھر وہ ہلاک ہو گیا تو اس صورت میں بھی مکمل ودیعت کا ضامن ہوگا کیونکہ پہلے اس نے اس میں تصرف کر کے اس میں سے کچھ مال اپنے مال کے ساتھ ملا دیا اور یہ ہلاک کرنے کی طرح ہے۔ تاوان کا نہ آنا ہلاک ہونے کی صورت میں ہے لیکن ہلاک کرنے کی صورت میں تاوان آئے گا۔

(۳) ودیعت کے مالک نے واپسی کا مطالبہ کیا اور مودع نے واپس کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود واپس نہیں کیا اور وہ مال اس کے پاس ہلاک ہو گیا تو ضامن ہوگا۔ کیونکہ اس نے واپس نہ کر کے اس پر زیادتی کی اور یہ مسئلہ غاصب کے حکم کی طرح ہے۔ لیکن اگر واپس نہ کرنا کسی معقول عذر کی وجہ سے ہو مثلاً واپس کرنے پر قادر نہ ہو یا اپنی جان کے تلف ہونے یا مال ودیعت کے تلف ہونے کا خطرہ ہو اور واپس نہ کر سکا اور پھر اس کے ہاں وہ ہلاک ہو گیا تو ضامن نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر صاحب ودیعت نے اس کا مطالبہ کیا اور مودع نے کہا کہ اس وقت میں اس کو واپس کرنے پر قادر نہیں ہوں اور مودع نے اس کو اس وقت چھوڑ دیا اور پھر وہ مال مودع کے پاس ہلاک ہو گیا تو پھر مودع ضامن نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت اس کے پاس چھوڑنا گویا امانت رکھنا ہے۔ اگر صاحب مال نے واپسی کا مطالبہ کیا اور مودع نے کہا کہ کل طلب کر لینا اس نے کہا کہ ٹھیک ہ پھر کل آنے سے قبل وہ مال ہلاک ہو گیا تب بھی مودع پر تاوان نہیں پڑے گا۔

(۴) صاحب مال نے واپسی کا مطالبہ کیا اور مودع نے اس کا انکار کیا اور وہ ہلاک ہو گیا تو ضامن آئے گا کیونکہ اس نے ودیعت واپس کرنے کا مطالبہ کیا تو گویا اس نے اس مال کو اس کی

حفاظت سے الگ کر دیا اور اس نے اس کا انکار کر کے گویا اس پر ناجائز قبضہ کیا پس یہ غاصب کی طرح ہو گیا اور غاصب پر تاوان آتا ہے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر مودع نے مالک کے علاوہ کسی اور کے سامنے ودیعت کا انکار پھر وہ مودع کے پاس ہلاک ہو گیا تو ضامن نہیں ہوگا۔ صاحب مال نے مودع سے خفیہ طور پر کہا کہ جو شخص تیرے پاس آ کر اس کی فلاں علامت بتا دے تو یہ اس کو دے دینا پھر ایک شخص نے مودع کے پاس آ کر وہی علامت بتلا کر اس کا مطالبہ کیا۔ مودع نے مال ودیعت اس کو نہیں دیا پھر مال ودیعت ہلاک ہو گیا تب بھی وہ ضامن نہیں ہوگا اور اگر مودع یا اس کے وکیل کی موجودگی میں انکار کیا پھر حوالہ کرنے سے قبل اس کے ہاتھ میں ہلاک ہو گیا تو ضامن ہوگا۔ اور اگر صاحب مال یا اس کے وکیل کے علاوہ کسی اور سامنے انکار کیا تو ضامن نہیں ہوگا۔ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے کیونکہ بعض اوقات انسان حفاظت کی غرض سے بھی ودیعت کو چھپاتا ہے اور یہاں اس کا انکار کرنا بغرض حفاظت ہے کیونکہ اس میں لالچی لوگوں کی طمع کو ختم کرنا ہے۔

ایک آدمی کے پاس دو آدمیوں کے ودیعت رکھنے کا حکم:

دو افراد نے ایک شخص کے پاس کوئی موزونی (جس کا وزن کیا جاتا ہو) چیز ودیعت کے طور پر رکھ دی۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے آ کر اپنے حصے کی چیز واپس کرنے کا مطالبہ کیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مودع اس کو یہ حصہ اس وقت تک نہ دینے کا مجاز ہوگا جب تک کہ وہ اپنے دوسرے شریک کو بھی حاضر نہ کر دے۔ کیونکہ وہ اپنے جدا حصے کا مطالبہ کر رہا ہے جبکہ اس کا حصہ مال مشاع میں ہے اور جدا تو تقسیم کے بعد ہی ہوگا اور وہ ابھی تک تقسیم نہیں ہوا۔ جب مودع کو دینا ممکن نہیں تو اس کو اس کا حکم کیسے دیا جاسکتا ہے۔ اور صاحبین (امام ابو یوسف، امام محمد) فرماتے ہیں کہ اس کا حصہ اس کے حوالہ کر دے کیونکہ اس نے اپنا حصہ اس کے حوالہ کیا ہے تو عند الطلب وہ اس کو واپس کرے۔ لیکن فتویٰ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہے۔ اگر ایک شخص نے دو آدمیوں کے پاس کوئی قابل تقسیم چیز بطور ودیعت رکھی تو ان میں سے کوئی ایک سارا مال ودیعت اپنے پاس رکھنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ ہاں اس کو تقسیم کر کے آدھا آدھا کر کے اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ ہاں اگر وہ چیز قابل تقسیم ہو تو ایک کی اجازت سے دوسرا اس کی حفاظت کر سکتا ہے اس لیے کہ مالک ان میں سے ہر ایک کے پاس رکھنے پر رضامند ہے۔

﴿ کتاب العاریت ﴾

عاریت عریۃ سے مشتق ہے اور عریۃ عطیہ کو کہتے ہیں اور شرعی معنی ”تملیک المنافع بغیر عوض“ ہے۔ یعنی کسی چیز کے منافع کو بلا عوض کسی کی ملکیت میں دینا یہ احسان کی ایک نوع ہے۔ عاریت کے صحیح ہونے کی شرط عاریۃ کا قابل انتفاع ہونا ہے ذات کے باقی رہنے کے ساتھ یہ معاہدہ بھی شرعاً جائز ہے۔ یہ بھی ایجاب و قبول سے منعقد ہوتا ہے۔ انسانی ضرورت کے پیش نظر مشروع ہوا ہے۔ ارشاد باری ہے: ”وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ“ [المائدہ: ۲] ”نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو“۔

کن الفاظ سے عاریت منعقد ہوتی ہے:

عاریت صحیح ہوتی ہے ان الفاظ سے۔ مثلاً کہا کہ میں نے یہ گاڑی تمہیں بطور عاریت دے دی یا کہہ دے کہ اس گاڑی سے اپنی ضروریات پوری کرتے رہو، یا کہہ دے کہ یہ گھر میں نے تمہیں رہنے کیلئے دیا یا کہہ دے کہ جب تک تمہاری ضرورت ہے اسے اپنے استعمال میں لاؤ یا کہہ دے کہ اس کو اپنی ضرورت میں استعمال کرو۔ یا اس جیسے دوسرے الفاظ سے منعقد ہوتا ہے۔

مستعار کی قسمیں:

جو چیز استعمال کیلئے کسی کو عاریۃ دی جاتی ہے اس کو مستعار کہتے ہیں ہے۔ یہ مستعار چیز دو قسموں پر ہوتی ہے (۱) وہ ہے جس کے انتفاع سے اس کی ذات ختم نہیں ہوتی، مثلاً گاڑی، کپڑے، گھر وغیرہ ان کو استعمال کرنے سے اس کی ذات ختم نہیں ہوتی لہذا ایسی اشیاء استعمال کیلئے کسی کو دینا عاریت حقیقیہ کہلاتا ہے۔ (۲) وہ چیز جس کی ذات کو ختم کیے بغیر اس سے فائدہ حاصل نہ کیا جاتا ہو مثلاً نقدی، انڈے، کھانے پینے کی دیگر اشیاء کہ ان کو عاریۃ دینا عاریت مجازی کہلاتا ہے اور عاریت معنا قرض ہے۔

عاریت کا حکم:

عاریۃ (مال مستعار) مستعیر (جس کو استعمال کیلئے دیا) کے پاس امانت ہوتا ہے اگر اس پر

زیادتی نہیں کی اور وہ ہلاک ہو گیا تو اس پر کوئی ضمان نہیں آئے گا۔ دلیل اس کی قاضی شریح کی روایت ہے جو سابق میں بھی گزری ہے کہ ”لیس علی المستعیر غیر المغل ضمان“ یعنی مستعیر نے اگر زیادتی نہیں کی اس پر کوئی تاوان نہیں ہے۔

دوسری وجہ ضمان نہ آنے کی یہ بھی ہے کہ جب اس نے مالک سے اس کو وصول کیا تھا تو ضمان دینے کی شرط پر نہیں کیا تھا۔ کیونکہ عاریت کی تعریف اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ منافع کوئی عوض نہ ہو۔ لہذا تعدی (زیادتی) کے بغیر ہلاک ہو گیا تو ضمان نہیں ہوگا اور حضور ﷺ کا ارشاد گرامی بھی ہے: ”علی الید ما اخذت حتی تودی“ قتادہ جو اس روایت کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ حسن بن سمرہ نے اس کو رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا ہے۔ مذکورہ الفاظ بیان کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا: ”هو امینک لا ضمان علیہ“ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کر کے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔^۱

نیز حضرت یعلیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: اگر میرا نمائندہ تیرے پاس آ جائے تو اس کو تمیں زرہیں اور تمیں اونٹ دے دینا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ: ضمان والی عاریت کے طور پر یا بلا ضمان عاریت کے طور پر۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ بلا ضمان و تاوان کی شرط پر۔^۲

نیز ایک اور روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت صفوان سے فرمایا: صفوان! کیا تمہارے پاس اسلحہ موجود ہے؟ عرض کیا: عاریتہ کے طور پر یا غصب کے طور پر؟ فرمایا نہیں بلکہ عاریت کے طور پر۔ تو صفوان نے حضور اقدس ﷺ کو تمیں سے چالیس کے درمیان زرہیں بطور عاریت استعمال کیلئے دیدیں۔ حضور ﷺ نے انہیں غزوہ حنین میں استعمال میں لایا جب غزوہ ختم ہوا مشرکین کو شکست ہو گئی تو صفوان کی زرہوں کو جمع کیا گیا، ان میں سے بعض ٹوٹ ہو گئیں تھیں حضور ﷺ نے صفوان سے فرمایا: ہم نے آپ کے بعض زرہوں کو توڑ دیا کیا اس کا تاوان تمہیں دیدیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! نہیں۔ کیونکہ آج جو بات میرے دل میں پیوست ہے وہ اس دن نہیں تھی۔^۳

ایک اور روایت میں آیا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر حضور ﷺ نے صفوان بن امیہ سے رہیں عاریت کے طور پر طلب فرمائیں۔ صفوان نے کہا کہ کیا غصب کے طور پر لے رہے ہیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: نہیں بلکہ قابل ضمان عاریت کے طور پر۔ بظاہر کچھلی روایت اور اس روایت میں تعارض معلوم ہوتا ہے دونوں میں تطبیق کی صورت یہ ہوگی جس کو نصب الرایہ میں بھی بیان

کیا گیا ہے کہ حضور ﷺ نے صفوان سے دو مرتبہ عاریت کے طور پر چیزیں لی ہیں۔ ایک مرتبہ ضمان دینے کی شرط پر اور دوسری مرتبہ بلا ضمان کے لی تھیں۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر مستعار چیز مستعیر کے پاس ہلاک ہو جائے تو مستعیر ضامن نہیں ہوگا بشرطیکہ اس نے اس پر کوئی زیادتی نہ ہوئی۔ امام صاحب کی دلیل قاضی مشرح کی ہذاویت ہے۔ ”لیس علی المستعیر غیر المغل ضمان“ ”زیادتی نہ کرنے والے مستعیر پر تاوان نہیں۔“

کیا مستعیر عاریت کو آگے عاریت دے سکتا ہے؟

جب یہ ثابت ہے کہ عاریت منافع کا بلا عوض کسی کو مالک بنانا ہے تو مستعیر اس مستعار چیز کے منافع کا مالک ہے۔ اور آگے استعمال کیلئے کسی کو دے سکتا ہے بشرطیکہ جس کو دے رہا ہے وہ اس کو استعمال مستعیر کی طرح کرے۔ اور اس کا استعمال مستعیر کے استعمال سے مختلف نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کیلئے اس پر اجرت و کرایہ لینا جائز نہیں ہوگا۔

مثلاً ایک شخص نے استعمال کیلئے بطور استعارہ گاڑی یا کپڑے یا گھر کسی سے لے لیا لیکن اس کیلئے کوئی وقت متعین نہیں کیا اور نہ یہ بتایا کہ استعمال کون کرے گا؟ تو اس صورت میں مستعیر کیلئے جائز ہے کہ وہ کسی بھی وقت اس کو استعمال کرے اور سواری کیلئے کسی اور کو دے سکتا ہے کپڑے کو پہننے اور گھر کو رہنے کیلئے کسی اور کو دے سکتا ہے لیکن معیر (عاریت پر دینے والا) سے لینے کے بعد خود استعمال کرنا شروع کیا تو دوسرے کو نہیں دے سکتا۔ اگر دے دیا اور وہ ہلاک ہو گیا تو ضامن ہوگا اس کا تاوان دینا پڑے گا اور اگر واپس کرنے کا وقت متعین کر کے لے لیا تھا اور وقت مقررہ کے بعد بھی واپس نہیں کیا اور ہلاک ہو گیا تو ضامن ہوگا تاوان دینا پڑے گا۔

کسی نے کار بطور عاریت کے لی اور استعمال کا وقت متعین نہیں کیا تو اس سے سامان برداری کا کام نہیں لے سکتا کیونکہ وہ سامان لادنے کیلئے نہیں بنائی گئی بلکہ بیٹھنے کیلئے ہے لہذا سامان لادنے کی صورت میں نقصان ہو تو نقصان کا تاوان ہوگا۔ اسی طرح اس کو ایسا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہوگا جس سے نقصان کا خصرہ ہو اگر ایسا استعمال کیا تب بھی نقصان کا تاوان دینا پڑے گا۔

”الخلاصہ“ میں لکھا ہے کہ اگر معیر نے خاص وقت اور خاص کام میں استعمال کرنے کی شرط لگائی تو مستعیر کیلئے اس کی خلاف ورزی جائز نہیں ہے۔ اگر اس نے اس کے علاوہ بھی استعمال کیا اور نقصان ہو تو نقصان کا ضامن ہوگا۔

کیا مستعیر، شے مستعار کو بطور کرایہ کسی اور کو دے سکتا ہے:

مستعیر کیلئے جائز نہیں ہے کہ وہ مال مستعار کو کرایہ پر دے۔ اگر کرایہ پر دے دیا اور وہ ہلاک ہو گیا تو ضامن ہوگا کیونکہ وہ تعدی کرنے والا ہو گیا اور تعدی کرنے پر تاوان آتا ہے کیونکہ اس نے دوسرے کی ملک میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کیا اور یہی تعدی ہے۔

عاریت پر دے کر رجوع کرنا:

معیر کو اختیار ہے کہ وہ جب چاہے اپنی چیز کو واپس لے سکتا ہے کیونکہ یہ عقد تبرع ہے۔ اسی طرح زمین مکان بنانے یا کاشت کرنے کیلئے عاریت لینا جائز ہے مگر مستعیر کو چاہیے کہ وہ اس بات کو ملحوظ نظر رکھے کہ معیر کسی بھی وقت اس کو واپس لے سکتا ہے۔

مستعیر پر لازم ہے کہ وہ عاریت کیلئے وقت مقرر کرے تاکہ کسی بھی وقت اکھاڑنے یا گرانے کے حکم سے بچ جائے۔ وقت کے عدم تعین کی صورت میں معیر کسی بھی وقت مکان گرانے کا حکم دے سکتا ہے اور اس کو یہ حق حاصل ہے البتہ اکھاڑنے میں زمین کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر اکھاڑنے کی صورت میں زمین کے خراب ہونے کا خطرہ ہو تو اس کو اپنی حالت پر رہنے دیا جائے گا اور معیر مکان کے بلبے کی قیمت دے گا یعنی عمارت کی قیمت نہیں بلکہ بلبے کی قیمت ادا کرے گا اور اگر وقت مقرر کیا تھا اور مقررہ وقت سے قبل اکھاڑنے کا حکم دیا تو بلبے کی قیمت نہیں بلکہ عمارت کی قیمت ادا کرے گا۔

اگر مستعیر نے کاشت کرنے کی غرض سے زمین عاریت پر لی تو فصل پکنے سے پہلے معیر واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ چاہے عاریت دیتے وقت متعین کیا ہو یا نہ کیا ہو کیونکہ ہر کاشت کے پکنے کی انتہا معلوم و متعین ہوتی ہے۔

مال مستعار کو واپس کرنے کی اجرت مستعیر پر ہے کیونکہ واپس کرنا اس کی ذمہ داری ہے کیونکہ عاریت پر لینا اس کی منفعت کیلئے تھا اور اجرت واپس کرنے کی مونت ہے تو یہ مستعیر کی ذمہ داری ہوگی جس طرح مال مغصوبہ کو واپس کرنے کی اجرت غاصب پر ہوتی ہے۔

ودیعت اور عاریت کو واپس کرنے کے حکم میں فرق:

کسی نے جائے نماز استعاریہ کسی سے لی پھر نماز پڑھ کر اس کے گھر واپس بھجوا دی اور معیر کو واپس کرنے کا علم نہیں ہوا۔ پھر وہ اس کے گھر سے چوری ہو گئی تو مستعیر ضامن نہیں ہوگا کیونکہ

یہ اس کے گھر کے تمام سامان میں سے ہے لیکن اگر کوئی قیمتی چیز مثلاً جواہر وغیرہ بطور عاریت لے کر معیر کو بتائے بغیر اس کے گھر دے دیئے اور وہ ہلاک ہو گئے یا چوری ہو گئے تو ضامن ہوگا۔ کیونکہ قیمتی اشیاء کو معیر کے ہی حوالے کیا جاتا ہے اس کے علم میں لائے بغیر کسی اور کو دینا درست نہیں ہے۔ اور ودیعت کا حکم یہ ہے کہ اگر ودیعت کو مودع کے علم میں لائے بغیر اس کے گھر میں دے دیا پھر وہ گھر سے چوری ہو گیا تو ضامن ہوگا کیونکہ اس پر لازم ہے کہ عقد کو ختم کرے اور عقد کو ختم کرنا مالک کو واپس کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دوسرے کے حوالے کرنے سے عقد ختم نہیں ہوگا۔ اور مالک مال ودیعت گھر والوں کو حوالہ کرنے پر خوش نہیں ہے کیونکہ اگر وہ ان کے پاس رکھنے میں خوش ہوتا تو دوسرے کے حوالے نہ کرتا۔

﴿ کتاب الغصب ﴾

غصب کا لغوی معنی ہے کسی کی چیز کو زبردستی لینا، شرعی معنی ہیں کسی کے مال متقوم کو اس کی اجازت کے بغیر اس طرح اخذ کرنا جس سے اس کی ملکیت باطل ہو۔ غصب کرنا شرعاً حرام ہے کیونکہ کسی کے مال میں اس کی اجازت و رضامندی کے خلاف تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ“ [النساء: ۲۹] ”مت کھاؤ مال اپنے آپس میں ساتھ ناحق کے مگر یہ کہ ہووے سوداگری رضامندی تمہاری سے“۔ اس کی حرمت کی عقلی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کا مال ان کی جان کی طرح محترم ہے۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے: ”فان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام“^۱ ”بے شک تمہارے خون، تمہارے اموال، تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں“۔ غصب کے حرام و ناجائز ہونے میں تمام فقہاء اور امت کا اجماع ہے اور اس کی حرمت عقلاً بھی ثابت ہے۔

غصب کی قسمیں:

غصب کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) وہ ہے جس کی وجہ سے گناہ نہیں ہوگا۔ مثلاً کسی کے مال کو عدم علم کی بناء پر تلف کرنا، مثلاً وہ اس کو اپنا مال سمجھ رہا تھا اور اس کو اپنا ہی مال سمجھ کر تلف کر دیا تو اس صورت میں وہ گناہ گار نہیں ہوگا لیکن ضائع شدہ مال کا تاوان دینا اس پر لازم ہوگا کیونکہ یہ صورت غصب ہے۔ گناہ نہ ہونے کی دلیل حضور ﷺ کا یہ ارشاد گرامی ہے: ”رفع عن امتی الخطاء والنسیان وما استکرہوا علیہ“^۲ ”میری امت کو خطا اور نسیان اور مجبوری پر گناہ نہیں ہوگا“۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ گناہ اٹھا دیا گیا ہے۔

(۲) غصب کی دوسری قسم وہ جس کے ارتکاب سے انسان گناہ گار ہوتا ہے اور وہ ہے کسی کے مال کو زبردستی قبضہ کرنا، انسان اس سے گناہ گار ہوتا ہے۔ غصب کا اطلاق اشیاء منقولہ پر ہوگا یعنی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منقول کی جاسکتی ہوں اور غیر منقولہ اشیاء پر قبضہ کو غصب نہیں کہا جاتا کیونکہ غصب کیلئے عین مغصوب کو اٹھانا اور زمین و جائیداد اور گھر اٹھا کر منتقل نہیں

کیے جاسکتے اور اگر کسی کا زمین پر قبضہ ہو بھی جائے تو مالک کی ملکیت زائل نہیں ہوتی اور مالک کو اس سے دور رکھنا یہ تصرف مالک میں ہے۔ ملکیت میں نہیں ہے۔ مگر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین و جائیداد پر قبضے کو غصب کہا جائے گا۔ وہ غصب کے حکم میں ہوگا کہ قبضہ کرنا غصب کرنا ہے لہذا اگر کسی شخص نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا اور وہ اس کے قبضے میں کسی آسمانی آفت کی وجہ سے ختم ہوگئی مثلاً دریا برد ہوگئی اور قابل استعمال نہ رہی تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا ضمان اور تاوان غاصب پر آئے گا اس کی قیمت ادا کرنا اس پر ضروری ہوگا مگر حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قبضہ کرنے والا تاوان نہیں ادا کرے گا کیونکہ یہ غصب کے حکم میں نہیں ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ غیر وقف زمین میں امام کا قول اور وقف کردہ میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ ہے۔

تنبیہ: قبضہ کے بعد ہلاک اگر کسی آسمانی آفت کی وجہ سے نہ ہو بلکہ قبضہ کرنے والے کے قول سے ہو تو سب کے نزدیک اس کا تاوان غاصب پر آئے گا۔

غاصب ضامن ہے:

جس نے کسی کی چیز غصب کر لی تو اس پر اس چیز کو اس مقام تک پہنچانا ضروری ہے جہاں سے اس نے اسے اٹھایا ہے جبکہ مال مغصوب اس کے پاس موجود ہو تو جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: ”علی الید ما أخذت حتی تؤدی“^۱ ”قبضے کرنے والے پر اس کی ادائیگی تک ذمہ داری عائد ہے۔“

دوسری جگہ ارشاد ہے: ”لا یاخذن احدکم متاع صاحبہ لاعبادا لاجادا وان اخذ عصا صاحبہ فلیردھا علیہ“^۲ ”تم میں سے کوئی اپنے ساتھی کی چیز کو نہ اٹھائے نہ اٹھائے اگر لٹھی بھی اٹھائی ہو تو واپس کر دے۔“ اسی طرح ظلم کا دفعیہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے کہ جب مغصوب کو جائے غصب تک پہنچایا جائے کیونکہ اختلاف مقامات کی وجہ سے اشیاء کی قیمتیں بھی مختلف ہو سکتی ہیں۔

اگر مال مغصوب غاصب کے ہاتھ سے ہلاک ہو جائے اور اس کی مثل مارکیٹ میں موجود ہو تو مثل ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ارشاد خداوندی ہے: ”فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْكُمْ“ [البقرہ: ۱۹۳] ”پس زیادتی کرو تم اوپر اس کے مانند اس کے زیادتی کی اوپر تمہارے۔“

اگر مال مغضوب (کا مثل) مارکیٹ میں ملنا بند ہو جائے تو اس کی وہ قیمت ادا کرے جو اس وقت ہے۔ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مارکیٹ میں ملنا جس دن بند ہو گیا تھا اس دن کی قیمت ادا کرنا غاصب پر لازم ہے۔ فتویٰ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے، کیونکہ محض مارکیٹ سے غائب ہونے کی وجہ سے مثل کا واجب نہ ہونا اور حکم کا وجوب قیمت کی طرف منتقل ہونا لازم نہیں آتا بلکہ مثل کے ملنے کی امید میں اس کا انتظار کیا جاسکتا ہے بلکہ مثل سے قیمت کی طرف منتقل ہونا قاضی کے فیصلے سے ہوگا۔ اور اگر شے مغضوب ایسی ہو کہ اس کا مثل دینا ممکن نہ ہو مثلاً حیوان یا گن کر فروخت کیے جانے والی اشیاء اور کپڑے وغیرہ ہلاک ہونے کی صورت میں بالاتفاق غصب کے دن کی قیمت ادا کرنا لازم ہوگا کیونکہ جب تفاوت کی وجہ سے مثل صوری دنیا متعذر ہو جائے تو مثل معنوی ہی واجب ہوگا اور مثل معنوی قیمت اور اس کی مالیت ہے کیونکہ بقدر ضرورت نقصان سے بچانے کی کوشش کی جائے گی۔

اگر غاصب نے دعویٰ کیا کہ مال مغضوب ہلاک ہو گیا ہے تو محض اس کے کہنے کی وجہ سے اس کی بات نہیں مانی جائے گی بلکہ عدالت اس کو قید کرنے کا حکم دے گی اور اتنی مدت تک قید میں رکھا جائے گا کہ یقین ہو جائے کہ اگر مال مغضوب موجود ہوتا تو حاضر کر دیتا۔ قید کرنے کی وجہ یہی ہے کہ مالک کا حق اصل مال مغضوب کی ذات کے ساتھ متعلق ہے اور غاصب اس کا حق ذات سے ہٹا کر اس کی قیمت کی طرف لے جانا چاہتا ہے لہذا اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔

جب عدالت میں مال مغضوب کی ہلاکت ثابت ہو جائے تو عدالت اس کا مثل لانے کا حکم دے گی جبکہ وہ چیز مثلی ہو یعنی اس کی مثل موجود ہو اور اگر وہ مثلی نہ ہو بلکہ ذوات القیم میں سے ہو تو اس کی قیمت ادا کرنے کا حکم دے گی۔

اور اگر مال مغضوب میں کمی کر کے واپس کرے تو کمی کا تاوان اس پر لازم ہوگا لیکن اگر غصب کے وقت قیمت زیادہ ہو اور واپسی کے وقت قیمت کم ہوگئی تو ضمان نہیں آئے گا اور قیمت کے تعین میں قول غاصب کا معتبر ہوگا قسم کے ساتھ کیونکہ وہ قیمت کی زیادتی کا منکر ہے۔ ہاں اگر مالک کے پاس بینہ (گواہ) موجود ہو تو مالک کے قول کا اعتبار ہوگا اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا کیونکہ بینہ ایسی حجت ہے جس سے مدعی ثابت ہوگا۔ اگر غاصب کے خلاف مغضوب کی قیمت ادا کرنے کا فیصلہ ہو جائے تو وہ مال مغضوب وقت غصب سے مالک ہو جائے گا۔ کیونکہ مال مغضوب ایک ملک سے دوسرے ملک میں منتقل ہونے کے قابل ہے۔ مالک قیمت کا مالک بن گیا اور غاصب مال مغضوب کا مالک بنے گا۔ غاصب کو مالک نہ ماننے کی صورت میں ایک ہی ملک کے اندر مغضوب اور اس کی

قیمت کا جمع ہونا لازم آتا ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔

مال مغضوب کا نقصان اور اس کا ہلاک ہونا:

اگر غاصب کے فعل سے جائیداد میں نقص واقع ہو گیا مثلاً عمارت کو گرانا یا مکاں میں ایسی رہائش رکھنا جس سے مکان کو نقصان ہو تو اس نقصان کا تاوان تمام فقہاء کے نزدیک غاصب پر لازم ہے۔ کیونکہ یہ تلف کرنا ہے اور زمین کو تلف کرنے سے تاوان آتا ہے۔ اگر منقولہ مال مغضوب غاصب کے ہاتھ سے ہلاک ہو جائے غاصب کے فعل سے یا کسی اور کے فعل سے بہر حال اس پر ضمان آئے گا اور اصل کو واپس کرنے سے عاجز ہونے کی صورت میں اس کی قیمت ادا کرنا ضروری ہوگا جیسا کہ اس سے پہلے گزرا۔

البتہ کسی اور نے ہلاک کیا ہو تو غاصب مالک کو قیمت یا اس کی مثل ادا کرنے کے بعد ہلاک کرنے والے سے اس کی قیمت وصول کرے گا۔ نقصان کی صورت میں تاوان دینے کی صورت یہ ہوگی کہ دیکھا جائے گا کہ جس دن اس نے غصب کیا تھا اس دن اس کی کیا قیمت تھی اور اب نقصان و کمی کی صورت میں کیا قیمت ہے؟ جتنی کمی ہوئی ہے اس کا تاوان ادا کرے گا اور یہ صورت غیر ربو اشیاء میں ہے جو اشیاء ربو ہیں ان میں اصل کو واپس کرنے کے ساتھ ساتھ نقصان کا بھرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس طرح یہ ربا ہو جائے گا۔

کسی نے کسی کی بکری یا گائے یا اور کوئی حلال جانور غصب کر کے ذبح کر دیا تو مالک کو اختیار ہے چاہے جانور کی قیمت اس سے وصول کرے اور گوشت غاصب لے لے کیونکہ اس نے اس جانور کے بعض منافع مثلاً بار برداری، دودھ اور نسل کشی کو ختم کر دیا اور چاہے گوشت لے لے اور نقصان کا تاوان غاصب سے وصول کر لے۔ اگر کسی کا گدھ یا گھوڑا غصب کر کے ذبح کر دیا تو تمام قیمت کا ضامن ہوگا۔

اگر کسی کے کپڑے غصب کر کے اس کو تھوڑا سا پھاڑ دیا تو کپڑے مالک کو واپس کرے گا اور نقصان کا تاوان ادا کرے گا اور اگر اتنا پھاڑ دیا جس کی وجہ سے انتفاع ممکن نہیں رہا تو پورے کی قیمت ادا کرے گا کیونکہ اس نے گویا اس کو مکمل طور پر ضائع کر دیا۔

غاصب کی طرف سے مغضوب میں تبدیلی کا حکم:

غاصب کے تصرف سے اگر مغضوب میں تبدیلی ہوئی حتیٰ کہ اس کا نام تک بدل گیا اور اس کے اکثر منافع ختم ہو گئے تو غاصب مغضوب کا مالک بنے گا اور مغضوب کی قیمت ادا کرے گا کیونکہ

اس نے گویا اس کو مکمل طور پر ضائع کر دیا ہے اس کی دلیل ایک حدیث ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ ایک جنازے سے واپس تشریف لارہے تھے۔ راستے میں ایک صحابیہ کی طرف سے کھانے کی دعوت ملی، آپ ﷺ وہاں تشریف لے گئے کھانا خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے کھانا شروع فرمایا تو دوسرے حضرات بھی کھانے لگے راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے لقمہ منہ میں ڈال کر اسے نگلا نہیں تھا کہ فرمایا: لگتا ہے کہ یہ گوشت ایسی بکری کا ہے جو مالک کی اجازت کے بغیر لائی گئی ضیافت کرنے والی صحابیہ سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اصل بات یہ ہے کہ میں نے بکری خریدنے کیلئے بقیع کی طرف آدمی بھیجا تھا مگر وہاں سے نہیں ملی میرے ایک پڑوسی نے بکری خریدی تھی اس کے پاس پیغام بھیجا کہ اس نے جتنی قیمت دے کر بکری خریدی ہے وہی قیمت میں اس کو ادا کروں گی بکری مجھے دے دو۔ وہ خود گھر میں موجود نہیں تھے ان کی بیوی نے بکری دیدی تھی۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”اطعمیہ الا ساری“ ”قیدیوں کو کھلاؤ“۔

اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ (۱) مالک کی ملکیت کا زائل ہونا۔ (۲) مالک کی رضامندی سے قبل اس کے استعمال کا حرام ہونا۔ صاحب جوہرہ نے کہا ہے امام نجم الدین السفیہی نے فرمایا ہے کہ احناف کے محقق علماء کے نزدیک یہ ہے کہ غاصب مغضوب کا مالک اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ مندرجہ ذیل تین امور میں سے کوئی ایک امر نہ پایا جائے۔ (۱) تاوان ادا کرنا، (۲) تاوان دینے کا عدالتی فیصلہ (۳) تاوان پر دونوں (غاصب اور مالک) کی رضامندی۔ جب غاصب مغضوب کا مالک ہو جائے تو اس سے استفادہ کرنا اس کیلئے جائز ہو جائے گا کیونکہ مالک کا حق ادا ہو چکا ہے تاوان دینے کی صورت میں یا مالک کے معاف کرنے سے یا ضمان دے کر مالک کو رضامند کیے بغیر مغضوب سے انتفاع جائز نہیں ہے کیونکہ مالک کی رضامندی کے بغیر انتفاع کو جائز قرار دینا غصب کے دروازے کھولنا ہے اور جو امر استحساناً ہے اور قیاس کا تقاضا بھی ہے کہ جائز ہو کیونکہ وہ اس کا مالک ہو چکا ہے اور مالک ہونے کے بعد اپنی مملوکہ چیز سے استفادہ کر سکتا ہے۔

استحسان کی وجہ حضور ﷺ کا یہ ارشاد ہے: ”اطعمیہ الا ساری“ جو سابق میں گزرا ہے۔ اس گوشت کو آپ ﷺ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے استعمال نہیں کیا بلکہ قیدیوں کو کھلانے کا حکم فرمایا۔

نقدی سونا چاندی غصب کرنے کا حکم:

اگر نقدی غصب کی یا سونا چاندی اور دیگر اشیاء غصب کیں پھر نقدی کو دوسرے سکوں میں تبدیل کر دیا یا سونے سے کنگن یا انگوٹھی بنوائی تو مالک کی ملکیت زائل نہیں ہوگی۔ یہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ مغصوب منہ (مالک) اس مال مغصوب کو جس حالت میں بھی ہو لے سکتا ہے اور غاصب کو کچھ بھی نہیں دے گا۔ البتہ انگوٹھی بنانے کی اجرت دینا اس پر لازم ہوگا۔ اور حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اس تبدیلی سے غاصب مالک بنے گا اور مالک اس کی مثل ادا کرے گا۔

زمین غصب کرنا:

کسی نے زمین غصب کر کے اس میں درخت لگا لیے یا اس پر عمارت بنائی تو غاصب سے کہا جائے گا کہ درخت اکھاڑ کر لے جاؤ اور عمارت گرا دو اور زمین کو اصل حالت میں مالک کے حوالہ کر دو۔ کیونکہ درحقیقت زمین پر قبضہ کر کے اس میں تبدیلی کرنے سے زمین مالک کی ملکیت سے نہیں نکلتی۔ مالک کی ملکیت بہر صورت اس پر برقرار رہتی ہے اگر غاصب نے اس کی ملکیت کو مشغول کیا تو اس کو فارغ کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اگر چہ درختوں اور عمارتوں کی قیمت زمین کی قیمت سے بڑھ بھی جائے تب بھی اکھاڑنے کا حکم دے سکتا ہے اور اگر درختوں کو اکھاڑنے یا عمارت کو گرانے کی وجہ سے زمین کی قیمت میں کمی واقع ہوتی ہو تو مالک کو اختیار ہوگا کہ وہ چاہے تو اکھاڑنے کا حکم دے چاہے تو درخت اور عمارت کے اکھڑنے کی حالت کی قیمت غاصب کو دے دے اور اس کو اپنے قبضے میں لے لے اور یہ قیمت اندازے سے لگائی جائے گی۔

روایت میں آتا ہے کہ دو آدمیوں کا معاملہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوا۔ ایک نے دوسرے کی زمین میں کھجور کے درخت لگائے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین والے کے حق میں زمین کا فیصلہ فرمایا اور درخت والے کو فرمایا کہ زمین سے اپنے درخت اکھاڑ لے جاؤ۔ اس روایت کو بیان کرنے والے راوی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ کلہاڑی سے کھجور کے بڑے بڑے درختوں کو کاٹا جا رہا تھا۔

غصب کر کے چھپانا:

کسی نے کوئی چیز غصب کر کے چھپا دی اور مالک نے اس سے بتاوان کا مطالبہ کیا اور

غاصب نے اس کا تاوان ادا کر دیا۔ تو غاصب مال مغصوب کا مالک ہوگا۔ کیونکہ اصل مالک نے مال مغصوب کی مکمل قیمت وصول کر لی ہے اور مغصوبہ چیز کی ملکیت غاصب کی طرف منتقل ہو جائے گی کیونکہ ایسا نہ ہونے کی صورت میں مغصوبہ چیز اور اس کی قیمت کا ایک ہی وقت میں ایک شخص کی ملکیت میں جمع ہونا لازم آئے گا جو کہ جائز نہیں ہے۔

اور اگر دونوں میں مال مغصوب کی قیمت کے تعین میں اختلاف ہو جائے تو قسم کے ساتھ غاصب کا قول مانا جائے گا کیونکہ وہ قیمت کی زیادتی کا انکار کر رہا ہے لیکن اگر اصل مالک دلیل اور گواہ کے ذریعے قیمت کے زیادہ ہونے کو ثابت کر دے تو اسی کا قول معتبر ہوگا۔

قیمت کی ادائیگی کے بعد اگر مغصوبہ چیز ظاہر ہوگئی اور وصول کردہ قیمت سے اصل مغصوب کی قیمت زیادہ بھی ہے اور اس کی قیمت کو مالک کے حکم سے بطور تاوان ادا کر دیا ہو یا مالک کی گواہی پیش کرنے پر یا غاصب نے قسم کھانے سے انکار کر کے قیمت دے چکا ہو تو اس صورت میں مالک اس کو واپس نہیں لے سکتا کیونکہ تاوان ادا کرنے کی صورت میں وہ مال مکمل اس کی ملکیت میں منتقل ہو گیا ہے اور اگر مالک نے غاصب کے کہنے پر ضمان (تاوان) لیا تھا تو ظاہر ہونے کی صورت میں مالک کو لینے کا اختیار ہوگا غاصب انکار نہیں کر سکتا۔

اور اگر مال مغصوب منظر عام پر آ گیا اور اس کی قیمت وصول کردہ تاوان کے برابر ہے یا اس سے کم ہے تب بھی مالک کو اختیار ہوگا چاہے تاوان واپس کر کے اپنی چیز لے لے یا ضمان پر اکتفاء کرے۔

مال مغصوب میں اضافے کا حکم:

کسی نے حاملہ بکری غصب کی غاصب کے پاس اس نے بچہ دیا۔ یا لاغر و کمزوری بکری یا اور کوئی جانور غصب کر کے اپنے پاس رکھ کر اس کو موٹا اور توانا کیا۔ یا باغ غصب کیا اور غصب کے وقت پھل نہیں تھے غاصب کے پاس پک کر پھل تیار ہو گئے تو بچہ اور پھل اسی طرح غصب کے دیگر منافع خواہ متصل ہوں یا منفصلہ جیسے دودھ وغیرہ غاصب کے پاس امانت کے حکم میں ہوں گے غصب کے حکم نہیں ہوں گے کیونکہ غصب کہتے ہیں کسی کے مال پر ایسا قبضہ کرنا جس سے مالک کا قبضہ ختم ہو جائے اور اگر ان اشیاء (دودھ، بچہ، پھل وغیرہ) پر مالک کا قبضہ ثابت نہیں تھا کہ غاصب کے فعل کے زائل ہو۔ چنانچہ بچہ ہلاک ہو جائے یا پھل ختم ہو جائے یا بکری کی صحت ختم ہو جائے اور لاغر ہو جائے یا بکری کے تھن سے دودھ سوکھ جائے تو غاصب پر ان کا کوئی تاوان نہیں آئے گا بشرطیکہ غاصب نے

اس پر کوئی ناجائز زیادتی نہ کی ہو مثلاً خود پھلوں کو تلف نہ کیا ہو یا بکری کے بچے کو ذبح کر کے کھایا نہ ہو اگر ایسا کیا ہے تو ضرور ضامن ہوگا۔

کیا مغصوب کے منافع کا تاوان نہیں ہے:

مغصوب کے منافع کے سلسلے میں غاصب سے تاوان نہیں لیا جائے گا۔ مثلاً کوئی شخص گھر غصب کر کے اس میں رہنے کا تو اس رہائش کی قیمت اس سے نہیں لی جائے گی کیونکہ یہ منافع غاصب کے ملک میں حاصل ہوئے اپنے ملک میں پیش ہونے والے کا ضمان نہیں ہوا کرتا۔ چاہے منافع سے فائدہ اٹھایا یا نہ اٹھایا ہو مگر تین مقام میں منافع کا تاوان بھر لیا جائے گا اور تاوان اجر مثل کی صورت میں ہوگا۔ ایک صورت یہ ہے کہ وقف زمین کو غصب کر لیا یا یتیم کے گھر کو غصب کر لیا یا قابل کاشت زمین کو غصب کر کے اس پر مکان بنایا۔ ان تمام صورتوں میں اتنی مدت کا کرایہ اس سے وصول کیا جائے گا۔

اگر کسی مسلمان نے ذمی (مسلمان ملک کا کافر باشندہ) کی شراب کو تلف کر لیا یا اس کے سور کو مار ڈالا تو تاوان دینا پڑے گا یعنی اس کی قیمت ادا کرے گا کیونکہ کافروں کیلئے شراب ایسی ہے جیسا ہمارے لیے سرکہ۔ اور خنزیر ان کیلئے ایسا ہے جیسا ہمارے لیے بکری اور ذمیوں کے اشیاء کی حفاظت اسلامی مملکت کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اہل نجر کو ان کی زمینوں پر برقرار رکھ کر ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا تھا اس کے ضمن میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ان کے گرجے اور عبادت خانے نہیں گرائیں گے ان کے مذہبی پیشواؤں کو ملک بدر نہیں کریں گے اور ان کے دین کے بارے میں ان کو تنگ نہیں کریں گے جب تک کہ کوئی نئی چیز ایجاد نہ کریں اور سودی کاروبار نہ کریں۔

اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی شراب تلف کر دے یا اس کا خنزیر مار ڈالے تو ضامن نہیں ہوگا کیونکہ شراب اور خنزیر مسلمان کے ہاں مال نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی کافر ذمی مسلمان کی شراب یا خنزیر ضائع کر دے تو اس پر کوئی ضمان نہیں آئے گا کیونکہ مسلمان کے نزدیک مال مقوم نہیں ہے اور ان کو تلف کرنے کا حکم دیا گیا ہے اگر کسی مسلمان کی سارنگی ڈھول یا باجے یا کوئی اور آلہ لہو و لعب توڑ دے تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا تاوان دینا پڑے گا کیونکہ ان اشیاء سے کھیل کود لہو و لعب کے علاوہ بھی کام لیا جاتا ہے لہذا یہ مال ہیں۔ اور حضرات صاحبین (امام ابو یوسف، امام محمد) کے نزدیک ضمان نہیں آئے گا اور ان کے نزدیک ان اشیاء کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں کیونکہ یہ اشیاء تیار ہی معصیت کے کام کیلئے ہوتی ہیں۔ لہذا شراب کی طرح ان کی قیمت بھی باطل ہو جائے گی۔

متفرق مسائل:

ایک شخص نے ایک ہزار روپے غصب کر کے تجارت شروع کر دی پھر اس سے ہزاروں روپے کمائے پھر وہ اپنے کیے پر نادم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا توبہ کی تو وہ ایک ہزار جس کو اس نے غصب کیا تھا اس کے مالک کو لوٹا دینا ضروری ہے۔ اور اس کے ذریعے کمائے ہوئے مال کو صدقہ کر دئے یہ قول امام اعظم اور ان کے شاگرد امام محمد کا ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں۔ یہی حکم و دعیت کا ہے چنانچہ ودیعت پر تصرف کر کے کاروبار کیا تو ودیعت مالک کے حوالے کرے گا جبکہ منافع کو صدقہ کرے گا۔

کسی کے بچے کو اٹھایا اور وہ بچہ غاصب کے پاس آ کر بیمار ہو کر مر گیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر کوئی ضمان نہیں آئے گا لیکن اگر بیمار تو نہیں ہوا کسی اور شخص نے غلطی سے اس کو قتل کر دیا تو بچے کے سر پرست غاصب اور قاتل میں سے کسی ایک سے دیت کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اگر دیت غاصب سے وصول کر لی تو غاصب قاتل کی طرف رجوع کرے گا اور یہ تاوان اور دیت قاتل کے عاقلہ پر ہوگی۔

اگر اس بچے کو کسی نے عمداً (جان بوجھ کر) قتل کر دیا ہو تو مقتول کے سر پرستوں کو اختیار ہے چاہے قاتل کو قصاص میں قتل کر دیں چاہے غاصب سے دیت وصول کریں اور غاصب قاتل کے عاقلہ سے اس کو وصول کرے گا اور اگر اٹھایا ہوا بچہ خود کشی کر لے تو غاصب پر کوئی تاوان اور ضمان نہیں آئے گا کیونکہ جنایت خود بچے کی طرف سے صادر ہوئی ہے۔

ایک شخص نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا اس میں بند پرندے اڑ کر چلے گئے تو ضامن نہیں ہوگا اور اگر دروازہ کھلنے سے کوئی چیز اندر آ کر ان کو کھا گئی تو ضامن ہوگا۔ یہی حکم جانوروں کے باڑے کے دروازے کھولنے کا ہے کہ اگر دروازہ کھلنے سے جانور خود نکل کر چلے گئے تو ضامن نہیں ہوگا اور اگر اندر گھس کر کسی نے ان کو تلف کیا تو ضامن ہوگا۔

کسی کے کپڑے غصب کر کے ضائع کر دیئے پھر مالک کو ان کی قیمت پیش کی مالک نے کہا کہ میں نہیں لیتا اور تجھے معاف بھی نہیں کرتا۔ چنانچہ معاملہ عدالت میں پیش ہوا عدالت قیمت لینے پر اس کو مجبور کرے گی کیونکہ ہلاک کرنے والے کی برأت بھی ضرورت ہے لیکن اگر معاملہ عدالت میں نہ لے گیا ہو بلکہ مالک کے انکار کے باوجود قیمت مالک کی گود میں ڈال کر چلا گیا تو ذمہ سے بری ہو جائے گا اور اگر اس کے سامنے رکھ کر چلا گیا تو بری نہیں ہوگا۔

ایک شخص کے ایک ہزار روپے دوسرے شخص کے دو ہزار کے ساتھ مل گئے اور امتیاز ناممکن ہو گیا پھر ان میں سے دو ہزار ضائع ہو گئے صرف ایک ہزار بچے مگر معلوم نہیں کہ کس کے کتنے ضائع ہو گئے؟ تو ایک ہزار کو آپس میں اس طرح تقسیم کریں گے کہ دو تہائی دو ہزار والے کو اور ایک تہائی ایک ہزار والے کو ملے گا۔

﴿ لقیط کا بیان ﴾

”لقیط“ کا لغوی معنی ہوتا ہے زمین سے اٹھا لینا، ادھر ادھر سے جمع کرنا، پیوند لگانا، پرندے کا چونچ سے دانہ چکنا اور اصطلاح شریعت میں ”لقیط“ انسان کے اس (لا وارث) بچے کو کہتے ہیں جسے لوگوں نے فقر و محتاجی کے خوف یا تہمت زنا سے بچنے کے لیے پھینک دیا ہو۔

لقیط کا حکم

لقیط آزاد اور مسلمان تصور ہوتا ہے، اس پر تہمت لگانے والا قابل سزا ہوتا ہے اور وہ اس ملک کے تابع ہوگا جس میں پایا جائے اور مسلمانوں کی اولاد میں سے شمار ہوگا اور بلوغ کے بعد اس کی گواہی درست قرار دی جائے گی جبکہ وہ عادل ہو اور لقیط پر کسی کا جنایت کرنا یا خود لقیط کا کسی دوسرے پر جنایت کرنا ایسا ہی ہے جیسے آزاد شخص کا جرم ہوتا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے لقیط کے متعلق آزاد ہونے کا فیصلہ کیا اور یہ آیت کریمہ پڑھی۔

﴿وَشَرُّوْهُ بِشَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةً وَ كَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزَّاهِدِيْنَ﴾ [یوسف: ۲]

”اور انہوں نے اس کو بہت ہی کم قیمت پر بیچ دیا یعنی گنتی کے چند درہموں کے عوض اور وہ اس کے قدر دان تو تھے ہی نہیں۔“

حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آیا لقیط کو فروخت کر دیا جائے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتے ہیں، کیا تم سورہ، یوسف نہیں پڑھتے۔

اگر لقیط اہل ذمہ کے کسی گاؤں (علاقے) یا عیسائیوں کے گرجے میں پایا جائے تو وہ ذمی قرار دیا جائے گا۔ چنانچہ مسئلہ کی چار نوعیتیں ہوں گی۔ (۱) کوئی مسلمان اس (لقیط) کو اسلام کے علاقے اور محلہ میں پائے تو وہ مسلمان شمار ہوگا (۲) کوئی ذمی اسے اپنے علاقے میں پائے تو وہ ذمی ہوگا۔ (۳) کوئی مسلمان اسے ان کے علاقے میں پائے تو وہ لقیط مسلمان شمار ہوگا۔ (۴)

کوئی ذمی اسے ہمارے (مسلمانوں) علاقے میں پائے تو وہ مسلمان ہی قرار دیا جائے گا۔
 ملتقط (اٹھانے والا) کا اس لقیط پر خرچ کرنا، ایک احسان اور نیکی شمار ہوگا کیونکہ اس کا ولی نہیں ہے۔ لیکن اگر قاضی نے اسے انفاق کا حکم دیا ہو تو اس کی تعمیل ضروری ہوگی اور وہ نفقہ اس بچے پر قرض ہوگا کیونکہ قاضی کو عموم ولایت حاصل ہوتا ہے اور ملتقط کو اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اگر ملتقط کو یقین ہو کہ اگر اس نے اس بچے کو نہ اٹھایا تو وہ ہلاک ہو جائے گا جیسے وہ بچہ کسی جنگل بیابان میں پڑا ہو یا کنوئیں میں گرا ہو یا ایسی جگہ پر ہو جہاں درندوں کے آنے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں اسے ہلاکت سے بچانے کیلئے اٹھالینا ضروری ہوگا اور اگر غالب گمان اس کی ہلاکت کا نہ ہو جیسے وہ بچہ کسی شہر یا گاؤں میں ملے تو ایسی صورت میں اس کا اٹھالینا مستحب ہوگا کیونکہ یہ ایک قابل احترام جان کے احیاء کی کوشش کرنا ہے۔
 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَ مِمَّا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدہ: ۳۲]: ”اور جس نے

ایک جان کو زندگی دی تو گویا اس نے ساری انسانیت کو زندگی دی۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ملتقط سے فرمایا ”جس طرح تم اس بچے کے ولی وارث ہوئے ہو اس طرح اگر میں اس کا ولی وارث ہوتا تو مجھے یہ بہت محبوب ہوتا۔“ لیکن لقیط کا نفقہ مملکت اسلامیہ کے ذمہ ہوگا۔

سنین ابی جمیلہ، بنو سلیم کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہیں ایک لا وارث بچہ پایا اور یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا تو وہ اس بچے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے اسے کیوں اٹھایا؟ اس نے کہا کہ میں نے اسے ضائع ہوتے پایا تو اس کو اٹھالیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے میرے جان پہچان والے آدمی نے کہا کہ اے امیر المؤمنین! یہ نیک شخص ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تحقیق کرنے کے بعد فرمایا: جاؤ، یہ بچہ آزاد ہے اور اس کا خرچ ہمارے ذمہ ہے۔ لے بیہتی کی روایت میں یہ اضافہ ہے۔ ”ولک ولاؤہ“ یعنی اس کی ولاء تمہارے لئے ہوگی۔ لقیط کی میراث مسلمانوں کے بیت المال کے لیے ہوگی جیسا کہ اس کا نفقہ مسلمانوں کے بیت المال کے ذمہ ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نفع کے ساتھ نقصان اور ضمان کے ساتھ خراج بھی ہے۔ (یعنی جو فائدہ اٹھاتا ہے اسے ہی اس کا نقصان بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔) اسی طرح لقیط کی جنایت مملکت اسلامیہ کے ذمہ

ہوگی اور اس کی دیت بھی مملکت اسلامیہ کے لیے ہوگی۔

لقیط کے بالغ ہونے کے بعد ملتقط اپنا نفقہ واپس نہیں لے سکتا۔ لیکن اگر قاضی نے اس (لقیط) کے امور کی ذمہ داری لازم قرار دے دی ہو اور نفقہ اس پر قرض قرار دیا ہو تو پھر واپس لے سکتا ہے۔

حق حفاظت

جب ایک آدمی یا عورت کسی لقیط کو اٹھائے تو کسی دوسرے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس سے اس لقیط کو لے کیونکہ پہلے لینے کی وجہ سے حق حفاظت اس کے لیے ثابت ہو چکا ہے۔ اگر کوئی دعویٰ دار یہ دعویٰ کر دے کہ وہ (لقیط) اس کا بیٹا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا ذمی تو اس کا قول معتبر ہوگا کیونکہ اس میں بچے کا نفع ہے اور لوگ بھی نسب ہونے پر شرف و عزت محسوس کرتے ہیں اور نسب نہ ہونے پر الزام لگاتے ہیں۔ پس جب اس کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا۔ تو وہ بچہ اس کو دے دیا جائے گا اور ملتقط کا قبضہ (حق) باطل ہو جائے گا اور اس صورت میں خواہ ملتقط اس مدعی کی تصدیق کرے یا تردید کرے دونوں صورتوں میں اس کا دعویٰ ثابت ہوگا جب مدعی ذمی ہو تو اس بچہ کا نسب اسی سے ثابت ہوگا لیکن بچہ بہ تبعیت دار مسلمان قرار دیا جائے گا اور ایسا بطور استحسان ہوگا۔ اگر وہ آدمی اس کا دعویٰ کریں اور ان سے ایک بچہ کی جسمانی علامت و نشانی بیان کر دے تو وہ اس بچہ کو لینے کا زیادہ حق دار ہوگا کیونکہ ظاہر حال اس کا شاہد ہے کہ نشانی اس کے کلام کے موافق ہے اور اگر نشانی نہ بتائے تو وہ ان دونوں کا بیٹا قرار دیا جائے گا کیونکہ دونوں سبب میں برابر ہیں اور اگر ان میں سے ایک پہلے دعویٰ دائر کرے تو وہ اس کا بیٹا ہوگا کیونکہ اس کا حق ایسے وقت میں ثابت ہوا ہے جس وقت میں کوئی منازعت موجود نہیں ہے مگر یہ کہ جب دوسرا بھی بینہ قائم کر دے اس لیے کہ بینہ زیادہ قوی ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت اس لقیط کے بارے میں دعویٰ کرے کہ وہ اس کا بیٹا ہے تو خاوند کی تصدیق کے بغیر اس کا دعویٰ کرنا درست نہ ہوگا یا پھر وہ بینہ قائم کرے کیونکہ اس میں دوسرے پر نسب کو محمول کرنا ہے۔ اگر دو عورتیں اس کے بارے میں دعویٰ کریں اور ہر ایک اپنے دعویٰ پر بینہ قائم کر دے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو ان دونوں کا بیٹا قرار دیا جائے گا۔ صاحبین کے نزدیک کسی کا بھی بیٹا قرار نہیں دیا جائے گا کیونکہ یہ محال ہے کہ دو عورتیں ایک بچہ کو جنم دیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ نسب کا اثبات ولادت کے اثبات کا تقاضہ نہیں کرتا اور اس سے دیگر احکام متعلق

ہوتے ہیں جیسے مصاہرت کی حرمت، حق حضانت اور وجوب ارث وغیرہ۔

لقیظ کا مال

اگر لقیظ کے ساتھ مال پایا جائے جو اس کے ساتھ بندھا ہوا ہو تو ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے وہ مال اسی کا ہوگا اور ملتقط (پانے والا) بحکم قاضی وہ مال اس کے لیے صرف کرے گا کیونکہ وہ مال بظاہر لقیظ کا ہے اور ملتقط کو ولایت انفاق حاصل ہے۔ اور وہ اس کے لیے ضروری اشیاء جیسے خوراک، پوشاک وغیرہ خریدے کیونکہ یہ چیزیں بھی انفاق میں شامل ہے۔ ملتقط کے لیے جائز ہے کہ وہ اس لقیظ کے لیے کسی کا ہبہ قبضہ کرے اور اس کے لیے جائز ہے کہ کسی پیشہ یا حرفت کے سیکھنے کے لیے اس کو کسی ادارے میں داخل کرائے۔ ملتقط کو شادی کرانے کا اختیار نہیں ہے کیونکہ اس کی ولایت معدوم ہے بلکہ یہ کام قاضی کرے گا۔ اسی طرح ملتقط کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے مال میں تصرف کرے کیونکہ اس کی ولایت ضعیف ہے، جس طرح ماں کی ولایت ہوتی ہے اگر لقیظ کسی کے لیے کام کرتا ہو تو ملتقط کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کی اجرت میں تصرف کرے۔

﴿ لقطہ کے احکام ﴾

لقطہ کا لفظ قاف کے فتح اور سکون (جزم) کے ساتھ ہے اور لقطہ ”لقط“ سے ماخوذ ہے بمعنی اخذ و رفع (لینا اور اٹھانا) اور اصطلاح شریعت میں ”لقطہ“ ایسے مال کو کہتے ہیں جو غیر محفوظ ہو یا جس کا مالک معلوم نہ ہو یا جو مال ضائع پایا جائے اور گمشدہ جانور جو اپنے پاؤں سے باڑے کا راستہ بھول جائیں۔ اور راستہ بھٹک جائیں چنانچہ حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے لقطہ کا حکم دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اعرف عفا صہا و و کالہا ثم عرفہا سنۃ فان جاء صاحبہا، والا فشانک بہا“ یعنی اس لقطہ (گری پڑی ہوئی چیز) کی تھیلی اور اس کے دھاگے کی نشانی یاد رکھو، پھر ایک سال تک اس کی تشہیر کرو اگر تو اس کا مالک آجائے تو ٹھیک ورنہ تم خود اس کو لے لو، اس آدمی نے گمشدہ بکریوں کا حکم پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”وہ تیری یا تیرے بھائی کی ہیں یا بھیڑیے کی ہیں“ اس نے کہا کہ پھر گمشدہ اونٹوں کا کیا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”تمہارا ان اونٹوں سے کیا کام؟ ان اونٹوں کے پاس پانی بھی ہے اور پاؤں بھی، وہ خود ہی پانی والی جگہوں پر چلے جائیں گے اور درختوں (کے پتے وغیرہ) کھالیں گے، یہاں تک کہ ان کا مالک ان کو پالے گا“۔

اگر ایک سال تک تعریف (تشہیر) کرنے کے بعد خود کھالے، پھر اس کا مالک آجائے تو اس کا تاوان اس کے ذمہ ہوگا۔

لقطہ کا اٹھالینا افضل ہے تاکہ وہ کسی خیانت گر کے ہاتھ نہ لگ جائے لیکن اگر اس لقطہ کے بارے میں اپنی طمع اور تعریف اور حوالہ نہ کرنے کا اندیشہ ہو تو پھر اس کو چھوڑ دینا اولیٰ اور بہتر ہے تاکہ وہ حرام کام میں مبتلا نہ ہو۔

لقطہ کا حکم

لقطہ، ملتقط کے پاس ایک امانت ہے۔ لہذا اگر ملتقط اس بات پر گواہ قائم کرے کہ

اس نے یہ لفظ حفاظت کے لیے اور مالک کے واپس کرنے کے ارادہ سے اٹھایا ہے تو ہلاک ہونے کی صورت میں اس کا ضامن نہ ہوگا۔

لفظ کی تعریف و تشہیر کے لیے بس یہ کہنا کافی ہوگا کہ لوگو! جس کو اپنی گمشدہ چیز تلاش کرتے ہوئے سنو تو اس کو میرے پاس بھیج دو، لفظ کا ایک طریقہ سے اٹھالینا شرعاً ماذون (قابل اجازت) بلکہ اکثر علماء کے نزدیک افضل ہے اور لفظ کے ضیاع کا خطرہ ہو تو علماء کے بقول اس کا اٹھالینا واجب ہوگا۔

اگر ملقط نے اقرار کیا کہ اس نے یہ لفظ اپنے لیے اٹھایا ہے تو ہلاکت کی صورت میں بالاجماع ضامن ہوگا اور اگر اس نے گواہ قائم نہیں کیے بلکہ یہ کہا کہ اس نے یہ لفظ مالک کے لیے اٹھالیا تھا اور اس کا جھوٹ واضح ہو جائے تو اس امانت کی ہلاکت پر وہ اس کا ضامن ہوگا اور یہ امام ابوحنیفہؒ اور امام محمدؒ کا قول ہے، امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ وہ ضامن نہیں ہوگا اور اس کا قول معتبر ہوگا، صحیح قول امام ابوحنیفہؒ کا ہے۔

تعریف کی مدت

تعریف لفظ کی مدت میں علماء کا اختلاف ہے۔ صاحب ”الاختیار“ کا قول ہے کہ ملتقط اتنی مدت تک اس لفظ کی تعریف و تشہیر کرتا رہے کہ اس کا غالب گمان یہ ہو جائے کہ اب اس کے بعد اس کا مالک اس کو تلاش نہ کرے گا اور یہی قول مختار ہے۔ صاحب ”الاختیار“ نے اپنے اس قول کی تعلیل یہ بیان کی ہے کہ یہ چیز مال کی قلت و کثرت کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے۔ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”میں، اور زید بن صوحان اور سلمان بن ربیعہ ایک مہم پر روانہ ہوئے تو مجھے (راستہ میں) ایک کوڑا ملا، میں نے اس کو اٹھالیا، ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، میں نے کہا کہ نہیں بلکہ میں اس کی تعریف (تشہیر) کروں گا اگر اس کا مالک آگیا تو ٹھیک ورنہ میں اسے خود استعمال کر لوں گا۔ (راوی) کہتے ہیں کہ جب ہم جہاد سے واپس آئے تو مدینہ منورہ میں میری ملاقات حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ہوئی میں نے انہیں اس کوڑے کے بارے میں بتایا اور اپنے ساتھیوں کی رائے کا بھی ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ عہد رسالت میں مجھے بھی ایک تھیلی ملی تھی جس میں سودینار تھے، میں وہ تھیلی رسول اللہ ﷺ کے پاس لایا تو آپ ﷺ نے فرمایا ”عرفھا حولاً“ یعنی تم ایک سال تک اس کی تعریف کرو، پس میں نے ایک سال تک اس کی تعریف (تشہیر) کی لیکن میں نے اس تھیلی

کا کوئی جاننے والا نہیں پایا۔^۱

اس حدیث میں سو دینار کے ملنے پر ایک سال تک اس کی تعریف کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن اگر اس لفظ کی مقدار مثلاً ایک دینار یا دس درہم ہو تو اس صورت میں مدت تعریف اس سے کم ہوگی جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہؓ کے پاس آئے تو دیکھا کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما رو رہے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت فاطمہؓ نے کہا کہ بھوک ستا رہی ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار گئے اور ان کو وہاں ایک دینار ملا وہ وہ دینار لے کر آئے اور ایک یہودی کے پاس گئے اور اس سے آٹا خریدا، یہودی نے پوچھا کہ کیا تم اس شخص کے داماد ہو جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ﷺ ہے۔ حضرت فاطمہؓ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قصاب کے پاس جا کر ایک درہم کا گوشت لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے دینار اس کے پاس رہن رکھ کر ایک درہم کے عوض گوشت خرید کر لے آئے، پھر حضرت فاطمہؓ نے آٹا گوندھا اور ہنڈیا چڑھائی اور روٹیاں پکائیں، پھر اپنے والد محترم حضور ﷺ سے معلوم کروایا کہ ہمارے لیے اس کا کھانا حلال ہے یا نہیں؟ ساری صورت حال ذکر کی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ چنانچہ انہوں نے کھالیا، تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک آدمی اپنا وہ دینار تلاش کرتا ہوا گزرا، رسول اللہ ﷺ نے اسے بلانے کا حکم دیا، جب وہ آیا تو آپ ﷺ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا: بازار میں میرا وہ دینار گر گیا تھا، حضور اکرم ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا ”اے علی رضی اللہ عنہ اس قصاب کے پاس جاؤ اور اس سے کہو: رسول اللہ ﷺ فرما رہے ہیں کہ دینار مجھے بھیج دو، اس نے آنحضرت ﷺ کو دینار بھیج دیا، رسول اللہ ﷺ نے وہ دینار اس آدمی (مالک) کو دے دیا۔“^۲

اس حدیث میں اس امر کا احتمال ہے کہ آپ ﷺ نے سال گزرنے سے پہلے ہی ان کے لیے خرچ کرنا اضطراری حالت پیش آنے کی بنا پر مباح کر دیا ہو۔

حضرت ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: اگر لفظ دس درہم سے کم قیمت کا ہو تو اس کی تعریف چند ایام تک کرے گا اور اگر دس درہم سے زیادہ کا ہو تو سال تک اس کی تعریف (اعلان و تشہیر) کرے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت حکیمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ حضرت یعلیٰ بن مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جو شخص معمولی قسم کا لفظ اٹھائے جیسے رسی، درہم وغیرہ تو اس کی تعریف تین روز تک کرے۔“^۳ اس زمانہ میں ایک

۱ [صحیح مسلم ۳/۱۳۵۰] ۲ [سنن البیہقی ۶/۱۹۴] ۳ [سنن البیہقی ۶/۱۹۵]

درہم تقریباً بیس ریال کے برابر ہے اور اگر لقطہ کی قیمت بیس ریال سے کم ہو تو اسی مقام پر انہیں صدقہ کر دے اور اگر خود حاجت مند ہو تو اسی جگہ پر اسے کھالے اور اگر اس کی قیمت دس سے زیادہ اور تقریباً دو سو ریال تک ہو تو ایک ماہ تک اس کی تعریف کرے اور اگر دو سو ریال اور اس سے زیادہ ہو تو پھر ایک سال تک اس کی تعریف کرے جیسا کہ پہلے بھی گزرا۔

فتویٰ اس پر ہے کہ اتنے عرصہ تک اس لقطہ کی تعریف کرے جتنے عرصہ تک تعریف کرنے کا مفہوم ثابت اور واقع ہو جائے لیکن اگر لقطہ ایسی معمولی چیز ہو کہ اسے معلوم (یقین) ہو کہ اس کا مالک اس کو تلاش نہ کرتا ہوگا تو ایسی صورت میں بغیر تعریف کے اس کا استعمال میں لانا مباح ہوگا۔

تعریف کا طریقہ

اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر وہ چیز گری پڑی ملی ہے وہاں پر اور لوگوں کی اجتماع گاہوں جیسے مسجد وغیرہ اور جس بازار میں وہ لقطہ اٹھایا گیا اس بازار میں آس پاس کی جگہوں پر اعلان کرے کہ جس شخص کی کوئی چیز گم ہوئی ہو وہ اپنی چیز میرے پاس ڈھونڈے۔

مالک کے آنے کے بعد لقطہ کا حکم

اگر اس لقطہ کا مالک آکر اس پر بینہ قائم کر دے تو وہ لقطہ اس کے سپرد کر دیا جائے گا اور اگر مالک نہ آئے تو ملتقط اسے صدقہ کر کے اس کا ثواب اس کے اصل مالک کو پہنچا دے کیونکہ وہ لقطہ اس کا مال ہے اور اگر وہ چاہے تو اپنے پاس اس کو رکھ لے، اس امید پر کہ شاید اس کا مالک آجائے۔ اگر لقطہ صدقہ کر دیا، پھر اس کا مالک ظاہر ہوا تو اسے اختیار ہے کہ اس صدقہ کو جائز قرار دے دے اور اس کا ثواب اسے ملے گا اور اگر چاہے تو ملتقط سے تاوان لے لے یا جس مسکین پر وہ لقطہ صدقہ کیا گیا تھا اس کو ضامن بنائے یا اس سے اپنی چیز لے لے جبکہ وہ لقطہ باقی ہو۔ اور ان دونوں میں سے جسے ضامن بنایا جائے گا وہ دوسرے سے رجوع نہیں کرے گا۔

لقطہ کا مصرف

لقطہ کے تصرف کے بارے میں اہل علم کے دو مذہب ہیں۔ (۱) ملتقط خواہ غنی اور مالدار کیوں نہ ہو اس لقطہ سے انتفاع کا استحقاق رکھا ہے، احادیث میں اس پر تصریح موجود ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی "سنن" میں فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بعض اہل علم کا اسی پر عمل

ہے کہ جب ایک سال تک اس لقطہ کی ملتقط تعریف کرے اور اس لقطہ کی جان پہچان والا نہ ملے تو وہ خود اس سے نفع اٹھائے۔ یہ امام شافعیؒ، امام احمدؒ اور اسحاقؒ کا قول ہے۔ (۲) ایک سال تک اس کی تعریف کرے گا، اگر اس کا مالک آجائے تو ٹھیک ورنہ اسے صدقہ کر دے اور یہ بھی بعض صحابہؓ و تابعینؒ کا قول ہے اور یہ امام ابوحنیفہؒ، سفیان ثوریؒ اور عبداللہ بن المبارکؒ کا قول ہے۔ اور یہ حضرات ملتقط کے لیے مالدار ہونے کی صورت میں لقطہ سے انتفاع کو جائز نہیں سمجھتے۔

(۱) ان کا استدلال حدیث عامر بن شقیق بن جمرہ سے ہے کہ شقیق بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک باندی خریدی تو اس باندی کا مالک چلا گیا تو انہوں نے اس باندی کی قیمت صدقہ کر دی اور فرمایا کہ اے اللہ! اس کا ثواب اس کے مالک کو پہنچا اور اس کا تاوان و نقصان میرے ذمہ ہے، پھر فرمایا کہ لقطہ کے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا ہے۔^۱

(۲) نیز وہ حضرات حدیث علی سے استدلال کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے سو یا اس کے قریب قریب دراہم ملے تھے، میں نے معمولی سی تعریف (اعلان) کی تھی اور میری خواہش یہ تھی کہ اس کی تعریف نہ ہو، میں نے ان دراہم سے سامان تیار کیا اور آج میں مالدار ہو گیا ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ان دراہم کا اعلان کرو، اگر اس کا مالک ان دراہم کو پہچان لے تو وہ دراہم اس کو دے دو ورنہ وہ دراہم صدقہ کر دو، پس اگر اس کا مالک آجائے اور یہ چاہے کہ اس کو اس صدقہ کا اجر حاصل ہو تو اسے حاصل ہوگا ورنہ تم اس کا تاوان دو گے اور صدقہ کرنے کا اجر تمہیں ملے گا۔^۲

(۳) نیز ان کا استدلال روایت عبدالعزیز بن رفیع رضی اللہ عنہ سے ہے کہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ مجھے دس دینار ملے تو میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے اس کی بابت دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایک سال تک پتھر پر کھڑے ہو کر اس کی تشہیر کرو، اگر مالک معلوم نہ ہو تو اسے صدقہ کر دو، پھر اگر اس کا مالک آ گیا تو اس کو اجر اور تاوان میں سے کسی ایک کا اختیار دلاؤ۔^۳

(۴) نیز ان حضرات کی روایت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے ہے کہ ان سے ایک آدمی نے کہا کہ میں نے (راستہ سے) ایک دینار اٹھایا ہے، میں اس کا کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کی

۱ [سنن الترمذی ۴/۲۱۵] ۲ [ہاش سنن البیہقی ۶/۱۸۸]

۳ [ہاش سنن البیہقی ۶/۱۸۸] ۴ [ہاش سنن البیہقی ۶/۱۸۸]

تعریف (اعلان کرو، اگر تو اس کا مالک آجائے تو اس کو دے دو ورنہ اسے صدقہ کر دو۔^۱
ابن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ نے صدقہ کرنے کا حکم حضرت سعید بن اطمیب اور امام شافعی سے
نقل کیا ہے اور امام عبدالرزاق نے صدقہ کرنے کا حکم حضرت طاؤس اور عکرمہ سے نقل کیا ہے۔
جو آئمہ کرام اس بات کے قائل ہیں کہ لقطہ کی ایک سال تک تعریف و تشہیر کی جائے
پھر اسے صدقہ کیا جائے اور صدقہ کرنے کے بعد مالک آجائے تو اسے اختیار ہوگا کہ صدقہ کا اجر
حاصل کر لے یا اس سے تاوان لے لے، ان آئمہ عظام میں امام مالک رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔^۲
اگر صاحب لقطہ فقیر (نادار) ہو تو دیگر فقراء کی طرح وہ اس سے نفع اٹھا سکتا ہے اور
اپنے گھر والوں (بیوی بچوں) کو دے سکتا ہے۔

گمشدہ جانوروں کا حکم

اگر راہ بھٹکی بکری، گائے اور اونٹ کے تلف اور ضیاع کا اندیشہ ہو جیسے وہ ایسے راستہ پر
ہوں جہاں کسی درندے کے کھا جانے یا چوروں کے چوری کرنے کا خطرہ ہو تو ان کا لقطہ (پکڑنا)
جائز ہوگا اور اگر ان کے تلف و ضیاع کا خطرہ نہ ہو تو ان کو نہ پکڑے۔ بکری کے لقطہ پر دلیل
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ

﴿خذها فانما هي لك، اول اذ خيك اول للذئب﴾: ”یعنی بکری کو پکڑ لو،

وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی ہے یا بھڑیے کی ہے۔“^۳

اور اونٹ کے لقطہ پر دلیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے

﴿مالک ولها؟ دعها، فان معها حذاءها وسقاءها.....﴾: ”یعنی تیرا

اس سے کیا تعلق؟ اس کو چھوڑ دو کیونکہ اس کے ساتھ اس کے پاؤں اور پانی

موجود ہے۔ وہ خود ہی پانی کی جگہوں پر آئے گا اور درختوں (کے پتے)

کھائے گا، یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پالے گا۔“^۴

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ میں یہ طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ خود ہی پانی
کی جگہوں پر آ سکتا ہے اور ایک دن میں اتنا پانی پی لیتا ہے جو کئی دنوں کے لیے اس کے لیے کافی
ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ جب اونٹ کی جان معرض

۱ [ہاش سنن البیہقی] ۱۸۹/۶

۲ ایضاً

۳ صحیح مسلم ۱۱۳۳۹/۳

۴ [ہاش سنن البیہقی] ۱۸۹/۶

خطرہ میں ہو تو اس کا لقطہ (پکڑ لینا) جائز ہے۔

اگر ملتقط حاکم کی اجازت (حکم) کے بغیر اس لقطہ پر خرچ کرے تو وہ اس کی طرف سے احسان شمار ہوگا اور اگر اس کا خرچ کرنا اس کے حکم سے ہو تو وہ لقطہ کے مالک پر قرض ہوگا، اس لیے کہ قاضی کو غائب شخص کے مال میں اس کی رعایت کی غرض سے ولایت حاصل ہوتی ہے۔

جب ملتقط اس لقطہ جانور کو حاکم کے سامنے پیش کر دے تو قاضی (سربراہ) اسے دیکھے، پس اگر اس جانور کا کوئی فائدہ ہو تو اسے کرایہ پر دے دے اور اس کرایہ سے اس جانور پر خرچ کرے کیونکہ اس میں مالک کا مال عین اس کی ملکیت پر باقی ہے بغیر لزوم قرضہ کے یعنی دریں صورت مالک پر قرض لازم کیے بغیر اس کے عین مال پر ملکیت قائم رہے گی۔ اور اگر لقطہ جانور غیر مفید ہے اور نفقہ پر اٹھنے والے اخراجات اس کی قیمت کے برابر ہیں تو اس صورت میں مال (لقطہ جانور) کو فروخت کیا جائے گا اور بعد از فروخت حاصل شدہ رقم بحفاظت رکھ دی جائے گی کیونکہ عدم نفقہ کے باعث عین مال کا باقی رکھنا دشوار ہوتا ہے جبکہ اس کی اصل مالیت کا باقی رکھنا دشوار نہیں ہوتا بشرطیکہ اس کا بیچنا بہتر ہو۔

اگر قاضی مناسب جانے کہ اس لقطہ جانور پر خرچ کیا جائے تو اس کی اجازت ملتقط کو دے اور نفقہ کو اس جانور کے مالک پر قرض قرار دے۔ اگر بعد از حکم قاضی لقطہ جانور کا مالک حاضر ہو گیا تو اس صورت میں ملتقط لقطہ جانور کو روکنے کا مجاز ہے تا وقتیکہ لقطہ جانور کا مالک نفقہ پر مبنی قرض ادا نہ کرے۔ اگر لقطہ روکنے سے پہلے لقطہ کا جانور ہلاک ہو گیا تو مالک پر سے قرضہ ساقط نہ ہوگا۔ اگر لقطہ کا جانور روکنے کے بعد ملتقط کے قبضہ سے وہ ہلاک ہو گیا تو اس صورت میں مالک پر سے قرض ساقط ہو جائے گا۔

حرم مکہ کے لقطہ کا حکم

حل اور حرم مکہ کا لقطہ برابر ہے کیونکہ یہ بھی ایک لقطہ ہے اور لقطہ کی شناخت کرائی جاتی ہے خواہ وہ حرم کا لقطہ ہو یا کسی اور جگہ کا۔ یہ ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابوحنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے اور امام شافعی سے بھی ایک روایت اسی طرح کی مروی ہے لیکن ان کا مشہور مذہب یہ ہے کہ حرم مکہ کا لقطہ اسی صورت میں اٹھانا حلال ہے جب اسے مالک کو واپس کرنے کی غرض سے اٹھایا گیا ہو۔ اور جو حرم مکہ کی کوئی چیز اٹھائے اس پر واجب ہے کہ اس کی اتنی شناخت کرائے کہ اس لقطہ کا مالک آجائے اور اس کام (تشہیر و اعلان) کے لیے اس پر مکہ میں قیام کرنا

لازم ہوگا اگر مکہ سے باہر جانے کا ارادہ ہو تو وہ لقطہ حاکم کے حوالہ کرے۔ مدت خواہ طویل ہو یا کم۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس میں راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ کو تمام لوگوں کے لیے مقام عبادت و ثواب بنایا۔ لوگ وہاں یکے بعد دیگرے آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس لیے ممکن ہے کہ لقطہ کا مالک یا اس کا فرستادہ واپس آ کر اسے تلاش کرے۔ امام شافعیؒ کی دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا

﴿لَا يَعْضُدُ عَضَاهَا وَلَا يَنْفِرُ صَيْدَهَا وَلَا تَحِلُّ لِقَطْعِهَا إِلَّا

لَمَنْشَدُ﴾ [511 الحدیث]: ”یعنی حرم کے درخت نہ کاٹے جائیں اور اس کا

شکار نہ بھگایا جائے اور اس کا لقطہ حلال نہیں مگر یہ کہ اس کی شناخت کرائے۔“

نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں۔

﴿وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لَمَنْشَدُ﴾: ”یعنی حرم مکہ کا لقطہ شناخت کرانے کے

ماسوا اس کو اٹھانا حلال نہیں ہے۔“

آئمہ ثلاثہ نے حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہما کی روایت سے استدلال کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے لقطہ کا حکم آپ ﷺ سے دریافت کیا، اس پر آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة﴾: ”یعنی تم اس لقطہ کا

ظرف (تھیلی وغیرہ) اور بندھن (سربند) محفوظ کر لے، پھر ایک سال اس کی

تشہیر کر۔“

آنحضور ﷺ کا یہ ارشاد مطلق اور بلا تفصیل ہے یعنی اس حدیث میں حل و حرم کی تفصیل مذکور نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ حل و حرم دونوں کا لقطہ حکم میں یکساں ہے، نیز مدت تعریف کے گزر جانے کے بعد اس لقطہ کو صدقہ کرنے میں ایک اعتبار سے مالک کی ملکیت کو باقی رکھنا ہے کہ اسے اس صدقہ کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ امام شافعیؒ کی مستدل حدیث ملقط و مشتہر کے اپنی ذات کے لیے لقطہ حرم اٹھانے کی عدم حلت پر محمول ہے اور حرم مکہ کی تخصیص اس وہم کو دور کرنے کے لیے کی گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر یہ چیز (لقطہ) مسافروں کی ہے جو متفرق ہو گئے ہیں لہذا تشہیر کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی یہ حدیث سقوط تشہیر کے واہمہ کو دور کرنے پر

۱ [صحیح بخاری، ۲۳۵، صحیح مسلم، ۱/۴۳۷، ابوداؤد، ۲۸۳]

۲ [صحیح بخاری، ۱/۱۹، صحیح مسلم، ۲/۷۸، ابوداؤد، ۲۳۶، الترمذی، ۱/۱۶۴]

محمول ہوگی حضور اکرم ﷺ نے اپنے اس فرمان عالی لایحل ساقطہا الالمنشد کے ذریعہ اس وہم کا ازالہ کر دیا اور اس سے مقصد یہ بتانا ہے کہ حرم مکہ کا حکم بھی دیگر بلاد کی طرح ہے۔
واللہ اعلم

لقطہ پر ملکیت کی لازمی شرط

اگر کسی نے ملتقط کے پاس آ کر لقطہ کی ملکیت کا دعویٰ کیا تو ملتقط کو چاہیے کہ وہ لقطہ مدعی کے حوالہ نہ کرے تا وقتیکہ وہ گواہ قائم نہ کر لے۔ اگر مدعی نے لقطہ کی ملکیت کے حوالہ سے اس (لقطہ) کی صحیح طور پر علامت بیان کر دی تو ملتقط کے لیے جائز ہے کہ وہ مدعی کو لقطہ حوالہ کر دے لیکن قاضی ملتقط کو لقطہ حوالہ کرنے پر مجبور کرنے کا مجاز نہیں ہے کیونکہ ملکیت کی طرح قبضہ میں ایک حق مقصود ہے جبکہ مدعی بلا دلیل اس (حق مقصود) کا حقدار نہیں ہے اور دلیل بقیاس ملکیت قیام شہادت پر مبنی ہے لہذا شہادت لقطہ مدعی کے حوالے کرنا مستلزم نہیں ہے۔ البتہ صحیح طور پر لقطہ کی علامت بیان کرنے پر لقطہ مدعی کے حوالہ کرنا جائز ہے۔ پس دو حدیثوں کو جمع کرنے کی غرض سے ”حوالہ کرنے کا حکم“ ہم نے اباحت پر محمول کیا ہے۔ ایک حدیث تو یہ ہے

﴿البینۃ علی المدعی﴾: ”یعنی گواہ مدعی پر لازم ہیں۔“

اور دوسری حدیث یہ ہے

﴿فان جاء صاحبها.....﴾: ”یعنی اگر لقطہ کا مالک آ کر اس کی علامت بیان کر دے تو اس کے حوالہ کر دو۔“

پس ثابت ہوا کہ لقطہ حوالہ کرنے کی لازمی شرط ”مدعی کا گواہ قائم کرنا“ ہے۔ اس لیے کہ قیام شہادت دیگر دلائل کے مقابلہ میں زیادہ قوی دلیل ہوتی ہے۔

اگر ملتقط نے مدعی کی تصدیق کر دی اور بغیر فیصلہ کے لقطہ اس کے حوالہ کر دیا، پھر کوئی دوسرا شخص آ گیا اور اس نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کر دیئے تو اسے اختیار ہوگا کہ وہ ان دونوں میں سے جس کو چاہے ضامن بنائے (یعنی اس سے تاوان حاصل کرے) اور قابض دینے والے سے رجوع نہیں کرے گا اور اگر قضاء اور فیصلہ سے لقطہ اس کے حوالہ کیا ہے تو وہ مجبور ہے لہذا صرف قابض سے رجوع کرے گا۔

خنثی کا بیان

خنثی کا لفظ تخت سے مشتق ہے جس کا معنی ہوتا ہے موڑنا، جھکانا جیسا کہ کہا جاتا ہے: طوی الثوب علی اخناثہ یعنی اس نے کپڑے کو اس کی سابقہ تہوں پر لپیٹا۔ خنثی کو اس لیے خنثی کہتے ہیں کہ اس کا حال مردوں سے ناقص اور عورتوں سے فائق ہوتا ہے کیونکہ یا تو اس کے دونوں آلے ہوتے ہیں یا کوئی آلہ (عضو مخصوص) نہیں ہوتا اور اس کی حدث اس کی دبر یا ناف سے خارج ہوتی ہے۔

اگر اس نومولود کی فرج اور ذکر دونوں ہوں تو خنثی ہے، پھر اگر وہ ذکر سے پیشاب کرتا ہو تو وہ مذکر شمار ہوگا اور اگر فرج سے پیشاب کرتا ہوں تو مؤنث قرار دیئے جائے گا جیسا کہ حسن بن کثیر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خنثی کے بارے فرمایا:

﴿انظروا مسئل البول فورثوہ منہ﴾: ”یعنی اس کی پیشاب گاہ کو دیکھو اور

اس کے مطابق اس کو وارث بناؤ۔“^۱

حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ سے خنثی کے بارے میں پوچھا گیا کہ اسے وراثت کس طرح دی جائے؟ انہوں نے فرمایا کہ دیوار کے قریب کھڑے ہو کر پیشاب کرے، اگر تو اس کا پیشاب دیوار کو پہنچے تو وہ مذکر شمار ہوگا اور اگر پیشاب اس کی رانوں کے درمیان میں بہ جائے تو وہ مؤنث ہے۔^۲

جس جگہ سے پیشاب کرے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس آلہ سے پیشاب خارج ہو رہا ہے وہی عضو اصلی ہے اور دوسرے عضو میں عیب ہے۔ دور جاہلیت میں اسی طرح ہوتا تھا، اسلام نے اس کو برقرار رکھا ہے۔

اگر دونوں جگہوں سے پیشاب کرتا ہو تو جس جگہ سے پہلے پیشاب کرے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ عضو اصلی کی دلیل ہے اور دوسری نالی میں پیشاب کسی علت اور بیماری کے باعث چلا جاتا ہے۔ اگر پہلے نکلنے میں دونوں جگہیں برابر ہوں تو امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک کثرت بول کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔ صاحبینؒ کہتے ہیں کہ اسے کثرت بول کی طرف

منسوب کریں گے کیونکہ پیشاب کی کثرت اس پر دال ہے کہ یہی اصل پیشاب گاہ ہے اور قاعدہ ہے کہ لاکثر حکم الکمل یعنی اکثر پر کل کا حکم لگایا جاتا ہے لہذا کثرت کی بنا پر ترجیح دی جائے گی۔ اگر مقدار میں برابر ہو تو وہ مرخ نہ ہونے کی بنا پر بالا جماع خنثی مشکل ہوگا۔ بلوغ تک اس کا انتظار کیا جائے گا۔ بالغ ہونے کے بعد اگر اس کی داڑھی نکل آئی یا مردوں کی طرح اسے احتلام ہو یا اس کی چھاتی برابر ہوئی یا وہ عورتوں کی جانب میلان کرنے لگا تو وہ مذکر ہوگا اور اگر عورتوں والی علامات ظاہر ہوئیں تو وہ مؤنث ہوگا جب کہ عورتوں جیسے پستان ظاہر ہوئے یا اسے حیض یا حمل ہو یا فرج کی طرف سے اس سے صحبت کرنا ممکن ہو تو وہ مؤنث ہوگا کیونکہ ایسی علامات عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اگر ایسی کوئی علامت ظاہر نہ ہو یا علامتیں متعارف ہوں تو وہ خنثی مشکل ہوگا۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ اشکال بلوغ سے پہلے ہے، بالغ ہونے کے بعد کوئی اشکال (خنثی کا مشکل ہونا) نہیں ہوتا۔

خنثی کے احکام

جب اس پر خنثی مشکل ہونے کا حکم لگا دیا جائے تو دین کے امور میں اس کے متعلق احتیاط برتی جائے گی۔ پس جس امر کے ثبوت میں شک واقع ہو اس پر ثبوت کا حکم نہیں لگایا جائے گا اور حرام کو مباح پر ترجیح دی جائے گی۔

اس خنثی کو مردوں اور عورتوں کی صفوں کے درمیان کھڑا کیا جائے گا، اس لئے کہ احتمال ہے کہ وہ عورت ہو، پس جب مردوں کی صف میں کھڑا ہوگا تو ان کی نماز فاسد ہوگی، اس طرح احتمال ہے کہ وہ مرد ہو، پس جب وہ عورتوں کی صف میں کھڑا ہوگا تو ان کی نماز خراب ہوگی، اس لیے دونوں باتوں سے بچنے کے لیے اس کو درمیان میں کھڑا ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ اگر وہ عورتوں کی صف میں کھڑا ہو گیا تو وہ اپنی نماز کا اعادہ کرے گا کیونکہ اس کے مرد ہونے کا احتمال ہے اور اگر وہ مردوں کی صف میں کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز تو مکمل ہے لیکن جو لوگ اس کے دائیں، بائیں اور پیچھے سیدھ میں ہوں گے وہ اپنی نماز کا احتیاطاً اعادہ کریں گے کیونکہ اس کے عورت ہونے کا احتمال موجود ہے۔ ایسا خنثی اوڑھنی لے کر نماز پڑھے گا کیونکہ اس کے بارے میں احتمال ہے کہ وہ عورت ہو اور وہ اس طرح بیٹھے گا جس طرح عورت بیٹھتی ہے۔ پس اگر اس نے بغیر دوپٹے کے نماز پڑھی تو استجباً اسے اعادہ صلوٰۃ کا حکم دیا جائے گا کیونکہ اس کا عورت ہونا محتمل ہے۔

خنثی کے لیے مکروہ ہے کہ وہ کسی مرد محرم کے بغیر سفر کرے اگر اس نے حج کا احرام باندھا اور وہ قریب البلوغ ہو چکا تھا تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے لباس کا علم نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ مذکر ہو تو اس کے لیے سلا ہوا لباس پہننا مکروہ ہے اور اگر وہ مؤنث ہو تو اس کے لیے سلا ہوا کپڑا نہ پہننا مکروہ ہوگا۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ وہ عورتوں والا لباس پہنے گا کیونکہ بالغ نہ ہونے کی وجہ سے اس پر کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی اور عورت ہونے کی صورت میں سلا ہوا لباس نہ پہننا مرد ہونے کی صورت میں سلا ہوا لباس پہننے سے انکس ہے اور بالغ ہونے کے بعد بھی یہی حکم ہے کیونکہ اس کا عورت ہونا محتمل ہے۔ پس اس کا ستر اس کے کشف سے زیادہ بہتر ہوگا۔ امام محمد کے نزدیک افضل یہ ہے کہ اس پر احتیاطاً دم واجب ہوگا کیونکہ اس کے مرد ہونے کا احتمال ہے۔ خنثی کے لیے ریشم اور سونے کا پہننا اور مردوں اور عورتوں کے سامنے برہنہ ہونا مکروہ ہوگا اور بغیر محرم کے اس کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا بھی مکروہ ہوگا اور اگر وہ چھوٹا بچہ ہو کہ شہوت نہ ہوتی ہو تو پھر جائز ہے۔ اگر اسے شادی کی خواہش پیدا ہو تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک کسی عورت سے اس کی شادی کر دی جائے گی۔ پس اگر وہ مرد ہو تو نکاح درست ہوگا اور عورت کے لیے اپنے شوہر کی شرمگاہ دیکھنا جائز ہوگا اور اگر وہ عورت ہو تو پھر نکاح درست نہیں ہوگا لیکن عورت کے لیے عورت کی شرمگاہ ضرورہ دیکھنا جائز ہوگا۔ اگر خنثی مرد ہو جائے تو اسے قتل نہ کیا جائے گا، اگر کسی پر تہمت لگائے تو تہمت پر اسے حد لگائی جائے گی اور اگر اس پر تہمت لگائی گئی تو تہمت لگانے والے پر حد جاری نہ ہوگی۔ اس لیے کہ وہ اگر مذکر ہے تو وہ بمنزلہ مجبوب ہوگا اور اگر عورت ہے تو رتقاء کی مانند ہوگا اور اس پر تہمت لگانے والے قابل حد نہیں ہوتا۔

اگر کسی نے وصیت کی کہ فلاں عورت اگر لڑکا جنے تو ایک ہزار اور لڑکی جنے تو پانچ سو دیئے جائیں، اگر اس نے خنثی کو جنم دیا تو احتیاطاً اسے پانچ سو دیئے جائیں گے۔ الا یہ کہ وہ اس کے علاوہ کو بیان کر دے، اگر اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو نے پہلا بچہ لڑکی کی صورت میں جنا تو تجھے طلاق ہے، پھر اس نے خنثی کو جنم دیا تو وہ حانت نہیں ہوگا، جب تک کہ اس کا امر واضح نہ ہو۔

﴿مفقود کا بیان﴾

مفقود وہ ہے جو کسی طرف نکلا ہو پھر ایسا لاپتہ ہو جائے کہ اس کا ٹھکانہ بھی معلوم نہ ہو سکے اور جہت بھی نامعلوم ہو اور نہ ہی اس کے زندہ ہونے کا پتہ ہو اور نہ مرنے کی کوئی خبر ہو۔ یا دشمن نے اسے گرفتار کر لیا ہو اور اس کی زندگی اور موت کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو اور نہ ہی اس کے قتل ہونے کا علم ہو۔

مفقود کا حکم

مفقود اپنے حق میں زندہ اور دوسرے کے حق میں مردہ شمار ہوتا ہے لہذا اس کی بیوی کا کسی کے ساتھ نکاح نہیں کیا جائے گا اور اس کا مال تقسیم نہ کیا جائے گا اور اس کا اجارہ فسخ نہ کیا جائے گا کیونکہ اس کی ملکیت اس کے مال اور زوجہ اور منافع میں ثابت ہے۔

مفقود الخیر کا غائب ہونا زوجین کے درمیان جدائیگی کا موجب نہیں ہے اور موت ایک امر محتمل ہے لہذا جو چیز یقین سے ثابت ہے وہ صرف احتمال کی بنیاد پر زائل نہیں ہوگی۔ پس نکاح جو دونوں کے درمیان بالیقین قائم ہے صرف شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوگا، اسی طرح مال کی ملکیت جو یقینی طور پر اس کے لیے ثابت ہے اس سے شک کی بنا زائل نہیں ہوگی۔ اور مفقود دوسروں کے حق میں مردہ کی طرح ہے لہذا اس کی غیوبت کے زمانہ میں جو شخص فوت ہوگا وہ اس کا وارث نہیں ہوگا کیونکہ ممکن ہے کہ وہ اپنے مورث کی موت سے پہلے ہی مر چکا ہو۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مفقود اپنے حق میں مردے کی طرح اور دوسروں کے حق میں زندوں کی طرح ہے یعنی قول اول کے برعکس۔ اپنے حق میں مردہ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دوسرے کا وارث نہیں ہوگا کیونکہ ممکن ہے کہ وہ اپنے مورث سے پہلے ہی فوت ہو چکا ہے لہذا شک کی بنا پر وارث قرار نہیں پائے گا اور دوسروں کے حق میں زندہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہوگا اور اس سے اس کی املاک کا ازالہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کے زندہ ہونے کا احتمال موجود ہے۔

مفقود کے معاملات کی ذمہ داری قاضی پر عائد ہوتی ہے

قاضی ایک ایسے شخص کا انتظام کرے گا جو مفقود الخیر کے مال کی حفاظت کرے اور اس

کے امور اور معاملات کو بحسن و خوبی چلا سکے جبکہ اس کا کوئی وکیل نہ ہو اور وہ (شخص) اس کے وہ اموال جن کے تلف ہونے کا خدشہ ہو انہیں فروخت کرے گا اور ان اموال کو بغیر قضاء کے ان پر خرچ کرے گا جن پر خرچ کرنا اس مفقود الخیر پر اس کی موجودگی کے وقت واجب تھا جیسے اس کی بیوی، نابالغ اولاد اور بالغ لڑکیاں اور بالغ لڑکیوں میں سے اپاہج اور معذور بچے وغیرہ۔ اور وہ (مقررہ آدمی) اس مفقود الخیر کے اس قرض کو وصول کرے گا جس کا اقرار کیا گیا ہو، کوئی مخاصمہ یا شکایت نہیں کرے گا کیونکہ وہ صرف وکیل بالقبض ہے اور بالا جماع خصومت کا اختیار نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ قاضی صرف حفاظت کا متولی اور ذمہ دار ہے اور جن اسباب کے تلف ہونے کا کوئی خطرہ نہ ہو قاضی ان کو فروخت نہیں کروائے گا نہ نفقہ میں اور نہ کسی اور کام میں جیسے مکانات، زمینیں اور حیوانات وغیرہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مفقود الخیر کے باپ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ صرف منقولہ جائیداد نفقہ میں فروخت کر دے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ بھی کچھ فروخت نہیں کر سکتا۔

اور وہ اخراجات جو صرف مفقود کی موجودگی میں ہی قضاء قاضی سے اس پر لازم ہوتے ہیں جیسے بہن بھائی ماموں ممانی وغرہ پر خرچ کرنا، تو وہ اس کے مال پر خرچ نہیں کیا جائے گا کیونکہ ایسے نفقات قضاء قاضی سے ہی واجب ہوتے ہیں اور غائب شخص کے متعلق کوئی فیصلہ کرنا ممنوع ہے۔ اگر قرض دار یا مودع مال کا انکار کرے یا وہ دونوں زوجیت اور نسب کا انکار کریں تو نفقہ کے مستحقین میں سے کوئی شخص اس معاملہ میں بطور خصم کھڑا نہیں ہوگا۔

اور مال سے مراد سونا چاندی اور آج کے دور میں اس کے قائم مقام سکے اور کرنسیاں ہیں۔ اس لیے کہ ارباب نفقہ کھانے پینے اور لباس کے مستحق ہیں، پس اگر اس کے پاس اس جنس کا مال ہو جس کے وہ مستحق ہیں تو وہ ان کو دیا جائے گا اور اگر اس کا مال کسی کے پاس بطور قرض یا ودیعت کے ہوں۔ اور مقروض مال کا معترف ہو اور مودع ودیعت کا اور زوج زوجیت و نسب کا اقراری ہو تو اس مال سے ان پر خرچ کیا جائے گا۔ اور اگر یہ چیز قاضی کے پاس ثابت ہو تو ان کے اعتراف کی کوئی حاجت نہیں ہوگی۔ اگر مقروض یا مودع نے قاضی کے اذن کے بغیر خرچ کیا تو وہ ضامن ہوں گے کیونکہ انہوں نے مالک یا اس کے نائب تک حق کو نہیں پہنچایا۔

مفقود الخیر کی موت کا حکم کب لگایا جائے گا؟

اگر مفقود الخیر آدمی کی اتنی عمر گزر جائے جتنی عمر کے گزرنے پر اس کے ہم عصر زندہ نہ

رہتے ہوں تو اس کے مرنے کا حکم لگا دیا جائے گا اور یہ امام صاحب کے قول کے زیادہ قرین قیاس ہے کیونکہ زمانوں کے اختلاف سے عمروں میں بھی اختلاف ہوتا جاتا ہے۔ نیز امام ابوحنیفہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اس کے لیے ایک سو بیس سال کی مدت مقرر کی ہے۔ امام ابو یوسف سے سو سال اور بعض آئمہ سے نوے سال کی مدت منقول ہے اور یہ عموماً ان کے زمانہ کے لوگوں کی انتہائی عمریں تھیں۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

﴿امراة المفقود امرأته حتی یأتیها الخبر﴾: ”مفقود الخبر کی بیوی اسی کی بیوی ہوگی، یہاں تک کہ اس کے پاس خبر آجائے۔“^۱

یہ حدیث ضعیف ہے، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں

﴿انہا لا تتزوج﴾: ”یعنی وہ (بیوی) شادی نہیں کرے گی۔“^۲

امام شافعیؒ اپنی سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ”مفقود الخبر خاوند جب واپس آجائے اور اس کی بیوی نے شادی کر لی ہو تو وہ اسی کی بیوی ہوگی، چاہے تو اسے طلاق دے دے اور چاہے تو روک رکھے اور اس عورت کو اختیار نہیں دیا جائے گا۔“^۳

نیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سفقود الخبر کی بیوی کے متعلق جو بات فرمائی وہ کچھ نہیں ہے، وہ غائب ہی کی بیوی ہے یہاں تک کہ اس کی موت کا یقینی طور پر علم ہو جائے یا اس عورت کی طلاق کا علم نہ ہو جائے اور اس عورت کو مہر ملے گا اور اس کا نکاح باطل ہے۔“^۴

نیز امام ابن ابی شیبہؒ نے ابو قلابہؒ، جابر بن زیدؒ، شعبیؒ اور نخعیؒ سے نقل کیا ہے کہ یہ تمام حضرات کہتے ہیں کہ عورت کے لیے شادی کرنا جائز نہیں تا وقتیکہ اس کے شوہر (مفقود الخبر) کی موت کا علم نہ ہو جائے۔“^۵

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت چار سال تک انتظار کرے گی جیسا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جس عورت کا خاوند مفقود الخبر ہو جائے، اسے معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں ہے تو وہ چار سال تک انتظار کرے گی، پھر چار ماہ دس دن (عدت کے طور پر) انتظار کرے گی۔“^۶

۱ [سنن الدارقطنی ۳/۳۱۲] ۲ [سنن البیہقی ۷/۴۴۵] ۳ ایضاً
۴ ایضاً ۵ [نصب الرایۃ ۳/۲۷۳] ۶ [سنن البیہقی ۷/۴۴۵]

مفقود الخیر پر مرتب ہونے والے احکام

جب قاضی زمانہ گزرنے کے بعد مفقود الخیر کی موت کا فیصلہ کر دے تو اس کی بیوی پر موت کے فیصلہ کے وقت سے عدت وفات گزارنا واجب ہوگا اور جو ورثاء اس وقت موجود ہوں گے ان میں اس کا مال تقسیم کر دیا جائے گا۔ گویا کہ وہ اس وقت یہ فوت ہوا ہے۔

مفقود الخیر کے جو والدین یا اولاد اس سے پہلے فوت ہو چکے ہوں وہ اس کے وارث قرار نہیں پائیں گے، اس لیے کہ اس کی موت کا فیصلہ کرنے سے قبل وہ (مفقود) اپنی حیات پر باقی ہے۔ جو شخص مفقود الخیر کی فقدان کی حالت میں فوت ہوا ہو مفقود اس کا وارث نہیں ہوگا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ مفقود دوسرے کے حق میں میت کی طرح ہوتا ہے لہذا وہ دوسرے کے حق کا میت ہونے کی حالت میں وارث نہیں ہوگا بلکہ اس کا حصہ موقوف کر دیا جائے گا اور اسے صرف نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس پر حقوق لازم ہیں۔ اسی طرح جب اس کے لیے وصیت کی جائے تو وہ بھی موقوف ہوگی کیونکہ میت ہونے کے احتمال پر اس کیلئے وصیت درست نہیں ہونی چاہیے اور زندہ ہونے کے احتمال پر درست ہونی چاہیے، اس لیے ہم نے کہا کہ اس کیلئے وصیت موقوف ہوگی۔

تقسیم کے احکام

قسمت کا لغوی معنی ہوتا ہے تقسیم کرنا اور اصطلاح شرع میں قسمت کی تعریف یہ ہے: جمع نصیب شائع فی مکان مخصوص یعنی مخصوص طریقہ سے شائع و ذائع حصہ کو جمع کرنا۔ قسمت کا سبب تمام شرکاء یا بعض شرکاء کا اپنی ملکیت سے خاص طریقہ پر انتفاع ہے بشرطیکہ اس قسمت سے منفعت حاصل ہو۔

قسمت میں مبادلہ کا معنی و مفہوم پایا جاتا ہے کیونکہ تقسیم کے بعد جو کچھ جمع ہوتا ہے اس کا ایک حصہ ایک شریک کے لیے ہوتا ہے اور کچھ حصہ دوسرے شریک کے لیے ہوتا ہے۔ قسمت ایک اعتبار سے مبادلہ ہے اور ایک اعتبار سے افراد ہے کیونکہ جب مقسوم مشترک ایک جنس سے ہو تو قاضی شریک کو قسمت پر مجبور کرے گا جبکہ اس کا دوسرا شریک اس کا مطالبہ کرے کیونکہ مقاصد میں اتحاد ہے اور اگر مقسوم مشترک مختلف اجناس سے ہو تو قاضی اس کی تقسیم پر مجبور نہیں کر سکتا البتہ اگر وہ اس پر باہم رضامند ہوں تو جائز ہے کیونکہ حق ان کا ہے۔

حضور نبی کریم ﷺ نے مغانم اور مواریتھ میں قسمت (تقسیم) کا معاملہ کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ اگر ایک بیٹی اور ایک پوتی اور ایک بہن ہو تو ان میں وراثت کس طرح تقسیم ہوگی۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹی کو نصف اور بہن کو نصف ملے گا اور فرمایا کہ تم ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے بھی پوچھو، پھر میرے پاس آ کر مجھے بتانا، چنانچہ اس نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی مسئلہ پوچھا اور حضرت ابو موسیٰ کی بات بھی بیان کی تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں بھی وہی بات کہوں تو میں راہ سے بھٹک جاؤں گا اور راہ راست پر چلنے والوں میں سے نہ ہوں گا۔ میں تو حضور اقدس ﷺ کے فیصلہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ پھر فرمایا کہ بیٹی کو نصف ملے گا اور پوتی کو سدس تاکہ دو تہائی مکمل ہو اور باقی ماندہ حصہ بہن کو ملے گا۔ پھر وہ شخص حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے ان کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے فیصلہ کے بارے میں بتایا تو ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ جب تک یہ عظیم عالم تم میں موجود ہے مجھ سے مسئلہ دریافت نہ کرو۔^۱

حضرت عبداللہ بن ابی ملکیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں دیباچ کے چند جے ہدیہ میں بھیجے گئے جن میں سونے کی تاریں لگی ہوئی تھیں تو آپ ﷺ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم میں انہیں تقسیم کر دیا۔^۲

تقسیم کون کرے گا؟

حاکم وقت کو چاہیے کہ ایک تقسیم کنندہ مقرر کرے جو اجرت لیے بغیر لوگوں کے درمیان تقسیم کرے، اس لیے کہ تقسیم بھی عمل قضاة میں سے ہے۔ اگر حاکم اسے اجرت نہ دے تو شرکاء اجرت دیں گے کیونکہ نفع ان ہی کے لیے ہے۔ قسمت، من کل الوجوه قضاء کی مانند نہیں ہے، اس لیے شرکاء سے اجرت لینا تقسیم کنندہ کے لیے جائز ہے۔ البتہ افضل یہ ہے کہ اس کی تنخواہ حاکم کی جانب سے مقرر ہو کیونکہ اس میں لوگوں کے ساتھ آسانی بھی ہے اور تہمت سے بھی بچاؤ ہے۔ اگر شرکاء باہم متفق ہو کر تقسیم کا عمل کریں تو جائز ہے لیکن اگر ان میں کوئی نابالغ بچہ ہو تو اس صورت میں قاضی کے امر کی ضرورت ہوگی کیونکہ ان کو اس بچہ پر کوئی دلایت حاصل نہیں ہے۔

تقسیم کنندہ کی صفات

تقسیم کنندہ کا عادل، امین اور تقسیم کے عمل سے واقف ہونا ضروری ہے کیونکہ قسمت

بھی عمل قضاة کے جنس میں سے ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ اگر تقسیم کنندہ عادل نہ ہو تو صغائر و کبار کا ارتکاب کرے گا اور اپنے آپ پر ظلم کرے گا جب اپنے آپ پر ظلم کرے گا تو دوسرے لوگوں پر بطریق اولیٰ ظلم کرے گا اور جب وہ امین نہ ہوگا تو اس کا قول غیر معتبر ہوگا اور اس سے ظلم کے سوا اور کچھ ظاہر نہ ہو گیا۔ اور جب وہ قسمت کے مسائل اور طریقہ سے ناواقف ہوگا تو اس عمل پر کرنے سے عاجز ہوگا کیونکہ جو شخص قسمت سے واقف نہ ہوگا وہ اس پر قدرت بھی رکھنے والا نہ ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ظلم اور نا انصافی کرے گا۔

حاکم وقت پر لازم ہے کہ وہ ایک قاسم (تقسیم کنندہ) پر لوگوں کو مجبور نہ کرے کہ وہ اس کو اجرت پر لیں کیونکہ عقود (معاملات) میں جبر نہیں ہے اور اگر وہ کسی کو متعین کر دے تو اجر مثل سے زیادہ کا فیصلہ کرے جیسا کہ اس پر لازم ہے کہ وہ قاسمین کو اشتراک کا اختیار نہ دے بلکہ ان کے کام میں مداخلت کرے تاکہ وہ (قاسمین) حد سے زیادہ اجرت پر باہم اتفاق نہ کر لیں، اس سے عامتہ الناس کو ضرر پہنچے گا۔

اجرت کیسے تقسیم کی جائے؟

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک تقسیم کی اجرت عدد رؤس کے مطابق ہوگی، اس لیے کہ اجرت تمیز کے مقابل ہے اور تمیز میں تفاوت نہیں ہوتا نیز کم حصہ داروں اور زیادہ حصہ داروں کا کام برابر ہوتا ہے۔ بسا اوقات قلیل تقسیم کے لحاظ سے حساب دشوار بھی ہو جاتا ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقسیم کی اجرت سہام (حصص) کے مطابق ہوگی کیونکہ یہ ملک کی مشقت ہے لہذا اس کے بقدر مقرر ہوگی، امام صاحب کے قول پر فتویٰ ہے۔

تقسیم کب کی جائے:

جب شرکاء قاضی کے پاس حاضر ہوں اور ان کے زیر قبضہ زمین یا مکان وغیرہ ہو اور وہ یہ دعویٰ کریں کہ ان کو یہ اشیاء اپنے باپ سے بطور وراثت حاصل ہوئی ہیں اور وہ اس جائیداد کی تقسیم کا مطالبہ کریں تو قاضی اسے تقسیم نہ کرے تا وقتیکہ وہ شرکاء مورث کے انتقال پر ثبوت قائم نہ کریں اور اس مورث کے ورثاء کی تعداد پر بھی بینہ قائم نہ کر دیں۔ یہ امام صاحبؒ کے نزدیک ہے اور یہی صحیح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تقسیم درحقیقت اس میت (مورث) پر فیصلہ کا عمل ہے۔ اس لیے وہ پہلے اس کے انتقال کا ثبوت فراہم کریں گے پس جب اس کی وفات ثابت ہو جائے تو اگر اس میت پر قرض ہے تو مال ترکہ سے اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی اور اس کی

وصیتیں اسی مال سے نافذ کی جائیں گی۔ اگر قرض کی ادائیگی اور وصیت کے نفاذ سے قبل ہی مال تقسیم کر دیا گیا تو ترکہ سے اس کا حق منقطع ہو جائے گا۔

صاحبین فرماتے ہیں کہ شرکاء کے اعتراف پر تقسیم کر دی جائے گی کیونکہ جس چیز کی تقسیم مقصود ہے وہ چیز ان کے زیر قبضہ ہے جو کہ ملکیت کی دلیل ہے لہذا قاسم اس کو تقسیم کرے گا اور تقسیم کے عقد میں یہ بات ملحوظ رکھی جائے گی کہ ان شرکاء کے قول پر اسے تقسیم کیا گیا تھا تاکہ ان ہی پر اکتفاء کیا جائے اور ان کے کسی دوسرے شریک کے خلاف فیصلہ نہ ہو۔

اگر مال مشترک منقولہ ہو اور وہ دعویٰ کریں کہ یہ مال بطور وراثت کے ان کو حاصل ہوا ہے اور اس کی تقسیم کا مطالبہ بھی کریں تو اس صورت میں بھی اسے ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگر چند شرکاء غیر منقولہ جائیداد کے بارے میں یہ دعویٰ کریں کہ انہوں نے اسے خریدا ہے اور اس کی تقسیم کا مطالبہ کریں تو اسے بھی ان کے مابین تقسیم کر دیا جائے کیونکہ اس تقسیم میں قضاء علی الغیر نہیں ہے۔ اگر مطلق ملک والی غیر منقولہ جائیداد کے بارے میں دعویٰ کریں اور وہ انتقال کی کیفیت نہ بتائیں تو قاضی اسے تسلیم نہ کرے جب تک کہ اس بات پر ثبوت فراہم نہ کر دیں کہ یہ جائیداد ان کی ہے۔

تقسیم اور ناقابل تقسیم صورتیں:

شرکاء کے درمیان تقسیم کا عمل اس وقت مؤکد ہوتا ہے جب ہر شریک تقسیم کے بعد اپنے اپنے حصہ سے نفع حاصل کرتا ہو کیونکہ تقسیم سے منفعت مکمل ہوتی ہے لیکن اگر تقسیم سے سب کو بجائے نفع کے نقصان ہوتا ہو تو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ اگرچہ شرکاء اس کا مطالبہ کریں۔ ایک روایت یہ ہے کہ قاضی شرکاء کی باہمی رضامندی پر تقسیم کر دے گا۔

اگر ایک شریک کو حصہ زیادہ ہونے کی وجہ سے نفع ہوتا ہو اور دوسرے کو نقصان پہنچتا ہو تو اگر بڑے حصہ والا تقسیم کا مطالبہ کرے تو اس کے لیے تقسیم کر دے تاکہ وہ اپنے حصہ سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس صورت میں اس کا مطالبہ معتبر ہوگا، قاعدہ ہے کہ دوسرے کے ضرر اور نقصان کی صورت میں کسی کا حق باطل نہیں ہوتا اور اگر کم حصہ والا شریک تقسیم کا مطالبہ کرے تو اس کے لیے تقسیم نہیں کیا جائے گا کیونکہ اسے اس تقسیم سے نقصان ہوگا، اور وہ اس تقسیم کے معاملہ میں اپنا نقصان کر رہا ہے لہذا اس کا مطالبہ غیر معتبر ہوگا جیسا کہ چھوٹے گھر اور موتی کی تقسیم کا حکم ہے۔ قاضی اس تقسیم سے باز رہے گا کیونکہ قاضی تو لوگوں کے مصالح کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا گیا

ہے کہ وہ عامۃ الناس کے منافع کا خیال رکھے اور نقصانات کا دفعیہ کرے لہذا اس کے لیے نقصان والا کام کرنا جائز نہ ہوگا۔

امام بھصاصؒ نے سابقہ مسئلہ برعکس ذکر کیا ہے، اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ بڑے حصہ والا شریک دوسرے شریک کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر رہا ہے اور دوسرا شریک اپنے نقصان پر راضی ہے۔ حاکم شہیدؒ نے اپنی مختصر میں ذکر کیا ہے کہ ان دونوں میں سے جو بھی تقسیم کا مطالبہ کرے تو قاضی اس کے لیے تقسیم کر دے۔

سامان کی تقسیم

اگر اسباب ایک ہی قسم کے ہوں تو انہیں تقسیم کر دیا جائے گا اور یہ کیڑوں اور جانوروں کی طرح ہے اور مختلف الجنس اسباب کو شرکاء کی رضامندی سے تقسیم کیا جائے گا۔ اور انسان میں مذکر اور مؤنث دو جنسیں ہیں اور حیوانات میں ایک ہی جنس ہیں۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متفاوت قسم کے جواہرات جیسے لولو اور یاقوت، انہیں تقسیم نہ کیا جائے کیونکہ یہ مختلف اجناس ہیں، بعض بعض میں منقسم نہیں ہوتے، البتہ جب ان میں سے ایک جنس الگ کر لی جائے اور اس میں تعدیل ممکن ہو تو اس کی تقسیم جائز ہے۔

اموال کی تقسیم

اموال سے مراد نقدی، سونا اور چاندی ہے اور یہ اجناس مختلفہ ہیں۔ چنانچہ شرکاء کی باہمی رضامندی سے اموال کی تقسیم عمل میں لائی جائے گی کیونکہ تقسیم تو مشترک مال میں ہوتی ہے اور اموال میں شرکت نہیں ہوتی لیکن جب وہ خود ہی راضی ہوں تو جائز ہے۔

اگر دو وارثوں نے مورث کی موت اور ورثہ کی تعداد پر گواہ قائم کیے اور زمین ان ہی دو کے قبضہ میں ہے اور ان کے ساتھ ایک اور وارث ہے جو غائب ہے اور حاضرین ورثہ نے تقسیم کا مطالبہ کیا تو زمین تقسیم کر دی جائے گی اور وارث غائب کے لیے ایک وکیل مقرر کر دیا جائے گا جو اس کے حصہ پر قبضہ کرے گا تاکہ اس کی حق تلفی نہ ہو اور اگر طالبان تقسیم خریدار ہوں یعنی ان کی شرکت بطریق میراث نہ ہو بلکہ بذریعہ خرید ثابت ہوئی ہو اور ان کا ایک شریک غائب ہو تو حاضرین کی طلب پر تقسیم نہ ہوگی کیونکہ جو ملک بذریعہ خرید ثابت ہوئی ہے وہ ملک جدید ہے پس شریک حاضر شریک غائب کی جانب سے خصم نہیں ہو سکتا۔ بخلاف وراثت کے کہ اس میں ملک نہیں ہوتی بلکہ مورث کی طرف سے ملک نیابت ہوتی ہے۔ جب جائیداد وارث

غائب کے قبضہ میں ہو تو اسے تقسیم نہ کیا جائے گا، یہ حکم جب ہے جب چھوٹے بچہ یا مودع کے قبضہ میں کوئی چیز ہو کیونکہ یہ تقسیم علی الغائب والصغیر ہے اور ان دونوں کی طرف سے کوئی خصم بھی موجود نہیں ہے اور مودع خصم کا امین ہے اور خصم کا امین اس کی طرف سے خصم نہیں ہو سکتا اور بغیر خصم کے فیصلہ کرانا جائز نہیں ہے اور اس صورت میں بینہ قائم کرنے اور نہ کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وهو الصحيح۔

اگر ایک وارث حاضر ہو تو قاسم تقسیم نہ کرے گا، اگرچہ وہ بینہ قائم کر دے کیونکہ دو خصموں کی موجودگی ضروری ہے، ایک ہی شخص مخاصم اور مخاصم نہیں ہو سکتا۔ اس طرح ایک ہی شخص مقاسم اور مقاسم (دونوں) نہیں ہو سکتا۔ بخلاف اس صورت کے کہ دو شخص حاضر اور موجود ہوں جیسا کہ اس سے پہلے وضاحت ہو چکی ہے۔

اگر بڑا وارث قاسم کے پاس حاضر ہو اور ایسا شخص بھی آجائے جس کے لیے اس میں ثلث کی وصیت کی گئی ہو اور وہ دونوں تقسیم کا مطالبہ کریں اور میراث اور وصیت پر بینہ بھی قائم کر دیں تو قاسم اسے تقسیم کر دے گا کیونکہ دو خصم موجود ہیں، بڑا میت کی جانب سے اور موصیٰ لہ اپنی ذات کی طرف سے بچہ کے وصی کا بھی یہی حکم ہے گویا کہ وہ خود بلوغ کے بعد حاضر ہوا ہے کیونکہ وہ اس کا قائم مقام ہے۔

ایک ہی شہر میں مشترک مکانات کی تقسیم

جب میت ایک ہی علاقہ (شہر) میں اپنے ورثاء کے لیے چند مکانات چھوڑ کر جائے اور وہ مکانات (گھر) ان کے درمیان مشترک تھے تو ہر گھر علیحدہ علیحدہ ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس لیے کہ مکانات اجناس مختلفہ ہیں کہ اپنے محل وقوع، بازاروں کے قرب اور بعد پڑوسیوں کے مختلف ہونے کی بنا پر ان کے مقاصد مختلف ہوتے ہیں اور یہ امام ابوحنیفہ کا قول ہے اور ایک ہی عمارت (بلڈنگ) میں مختلف فلیٹ ایک ہی تقسیم کے اعتبار سے تقسیم ہوں گے جبکہ ان فلیٹ پیمائش میں برابر ہوں، اگر مختلف ہوں تو رضامندی کے بغیر تقسیم نہ کی جائے گا ورنہ ہر گھر علیحدہ علیحدہ تقسیم کیا جائے گا کیونکہ قاضی ایسے فعل کا مامور ہے جو ان کے لیے زیادہ مفید ہو اور اس کے ساتھ ان کے حقوق بھی محفوظ ہوں۔

اگر وہ مکانات مختلف شہروں میں ہوں تو صاحبین کے نزدیک تقسیم میں ان کو جمع نہیں کیا جائے گا اگر میت نے ایک گھر اور ایک کھیت یا ایک کوچہ اور ایک دکان ترکہ میں چھوڑی تو اختلاف جنس کی وجہ سے ایک کو مطلقاً علیحدہ علیحدہ تقسیم کیا جائے گا۔

طریق تقسیم

قاسم ایک کاغذ پر مکان یا زمین کا جس کو وہ تقسیم کرنا چاہتا ہے اس کا نقشہ بنا لے اور سہام قسمت پر برابر تقسیم کرے، پس سب سے کمتر سہم (حصہ) کو لے کر مقسوم کو اسی پر جاری کرے مثلاً اگر اقل سہام ثلث ہو تو تقسیم بطریق اثلاث ہوگی اور سدس ہو تو بطریق اسداس تاکہ تقسیم کا عمل ممکن ہو اور زمین کی پیمائش اور عمارت کی قیمت لگانے کے بعد ہر حصہ دار کا حصہ نوٹ کر لے کہ فلاں کو اتنا دیا اور فلاں کو اتنا دیا۔ اس لیے کہ بسا اوقات اسے آخر میں اس کی احتیاج ہوگی۔ اور ہر ایک کا حصہ دوسرے سے بالکل علیحدہ کر دے تاکہ ایک کے حصہ کا دوسرے کے حصہ سے کوئی تعلق باقی نہ رہے اور تمیز کا مفہوم پوری طرح ثابت ہو، پھر حصوں کو اول، ثانی، ثالث وغیرہ کا نام دے۔ کاغذ کے ٹکڑوں پر متقاسمین کے نام لکھ لے اور اسے فائل وغیرہ میں رکھ کر قاضی کو بھیج دے تاکہ وہ خود ان کے درمیان قرعہ اندازی کا کام سرانجام دے سکے۔ پھر وہ کاغذ کے ان ٹکڑوں میں سے جن میں متقاسمین کے نام مرقوم ہیں، ایک ٹکڑا نکالے گا، پس جس کا نام پہلے نکلے اس کے لیے پہلا حصہ ہے یعنی وہ حصہ جس کا اس نے اول کے ساتھ نام رکھا تھا اور جس کا نام دوسرے نمبر پر نکلے اس کے لیے دوسرا حصہ ہے۔ اسی طرح چلتا جائے، یہ سب اس صورت میں ہے جب حصوں میں اتحاد ہو اگر حصے مختلف ہوں مثلاً ایک شریک کے لیے دس حصے، دوسرے کے لیے پانچ حصے اور تیسرے کے لیے ایک حصہ ہو تو اسے سولہ حصوں میں تقسیم کریں گے اور ان تینوں کے نام لکھ لے گا، پس اگر دس حصوں والے کا نام پہلے نکلا تو وہ اسے پہلا حصہ اور اس سے متصل نو حصے دے گا تاکہ اس کا حصہ متصل ہو پورا ہونے تک اسی طرح کرے گا۔ قرعہ اندازی کا عمل محض ان کی دلداری اور جانبداری کے ازالہ کے لیے ہے حتیٰ کہ اگر بغیر قرعہ اندازی کے ہر ایک کا حصہ متعین ہو جائے تو جائز ہے کیونکہ یہ بھی قضاء کے معنی میں ہے۔ قاسم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ قسمت کے اس عمل میں مال اور نقدی کو شامل کرے اگر اس نے ایسا کر لیا تو جائز ہے لیکن ایسا نہ کرنا بہتر ہے، یہ اس وقت ہے کہ جب نقدی کے بغیر تقسیم ممکن ہو، اگر ممکن نہ ہو تو سب سے کمزور حصہ کا نقدی سے معادلہ کرے اور اس تقسیم میں نقدی کا شمول باہمی رضامندی سے ہو۔ قاضی کے جبر سے نہ ہو۔ الا یہ کہ جب کوئی دشواری پیش آجائے تو اس صورت میں قاضی کو اختیار ہے۔

ایک گھر چند آدمیوں کے درمیان مشترک ہو اور وہ اس کی تقسیم کا ارادہ کریں اور اگر

ایک جانب عمارت زیادہ ہو اور ان میں سے ایک یہ چاہے کہ اس عمارت کے عوض میں نقدی دے اور دوسرا یہ چاہے کہ اس کے لیے عوض زمین دے تو اس کا عوض زمین ہی سے دلایا جائے گا اور جس کے حصہ میں وہ عمارت واقع ہے اسے اپنے مقابل کو پر واپس کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ہاں البتہ خوشی سے ہو تو جائز ہے کیونکہ قسمت میں بھی مبادلہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ پس اگر ان کے درمیان وہ گھر تقسیم کر دیا گیا اور ایک کا راستہ دوسرے کی ملک میں آتا ہو تو اگر ممکن ہو تو اس سے اپنا راستہ پھیر لے، پھر اس کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے کے حصہ میں راستہ بنائے کیونکہ بغیر ضرر کے تقسیم کا تحقق ممکن ہے اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اس قسمت کو فسخ کر دیا جائے گا، اس لیے کہ اختلاط باقی ہونے کی وجہ سے وہ مختلف ہے لہذا از سر نو قسمت ہوگی۔

دو منزلہ مکانوں کی تقسیم

ایک نیچے والا مکان دو آدمیوں میں مشترک ہے اور اوپر والا کسی اور کا ہے یا اوپر والا دو میں مشترک ہے اور نیچے والا کسی اور کا ہے یا نیچے اوپر کا ایک مکان دو میں مشترک ہے تو امام محمدؒ کے نزدیک ایسے مشترک مکانوں کی تقسیم علیحدہ علیحدہ قیمت لگا کر ہوگی۔ شیخینؒ کے نزدیک پیمائش سے ہوگی کیونکہ تقسیم میں اصل یہی ہے نیز شرکاء کی شرکت مندوع میں ہے نہ کہ قیمت میں لیکن فتویٰ امام محمدؒ کے قول پر ہے کیونکہ نیچے والے مکان میں کنواں کھودنا، تہہ خانہ اور اصطبل بنانا وغیرہ امور کی صلاحیت ہوئی ہے اوپر والے میں نہیں ہوتی، پس دونوں مکان بمنزلہ دو جنسوں کے ہوئے، اس لیے شرکاء کے حصوں میں برابری قیمت ہی کے اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ اگر تقسیم ہو چکنے کے بعد کسی شریک نے کہا کہ مجھے میرا حق نہیں ملا اور دو قاسموں نے گواہی دی کہ وہ پورا حق لے چکا ہے تو شیخینؒ کے نزدیک ان کی گواہی مقبول ہوگی۔ امام محمدؒ اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مقبول نہ ہوگی کیونکہ ان کی یہ گواہی خود اپنے فعل پر ہے جس میں تہمت کا امکان موجود ہے۔ شیخینؒ فرماتے ہیں کہ ان کا فعل تقسیم کرنا ہے اور گواہی اسیفائے حق پر ہے جو دوسرے کا فعل ہے۔

اگر کسی شریک نے یہ کہا کہ تقسیم میں غلطی ہوئی ہے اور میرا کچھ حصہ دوسرے حصہ دار کے قبضہ میں ہے حالانکہ وہ پہلے اپنا حصہ وصول کر لینے کا اقرار کر چکا ہے تو گواہی کے بغیر اس کی تصدیق نہ ہوگی کیونکہ وہ تمامیت قسمت کے بعد اس کے فسخ کا مدعی ہے۔ فلا یصدق الابینة اگر ایک حصہ دار اپنا پورا حصہ لینے کا اقرار کرنے سے پہلے یہ کہے کہ میرا حصہ فلاں جگہ تک ہے اور وہاں تک میرے حصہ دار نے مجھے نہیں دیا اور دوسرا حصہ دار اس کی تکذیب

کرے تو اس پر وہ دونوں قسم کھائیں گے اور قسمت فسخ ہو جائے گی کیونکہ مقدار ما حاصل میں اختلاف ہونے کی وجہ سے عقد تام نہیں ہوا۔

اگر تقسیم کے بعد ایک شریک کا کچھ حصہ کسی دوسرے مستحق کا نکل آیا تو طرفین کے نزدیک اس کو اختیار ہے، چاہے تو بقدر مستحق اپنے شریک سے لے اور چاہے تو باقی ماندہ کو واپس کر کے دوبارہ تقسیم کرالے۔ امام ابو یوسف کے ہاں تقسیم دوبارہ ہوگی کیونکہ اب تیسرا شریک نکل آیا اور وہ راضی نہیں، طرفین یہ فرماتے ہیں کہ کسی ایک شریک کے حصے میں سے اجزاء شائع کے مستحق نکل آنے سے معنی افراد معدوم نہیں ہوتے۔ اس لیے اس کو اختیار ہوگا۔

باہمی رضامندی سے معاہدہ

کسی معاملہ میں باہمی رضامندی اور موافقت کرنا استحساناً جائز ہے۔ اگرچہ قیاس اس کے جواز کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ یہ منفعت کا اس جیسی منفعت کے ساتھ مبادلہ کرنا ہے جو اس سے متاثر ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے بطور استحسان جائز قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے:

﴿لَهَا شَرِبٌ وَلَكُمْ شَرِبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ﴾ [الشراء: ۱۵۵]

نیز ایک ہی وقت میں انتفاع پر جمع ہونا معذر ہے۔

اور باہمی رضامندی کا حکم قسمت جیسا ہے جس طرح قسمت اعیان میں جائز ہے، منافع میں بھی جائز ہے البتہ منفعت کے حصول میں قسمت، مہایات سے زیادہ قوی ہے۔ اس لیے کہ قسمت کہتے ہیں ایک ہی وقت میں منافع کو جمع کرنا اور مہایات کو طلب کرے تو قاضی تقسیم کرے گا کیونکہ تکمیل منفعت اس میں زیادہ ہے۔ اگر محتمل قسمت صورت میں مہایات واقع ہو جائے، پھر ایک شریک قسمت کو طلب کرے تو قاسم تقسیم کرے گا اور مہایات باطل ہوگی۔

مہایات (باہمی رضامندی) کسی ایک کی موت یا دونوں کی موت سے باطل نہیں ہوتی۔ کیونکہ مہایات ٹوٹ جائے تو حاکم از سر نو کر سکتا ہے اور مہایات میں قاضی کا جبر جاری ہوتا ہے۔

اگر وہ شخص ایک گھر میں مہایات (باہمی اتفاق) کر لیں کہ ان میں سے ایک اس کی اوپر والی منزل میں سکونت اختیار کرے گا اور دوسرا نیچے والی منزل میں رہے گا تو جائز ہے اس لیے کہ اس صورت میں مہایات تمام حصص کا افراز ہے۔ اس میں مبادلہ نہیں ہے اور ہر ایک کے لیے جائز ہے کہ اس مہایات سے ہونے والا نفع حاصل کرنے، عقد میں اس کی شرط لگائی ہو یا نہ لگائی ہو۔ اسی طرح ہر ایک کے لیے جائز ہے کہ اپنے حصہ کو اجارہ پر دے کر اس کا نفع حاصل

کرے کیونکہ یہ منافع کی تقسیم ہے اور وہ اس کا مالک ہو چکا ہے لہذا اس کا نفع حاصل کرنا اس کے لیے جائز ہوگا۔ اگر دو آدمی دو گھروں کے بارے میں باہم اتفاق کر لیں کہ ہر دن میں ایک ایک گھر میں ٹھہرے گا تو جائز ہے اور اس پر قاضی مجبور کر سکتا ہے۔ صاحبین کے نزدیک تو یہ ظاہر ہے کہ وہ اصل کی تقسیم پر اس کو قیاس کرتے ہیں۔ امام ابوحنیفہ کے ہاں ایک قول یہ ہے کہ قسمت کی طرح قاضی جبر نہیں کرے گا اور ایک قول میں بالکل جائز نہیں ہے کیونکہ یہ بیع السکنی بالسکنی ہے، بخلاف قسمت کے کہ وہ ان میں ایک کے حصہ کا دوسرے کے حصہ کے بدلہ بیچنا ہے اور وہ جائز ہے اور ایک قول یہ ہے کہ مطلقاً جائز ہے کیونکہ منافع میں تفاوت کم ہوتا ہے اور یہ افراز ہوگا۔

دو گھروں میں آمدنی پر باہمی اتفاق جائز ہے اگر ایک گھر کی آمدنی زیادہ ہو جائے تو وہ دونوں اس میں شریک نہ ہوں گے۔ بخلاف ایک گھر کے، ان میں وجہ فرق یہ ہے کہ دو گھروں میں تمیز کا معنی موجود ہے اور افراز رائج ہے کیونکہ استیفاء کا زمانہ ایک ہے جبکہ ایک گھر میں وصول منفعت کے متعاقب ہے لہذا اسے قرض پر قیاس کریں گے اور ہر ایک کو اس کی باری میں لگائیں گے جیسے وکیل ہوتا ہے، اس لیے اس کا زائد حصہ اس پر لوٹا دیا جائے گا۔

اگر دو آدمیوں میں کھجور کے درخت، یا مطلق درخت یا بکریاں مشترک ہوں اور وہ دونوں باہم اتفاق کر لیں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک ان کا ایک حصہ لے کہ اس درخت کا پھل حاصل کرے گا یا ان بکریوں کو چرائے گا اور ان بکریوں کا دودھ پیے گا تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ منافع میں مہایات اس ضرورت کے پیش نظر ہوتی ہے کہ وہ باقی نہیں رہتے جس سے اس کی تقسیم دشوار ہو جاتی ہے جبکہ یہ اعیان ہیں جو باقی رہنے والے ہیں جن کے حصول کی صورت میں ان کی تقسیم لازم آتی ہے۔

﴿وقف کے احکام﴾

وقف لغتاً بمعنی جس ہے یعنی روکنا، چنانچہ موقف الحساب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں لوگ قیامت کے روز حساب کتاب کے لیے روکے جائیں گے۔ اصطلاح شرع میں وقف اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو واقف اپنی ملک میں روکے رکھے اور اس کے منافع خیرات کر دے اور یہ امام ابوحنیفہ کے مذہب کی بنا پر ہے۔ صاحبین کے نزدیک وقف یہ ہے کہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کی ملک پر روک لے اور اس کا نفع جس پر چاہے وقف کر دے۔ امام صاحب کے ہاں واقف کی ملک کا زوال بلا حکم حاکم نہ ہوگا کیونکہ جن مسائل میں مجتہدین کا اختلاف ہوتا ہے ان میں حاکم

کے حکم کی ضرورت ہوتی ہے یا واقف اسے مرنے پر معلق کر دے یعنی یہ کہلائے کہ جب میں مر جاؤں تو میرا مکان اتنے آدمیوں کے لیے وقف ہے اور یہ وقف بمنزلہ وصیت کے ہے اس لیے ہبہ کی طرح ثلث مال سے ہوگا اور موت سے ہی اس کا لزوم ہوگا۔ اس سے پہلے نہیں ہوگا۔

امام صاحبؒ کی دلیل وہ روایت ہے جسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿لا حبس عن فرائض اللہ عزو جل﴾: ”اللہ تعالیٰ کے فرائض سے کوئی

چیز حبس نہیں ہے۔“^۱

یعنی ہر چیز میراث کے موافق بفرائض الہی تقسیم ہو جائے گی۔ نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ النساء کے نازل ہونے کے بعد آنحضرت ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ:

﴿لا حبس بعد سورۃ النساء﴾^۲: ”یعنی سورۃ النساء کے نزول کے بعد کوئی مال

وقف نہ ہوگا اور نہ ہی وارث سے روکا جائے گا۔“

گویا کہ دور جاہلیت کے افعال کی طرف اشارہ ہے کہ وہ میت کا مال روک لیتے اور جب بد صورتی یا مال کی کمی کی وجہ سے عورتوں سے کراہت کرتے تو انہیں ازواج سے روک لیتے، ان کے نزدیک میت کے اولیاء ان عورتوں کے زیادہ حق دار ہوتے تھے۔

امام صاحبؒ کی دلیل قاضی شریح کا بھی قول ہے کہ

﴿جاء محمد بمنع الحبس﴾^۳: ”رسول اللہ ﷺ نے آکر حبس کو روکا۔“

اب یہاں ظاہری الفاظ اگرچہ وقف کی اجازت نہیں دیتے مگر امام صاحبؒ کے نزدیک اصح یہ ہے کہ یہ جائز ہے البتہ یہ لازم نہیں ہوتا، وقف کا جواز حضرت جویریہ بنت حارث کے بھائی حضرت عمرو بن حارث رضی اللہ عنہما کی روایت سے ثابت ہوتا ہے جس میں انہوں نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے اپنی وفات کے وقت نہ درہم چھوڑا نہ دینار اور نہ کوئی غلام اور نہ باندی اور نہ کچھ اور مگر سفید رنگ کا خچر اور ہتھیار اور ایک زمین جسے آپ ﷺ نے صدقہ کر دیا تھا۔^۴

حضرت مسروقؒ حضرت عائشہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ میں اپنے سات باغ بنو عبدالمطلب اور بنو ہاشم پر صدقہ کیے۔^۵

۱ [سنن الدارقطنی ۳/۶۸، طبرانی] ۲ ایضاً

۳ [سنن البیہقی ۶/۱۶۳] ۴ [صحیح البخاری ۵۵۴] ۵ [سنن البیہقی ۶/۱۶۰]

اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی وقف کیا ہے جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علی مرتضیٰؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت سعدؓ، حضرت حلیم بن حزامؓ، حضرت زید بن ثابتؓ اور حضرت انسؓ وغیرہ ہیں۔

امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ وقف کے معنی ہیں مال عین کو اللہ تعالیٰ کی ملکیت پر روکنا چنانچہ واقف کی ملکیت اس چیز سے اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح لوٹے گی جیسے اس کا منافع بندوں کی طرف لوٹتا ہے۔ امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ وقف کرتے ہی اس کی ملکیت زائل ہو جائے گی۔ خواہ وہ قابل تقسیم میں ہو یا نہ ہو، متولی کے حوالہ کرے یا نہ کرے اور جہت وقف ذکر کرے یا نہ کرے اور امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ واقف کی ملکیت اس چیز سے زائل نہیں ہوتی تا وقتیکہ چار شرائط پائی نہ جائیں۔

(۱) وقف کے لیے متولی مقرر کر کے اس کے حوالہ کرے۔ (۲) وقف مفرز ہو۔ (۳) منافع وقف میں سے کسی چیز کی اپنے لیے شرط نہ لگائے۔ (۴) وہ وقف ابدی (ہمیشہ کے لیے) ہو جیسا کہ حضرت عثمانؓ، حضرت ابن عمرؓ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ صدقہ جائز نہیں یہاں تک کہ اس پر قبضہ ہو جائے۔^۱

حضرت معاذ بن جبل اور قاضی شریح سے بھی مروی ہے کہ وہ اسے جائز قرار نہیں دیتے تھے تا وقتیکہ اس پر قبضہ نہ ہو۔^۲ اس سے معلوم ہوا ہے کہ صاحبینؒ کے نزدیک وقف کے لیے واجب ہے کہ وہ چیز واقف کی ملکیت سے نکل کر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور تملیک سے آزاد ہوتا کہ اس کے صاحب کو اس کا دائمی طور پر نفع حاصل ہو اور بندوں کے لیے اس چیز کا وقف جاری رہے۔ صاحبینؒ کے نزدیک ضرورت وقف کے لزوم کی ہے تاکہ دائمی طور پر اس کا ثواب اس کو ملتا رہے اور یہ کہ وقف، واقف کی ملکیت کو ساقط کر کے ممکن ہے اور اسے مسجد کی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے کر دے۔ امام ابو یوسفؒ پہلے امام ابو حنیفہؒ کے قول کو لیتے تھے لیکن جب بغداد آئے اور یہاں انہوں نے حدیث عمر کو سنا تو انہوں نے اس لیے رجوع کر لیا اور فرمایا کہ اگر یہ حدیث ابو حنیفہؒ کو پہنچتی تو وہ ضرور اپنے قول سے رجوع کر لیتے اور اس روایت کو محمد بن الحسنؒ نے صحیح بن جویریہ سے اور انہوں نے نافع سے اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے۔ امام بخاریؒ نے اس روایت کو ابو سعید سے، انہوں نے صحیح سے اور انہوں نے نافع سے اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں اپنا مال

صدقہ کیا ہے اور اس مال کو شمع کہا جاتا تھا وہ کھجور کے درخت تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے ایک مال حاصل ہوا ہے جو میری نظر میں بڑا قیمتی ہے، میں اسے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: اس کا اصل صدقہ کرو کہ نہ فروخت کیا جائے گا، نہ ہبہ کیا جائے گا اور نہ ہی وراثت میں دیا جائے گا لیکن اس کا پھل خرچ کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے صدقہ کیا کہ ان کا یہ صدقہ اللہ کی راہ میں، غلاموں کی آزادی، مساکین، مہمانوں، مسافروں اور قرابت داروں کے لیے ہوگا اور اس کے متولی کو اس میں سے معروف طریقہ سے کچھ کھالینے میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ وہ اپنے دوست کو کھلائے لیکن اس کے ذریعہ اس کو متمول نہ بنائے گا۔ لیکن وقف کے جواز میں صاحبین کے قول پر فتویٰ ہے، بعض فقہاء کرام نے لوگوں میں وقف کی ترغیب پیدا کرنے کے لیے امام ابو یوسف کے قول کو اختیار کیا ہے اور بعض فقہاء نے امام محمد کے قول کو اخذ کیا ہے کیونکہ وہ موافقت آثار کے زیادہ قریب ہے۔

وقف مشاع کا حکم

امام ابو یوسف کے نزدیک قابل تقسیم مشاع کا وقف جائز ہے کیونکہ تقسیم کرنا قبضہ ہونے کا تتمہ ہے اور ان کے نزدیک قبضہ شرط نہیں ہے، پس ایسے ہی اس قبضہ کے تتمہ کا حکم ہے اور امام محمد فرماتے ہیں کہ وقف مشاع جائز نہیں ہے کیونکہ ان کے ہاں اصل قبضہ شرط ہے چنانچہ یہی حکم اس چیز کا ہے جس سے قبضہ تام ہوا ہو اور یہ اختلاف اس جائیداد میں ہے جو تقسیم کے قابل ہے جو چیز تقسیم کے قابل نہیں تو امام محمد کے ہاں وقف مشاع کے باوجود اس کا وقف بھی جائز ہے کیونکہ امام محمد وقف مشاع کو ہبہ اور صدقہ پر قیاس کرتے ہیں کہ جو سپرد کیا گیا ہے مگر امام ابو یوسف کے نزدیک مسجد و مقبرہ مستثنیٰ ہے، پس وہ (مسجد، مقبرہ) وقف مشاع کے باوجود امام ابو یوسف کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بقائے شرکت خالصاً لوجه اللہ سے مانع ہے اور اس لیے بھی کہ ان دونوں (مسجد، مقبرہ) سے باری باری فائدہ اٹھانے کا معاہدہ کرنا نہایت قبیح ہے، بایں طور کہ ایک سال اس وقف مشاع میں مردے دفن کیے جائیں اور ایک سال زراعت کی جائے یا ایک وقف میں نماز پڑھی جائے اور ایک وقت میں اصطلبل بنایا جائے جبکہ تقسیم کے قابل نہیں ہے، بخلاف وقف (مسجد، مقبرہ) کے (دوسرے طور پر وقف جائز ہے) کیونکہ یہ ممکن ہے کہ (زراعت وغیرہ سے) اس کی حاصلات لے کر بٹوارہ کر لیا جائے اور اگر کسی

نے ایک ٹکڑا (زمین کا) مکمل وقف کیا پھر کسی جزاء کا کوئی شخص مستحق ثابت ہوا تو امام محمدؒ کے نزدیک وقف کا بقیہ بھی باطل ہو جائے گا کیونکہ بوقت وقف مشاع تھا جیسا کہ ہبہ میں ہے، بخلاف اس کے کہ جب (ہبہ کے وقت مشاع نہ ہو) ہبہ کرنے والے نے بعض میں رجوع کیا یا مریض نے حالت مرض میں ہبہ یا وقف کیا اور وارث نے بعد از موت دو تہائی پھیر لیا اور اس کی وراثت میں تنگی ہے (یعنی اس کے سوا اور کوئی ترکہ نہیں ہے) کیونکہ شیوع (وقف مشاع) پیچھے سے عارض ہو گیا اور اگر وہ جزاء جس کا استحقاق ثابت ہوا ہے معین میسر ہے عدم شیوع کی وجہ سے باقی (کا نصف) باطل نہ ہوگا یہی وجہ ہے کہ ابتداء میں وہ باقی وقف جائز تھا اور اسی حالت پر ہبہ اور صدقہ مملوکہ ہے۔

امام ابوحنیفہؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک وقف، تام (پورا) نہیں ہوتا حتیٰ کہ اس کے آخر میں صرف کی ایسی جہت ہو جو کبھی منقطع نہ ہو جیسا کہ وہ یوں کہے کہ میں نے اپنی یہ زمین فلاں کی اولاد و نسل کے لیے بطور صدقہ وقف کر دی، ان کے بعد اس زمین کا نفع مساکین کے لیے ہوگا تو اس کا وقف درست ہوگا۔ کیونکہ مساکین کا نشان کبھی منقطع نہیں ہوتا اور اگر ایسا نہ کہے تو وقف درست نہ ہوگا اگر اس نے ذمی پر وقف کیا تو جائز ہے اس لیے کہ وہ زکوٰۃ کے سوا دوسری قربت کا محل ہے، اس لیے اس پر صدقہ کرنا جائز ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

﴿لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوا كُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا كُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ [الممتحنہ: ۸] : ”اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جو دین کے معاملہ میں تم سے نہیں لڑتے اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔“

امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ جب اس طرف میں وہ جہت منقطع ہو جائے تو پھر بھی وقف جائز ہے اور اس انقطاع جہت کے بعد وہ (وقف) فقراء کے لیے ہو جائے گا، گو ان فقراء کا نام نہ لیا ہو جیسا کہ وہ یوں کہے کہ میں نے اپنی زمین صدقہ کر دی یہ ہمیشہ وقف رہے گی۔ فقراء اور مساکین کا ذکر نہ بھی کرے، اس لیے کہ جب اس نے وہ زمین اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دی تو اس کو ابدی طور پر وقف کر دیا کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے وہ مساکین کی طرف ہی پھیری جاتی ہے، پس یہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے ان (مساکین) کا نام لے لیا۔

وقف کی بعض صورتیں

اگر کہے کہ میں نے اپنی یہ زمین ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی اولاد پر صدقہ کر دی اور ان کے بعد وہ زمین مساکین پر صدقہ ہے تو اس زمین کی آمدن اس کی صلیبی مذکر اور مؤنث اولاد اور خنثی کے لیے ہوگی۔ خزانہ الاکمل میں ہے کہ اس میں مذکر اور مؤنث برابر ہیں اور وقف کے دن جو اولاد موجود ہوگی ان پر وقف ہوگا۔ اور ہر اس اولاد پر جو اس کے بعد پیدا ہوگی تو اگر وہ بچہ آمدن آنے کے دن سے چھ ماہ سے کم عرصہ میں پیدا ہوا ہو تو وہ وقف میں داخل ہوگا۔ جب اولاد میں سے کوئی فوت ہو جائے اس سے قبل کہ اس کی آمدن آئے تو اس کا اس میں کوئی حق نہ ہوگا اور جو آمدن آنے کے بعد فوت ہوا ہو تو اس کا حصہ ہوگا، اس سے اس کا فرق ادا کیا جائے گا اور وصیتیں نافذ کی جائیں گی اور باقی مال اس کے ورثہ کو ملے گا۔

اگر اپنی اولاد کی اولاد پر وقف کرے تو اس میں بنین اور بنات دونوں کی اولاد داخل ہوگی، خواہ وہ قریب کے ہوں یا بعید کے ہوں کیونکہ تمام اس کی نسل و اولاد میں سے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ﴾ [الانعام، ۸۴۰]: اور اللہ تعالیٰ نے بعد کے باوجود سب کو ان کی زریت میں شمار کیا ہے۔

صاحب ”الاختیار“ فرماتے ہیں کہ جب اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد پر وقف کرے تو اس میں اس کی صلیبی اولاد داخل ہوگی اور وقف کے دن اور اس کے بعد جو اولاد کی اولاد موجود ہوگی وہ بھی داخل ہوگی اور آمدن میں دو پیٹ شریک ہوں گے اور جو ان دو پیٹوں سے نیچے کے ہوں وہ اس میں داخل نہ ہوں گے کیونکہ اس نے ان دونوں کو خاص طور سے ذکر کیا ہے نیز وہ فرماتے ہیں کہ جب اپنی اولاد پر وقف کرے گا تو اس میں تمام پیٹ داخل ہوں گے کیونکہ اولاد کا لفظ عام ہے۔ البتہ بطن اول کو مقدم کیا جائے گا جب وہ ختم ہو جائے تو پھر بطن ثانی کا حق ہوگا، پھر جو ان کے بعد ہوں گے ان کا حق ہوگا اس میں تمام بطون برابر طور پر شریک ہوں گے خواہ ان کے قریب ہوں یا بعید کے ہوں کیونکہ اس کا مقصد اس کی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔

چنانچہ حضرت ابن بریدہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ (ایک روز) رسول اللہ ﷺ لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما سامنے سے ہو پیدا ہوئے، سرخ رنگ کے کرتے ان کے بدن پر زیب تھے اور گرتے پڑتے آرہے تھے، جب

آنحضور ﷺ نے انہیں دیکھا تو منبر سے نیچے اتر آئے اور ان کو پکڑا اور منبر پر چڑھ گئے اور ان کو اپنی گود میں بٹھا لیا، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ تمہارے مال اور اولاد ایک آزمائش ہیں، میں نے ان کو دیکھا تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا یہاں تک کہ میں نے ان کو اٹھا لیا۔
اگر اس نے ان پر وقف کیا جن کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے تو اس میں بنات کی اولاد داخل نہ ہوں گی کیونکہ وہ اولاد اس کی طرف منسوب نہیں ہوتی۔

اگر بنین پر وقف کیا تو اس میں خنثی داخل نہ ہوں گے، اسی طرح اگر بنات پر وقف کرے تو اس صورت میں بھی خنثی اس میں داخل نہ ہوں گے لیکن اگر بنین اور بنات دونوں پر وقف کرے تو اس میں خنثی داخل ہوں گے کیونکہ وہ یا تو بیٹا ہوگا یا بیٹی بعض کے نزدیک خنثی داخل نہ ہوں گے۔ اگر کہے کہ اگر میں اپنی اس بیماری میں مر گیا تو میں اپنی زمین یا عمارت (بلڈنگ) وقف کرتا ہوں تو یہ درست نہیں ہے۔ خواہ اس مرض سے شفاء پائے یا فوت ہو کیونکہ اس نے وقف کو شرط کے ساتھ معلق کر دیا حالانکہ وقف کو شرط کے ساتھ معلق کرنا درست نہیں ہے۔

اگر کہتا ہے کہ اگر میں اپنے اس مرض میں فوت ہو گیا تو تم میری زمین کو وقف کر دینا تو یہ جائز ہے، ان میں وجہ فرق یہ ہے کہ یہ تو کیل کو شرط کے ساتھ معلق کرنا ہے جو کہ جائز صورت ہے۔ صرف اغنیاء پر وقف کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ قربت نہیں ہے اور یہ چیز ثواب کا باعث بھی نہیں ہے اور یہ صدقہ کی مانند ہو جائے گی۔ اگر اغنیاء پر وقف کرے اور وہ محدود ہوں پھر ان کے بعد فقراء پر وقف ہو تو جائز ہے اگر کہتا ہے کہ میری یہ عمارت صدقہ ہے اور فقراء پر وقف شدہ ہے تو اس کے رشتہ داروں اور اولاد میں جو فقراء ہوں گے وہ بھی اس میں داخل ہوں گے بلکہ ان پر اس کی آمدنی کا صرف کرنا دوسروں پر صرف کرنے سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔

اس کے بعد اپنی اولاد پر آمدنی کا صرف کرنا افضل ہے کیونکہ اس کے حق میں صلہ رحمی زیادہ لازم ہے، پھر اپنے قرابت داروں پر اس کو صرف کرے، اس کے بعد اپنے پڑوسیوں پر صرف کرے، پھر اپنے اہل شہر میں سے جو اس وقف کے زیادہ قریب ہو اس پر صرف کرے۔

مناسب یہ ہے کہ مختلف اوقات میں سب کو دے کیونکہ جب وہ دائمی طور پر تمام صرف کرے گا تو کچھ ہی عرصہ کے بعد وہ لوگ اسے اپنا بادشاہ بنا لیں گے جو فقیر قرابت دار ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنا استحقاق ثابت کرنے کے لیے گواہوں سے اپنی قرابت اور فقر کو ثابت کرے

بصورت دیگر وقف میں اس کا کچھ حصہ نہ ہوگا ہاں البتہ اگر وہ اپنا فقر ثابت کرے تو صرف فقر کے لحاظ سے اس کا حصہ ہوگا۔

اگر اپنے قرابت دار فقراء پر وقف کرے تو وقف سے انتفاع میں وہ لوگ بھی داخل ہوں گے جو قضاء سے ہی نفقہ کے مستحق ہوتے ہیں جیسے بھائی وغیرہ۔

اگر اپنے سب سے قریبی قرابت داروں پر وقف کرے تو نواسی کی بیٹی سگی بہن سے زیادہ حق دار ہوگی کیونکہ وہ اس کی صلبی ہے اور بہن اس کے باپ کی صلب میں سے ہے اور وراثت کا اعتبار نہیں ہے۔

اشیاء منقولہ کے وقف کا حکم

اگر کوئی شخص منقولہ مال میں سے کوئی چیز وقف کرنا چاہے تو امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک واقف منقولہ جائیداد یا مال کو وقف کرنے کا مجاز نہ ہوگا کیونکہ منقولہ اشیاء کا وقف ہلاکت کے اندیشہ کی وجہ سے ابدی نہیں ہوتا لہذا مقصودی طور پر منقولہ اشیاء کا وقف صحیح نہیں ہے۔ امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کھیت بجمع بیلوں اور کاشت کاروں کے وقف کرے جو اس (واقف) کے غلام ہوں تو وقف جائز ہے اور اسی طرح دیگر تمام زرعی آلات کا وقف بھی جائز ہے کیونکہ حصول مقصود (غلہ وغیرہ) میں یہ زمین کے تابع ہیں اور کبھی ایک چیز مستقل طور پر ارادہ کر کے وقف میں ثابت نہیں ہوتی بلکہ بالتبع ثابت ہو جاتی ہے اور منقولہ چیز صرف گھوڑے یا ہتھیار ہوں تو نص کی وجہ سے جائز ہے جس کا ذکر آ رہا ہے۔

امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ گھوڑوں اور ہتھیاروں کا جس (روکنا) یعنی انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کرنا جائز ہے اور جن منقولات میں تعامل جاری ہے ان میں وقف جائز ہے جیسے کلہاڑا، بڑی کدال، بسولا اور تابوت بجمع کپڑوں کے اور آلات زراعت و تجارت، کپڑے، دیکھیں اور مصحف اور کتب اور امام ابو یوسف کے نزدیک یہ (منقولات کا وقف) جائز نہیں ہے کیونکہ یہ خلاف قیاس ہے اور قیاس اس وقت ترک کیا جاتا ہے جب نص وارد ہو اور نص گھوڑے اور ہتھیار میں وارد ہے، پس وہیں تک نص محدود رہے گی۔ شہروں کے اکثر فقہاء کرام امام محمدؒ کے قول پر عمل پیرا ہیں، ان کی دلیل حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمرؓ کو صدقات پر مامور کیا اور ابن جمیل، خالد بن ولید اور حضرت عباسؓ نے صدقہ دینے سے انکار کیا تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ابن جمیل کو کیا بات ناگوار گزرتی ہے

ماسوائے اس کے کہ وہ فقیر تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے مالدار بنا دیا، رہا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، تو تم اس پر ظلم کرتے ہو اس نے اپنی زرہیں اور سامان جنگ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں وقف کیا ہے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زکوٰۃ مجھ پر ہے۔

وقف شدہ چیز کی بیع

جب کسی شخص نے کوئی چیز صحیح طور پر وقف کی تو اسے فروخت کرنا یا ملکیت میں لانا جائز نہ ہوگا کیونکہ وقف شدہ چیز واقف کی ملکیت سے خارج ہو جاتی ہے۔ البتہ امام ابو یوسف کے نزدیک وقف مشاع (مشترکہ جائیداد) میں کوئی شریک اسے تقسیم کرنا چاہتا ہے تو یہ تقسیم بھی جائز ہوگی کیونکہ تقسیم علیحدگی کے معنی کو متحقق کرتی ہے۔

پھر اگر اس شریک نے مشترکہ عقار میں اپنا حصہ وقف کیا تو وہ خود ہی اپنے شریک سے تقسیم کا مجاز ہوگا کیونکہ یہ تمیز اور افراز (علیحدہ کرنا) ہے۔ تملیک اور مبادلہ نہیں ہے لہذا تقسیم کا عمل اپنے شریک کے ساتھ کرے گا اور اس کی موت کے بعد اس کا وصی متولی ہے۔

اگر اس نے اپنی خالص عقار سے نصف حصہ وقف کیا تو قاضی اسے تقسیم کرے گا یا یہ کہ باقی حصہ کسی شخص کے ہاتھ فروخت کرے پھر خریدار اس کے ساتھ تقسیم کرے، پھر مشتری اپنا خریدا ہوا حصہ از خود خریدے تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ ایک ہی شخص مقاسم اور مقاسم نہیں ہو سکتا۔ اگر تقسیم میں کسی حصہ کے اندر کچھ درہم لگانے کی ضرورت پیش آئے تو اگر واقف کو یہ درہم دیئے گئے تو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وقف فروخت کرنا ممنوع ہے اور اگر وقف کرنے والے نے یہ درہم دیئے ہیں تو جائز ہیں اور بقدر درہم وقف میں اس واقف کا خریدنا قرار دیا جائے گا۔

وقف کی اصلاح و درستگی

امر واجب یہ ہے کہ حاصلات وقف میں سے اس وقف کی تعمیر میں خرچ کیا جائے خواہ واقف نے وقف کی تعمیر کو مشروط کیا ہو یا نہ کیا ہو کیونکہ واقف کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ اس وقف کی حاصلات (منافع) اس کے مستحقین تک پہنچتی رہیں اور ہمیشہ اس وقف کی بقاء ممکن نہیں ہے۔ الا یہ کہ اس وقف کی تعمیر مرمت کی جائے چنانچہ تعمیر کی شرط اس تقاضے سے ثابت ہے۔ پس اگر کسی نے اپنا گھر اپنی اولاد کی رہائش پر وقف کیا تو اس کی تعمیر و مرمت اس شخص پر ہوگی جس کی رہائش

ہوگی کیونکہ (حدیث میں وارد ہے کہ) خراج تاوان کے ساتھ ہے۔

اگر اس (جس پر وقف ہوا) نے وقف کی تعمیر و مرمت سے انکار کر دیا یا وہ (جس پر وقف ہوا) فقیر ہے تو حاکم اس (وقف شدہ مکان) کا کرایہ ادا کرے اور اس کرایہ سے اس کی مرمت کرے اور جب اس مکان کی تعمیر ہو جائے تو اسے لوٹا دے جس کے لیے رہائش متحقق ہے کیونکہ ایسا کرنے میں وقف کرنے والے اور رہائش پذیر دونوں کے حق کی رعایت ہے۔

اور اس موقوف علیہ پر تعمیر کی زبردستی نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اس میں اس کا مال تلف کرنا لازم آتا ہے چنانچہ اس کا انکار بوجہ بطلان حق کے رضامندی نہیں ہے اور رہائش پذیر کا کرایہ پر دینا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ (رہائشی) مالک نہیں ہے۔

اگر وقف منہدم ہو جائے یا اس کے اسباب و آلات ٹوٹ پھوٹ جائیں تو اس صورت میں حاکم کو چاہیے کہ وہ اشیائے وقف میں تصرف کرتے ہوئے ”وقف“ کی تعمیر و مرمت پر خرچ کرے تاکہ قیام وقف اور مقصود وقف کے دوام سے وقف کا مقصود باطل نہ ہو، اگر وقف تعمیر و مرمت سے بے نیاز ہو تو بوقت ضرورت کام آنے کے لیے اشیائے وقف کو محفوظ کر لے اور وقف کی ناقص اشیاء مستحقین وقف میں تقسیم کرنے کا شرعاً جواز نہیں ہے اور نہ ہی عین وقف کو مستحقین کی ملکیت میں دینا جائز ہے کیونکہ وقف کے مستحق افراد صرف اس وقت کے منافع میں استحقاق کا جواز رکھتے ہیں اور بعینہ چیز کا اصل مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

اگر وقف کرنے والے نے حاصلات وقف (کرایہ، نفع) کو اپنے لیے رکھا یا وقف کی سرپرستی اپنے لیے رکھی تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک جائز ہے، ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے صدقہ سے کھاتے تھے اور اس صدقہ سے مراد وقف ہے۔ امام محمدؒ عدم جواز کے قائل ہیں کیونکہ ان کے نزدیک قبضہ بھی وقف کی ایک شرط ہے، پس جب اس نے اپنے لیے شرط لگائی تو قبضہ نہ پایا گیا اور یہ اس کی طرح ہو گیا جو زمین کے ایک ٹکڑے کو اپنے لیے مشروط کرے۔ فتویٰ امام ابو یوسفؒ کے قول پر ہے تاکہ وقف میں لوگوں کو ترغیب پیدا ہو۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی اس کی دلیل ہے جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ ﴿المسلمون علی شروطہم﴾: ”یعنی مسلمان اپنی شرائط پر ہے۔“^۱ اگر وقفہ کرنے والا کسی کے لیے بھی ولایت (سرپرستی) کی شرط نہ لگائے تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک سرپرستی اسے حاصل ہوگی، پھر اگر اس کا ولی ہو تو اس کی ہوگی، بصورت

دیگر قاضی کو حاصل ہوگی۔

نیز ہشام بن عمرو کی روایت ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے مکانات کو صدقہ کیا تھا اور فرمایا تھا کہ ان کی مطلقہ بیٹی کے لیے اس میں سکونت اختیار کرنے کا اختیار ہوگا کہ نہ تو وہ کسی کو نقصان پہنچائے گی اور نہ ہی کوئی اسے نقصان پہنچائے گا اور اگر خاوند کی وجہ سے بے نیاز ہوگئی تو اس کے لیے کچھ نہ ہوگا۔

اگر وقف کرنے والے نے شرط رکھی کہ وہ جب چاہے گا اسے زمین کے بدلہ دوسری زمین تبدیل کرے گا تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک (استحساناً) جائز ہے اور امام محمدؒ کے ہاں وقف جائز اور شرط باطل ہے اگر واقف نے اس کی ولایت اپنے لیے مشروط کی حالانکہ یہ واقف غیر مامون ہے تو بلحاظ فقراء قاضی اس کے قبضہ سے نکال سکتا ہے۔

مسجد کے وقف کا حکم

اگر کسی نے مسجد بنائی تو اس کی ملکیت زائل نہ ہوگی یہاں تک کہ اسے اپنی ملکیت سے راستہ سمیت علیحدہ کر دے اور لوگوں کو اس مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت دے، پس جب اس مسجد میں ایک شخص نے نماز ادا کر لی تو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک تو مسجد کی وہ جگہ اس کی ملکیت سے زائل ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک ”سپرد کرنا“ ضروری ہے اور بصورت مسجد سپردگی کی شرط یہی ہے کہ اس مسجد میں نماز ادا کی جائے یا بایں وجہ کہ جب یہاں قبضہ کرنا دشوار ہے تو حصول مقصود کو قبضہ کا قائم مقام کیا گیا ہے۔ امام صاحب سے ایک روایت میں دو یا دو سے زیادہ آدمیوں کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ذکر بھی ہے۔ امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں اس واقف کا قول جب یہ متحقق ہے کہ وہ کہے کہ میں نے اسے مسجد بنا دیا ہے تو اس کی ملکیت زائل ہو جائے گی کیونکہ ان کے نزدیک سپرد کرنا شرط نہیں ہے۔

اگر کسی نے اپنے باغ کے درمیان میں مسجد بنائی اور لوگوں کو اس میں داخل ہونے کی اجازت دی لیکن اسے اپنے گھر سے الگ نہیں کیا تو وہ اس کی ملکیت میں رہے گی، اسے اختیار ہوگا کہ اسے بیچ دے اور مرنے کے بعد اس سے وہ جگہ میراث ہوگی کیونکہ وہ اس کی ملکیت میں داخل ہے اور اس کو محیط ہے۔ نیز اسے روکنے کا حق ہوگا نیز اس لیے کہ اس نے اسے خالصاً اللہ تعالیٰ کے لیے وقف نہیں کیا کیونکہ اس نے اپنے لیے راستہ کو باقی رکھا، مسجد کے لیے کوئی علیحدہ

راستہ نہیں رکھا البتہ اگر وہ لوگوں کے لیے اس کو کھول دے اور اس کا راستہ الگ کر دے اور اسے جدا کر دے تو وہ خالص مسجد ہو جائے گا۔ اگر گھر کی چھت پر مسجد بنائی اور نیچے والی منزل کو رہائش گاہ بنایا تو طرفین کے نزدیک وہ میراث ہوگی۔ امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ وہ مسجد ہوگی اور اگر نیچے والی منزل کو مسجد اور اوپر والی منزل کو رہائش گاہ بنایا اور اس کا راستہ الگ کر دیا تو اجماعاً جائز ہے، اس لیے کہ مسجد وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ کے طور پر ہو اور یہ امر نیچے کی جگہ میں متحقق ہوتا ہے اوپر والی جگہ میں متحقق نہیں ہوتا۔

امام محمدؒ سے مروی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کیونکہ مسجد ایک قابل تعظیم جگہ ہے، پس جب اس کے اوپر رہائش ہوگی تو اس کی تعظیم نہ ہوگی، ہاں البتہ ضرورت (مجبوری) کے وقت جائز ہے۔ اگر مسجد کے ارد گرد کی جگہ ویران ہو جائے اور اس کے پاس کوئی نہ رہے تو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک وہ قیامت کے دن تک ہمیشہ کیلئے مسجد ہی رہے گی۔ امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ بانی کی ملکیت اس میں عود کر آئے گی یا اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ کی طرف منتقل ہو جائے گی، اس لیے کہ اس نے قربت کے لیے خاص کیا تھا اور وہ قربت اب ختم ہو چکی ہے۔

اگر مسجد کے فرش (چٹائی وغیرہ) کی ضرورت نہ ہو تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اسے دوسری مسجد میں منتقل کر دیا جائے، بعض علماء کہتے ہیں کہ اسے فروخت کر کے مسجد کے کاموں میں صرف کیا جائے گا اور مسجد کا ٹوٹا ہوا سامان کنوئیں کی تعمیر میں لگانا جائز ہے، اس لیے کہ وہ مسجد کی جنس میں سے نہیں ہے، اسی طرح کنوئیں کا ٹوٹا ہوا سامان مسجد میں نہ لگایا جائے بلکہ کسی دوسرے کنوئیں میں لگایا جائے گا۔

جس نے پانی کی سبیل یا کوئی عمارت یا رباط وقف کی یا اپنی زمین کو قبرستان بنایا اور یہ شرط رکھی کہ وہ اس سبیل سے پانی پیے گا یا اس عمارت میں رہے گا یا اس قبرستان میں دفن ہوگا تو جائز اور اس سے اس کی ملکیت زائل نہ ہوگی، یہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک ہے الا یہ کہ حاکم اس کا حکم کرے کیونکہ اس کا مقصود قربت ہے اور اپنی ذات پر صرف کرنا بھی قربت ہے جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: جو شخص حلال مال کمائے، پھر اپنی ذات کو کھلائے اور پہنائے تو یہ اس کے لیے زکوٰۃ ہے۔^۱

امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ اس کی ملکیت محض کہنے سے ہی زائل ہو جائے گی۔ امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ جب لوگ اس سے پیئیں گے اور رباط اور عمارت میں سکونت اختیار کریں گے

اور زمین میں اپنے مردے دفن کریں گے تو اس کی ملکیت زائل ہو جائے گی۔

امام ابوحنیفہؒ کا مذہب یہ ہے کہ بندے کا حق اس سے منقطع نہیں ہوتا، اس کو انتفاع کا حق حاصل ہوگا۔ چنانچہ وہ اس عمارت میں سکونت اختیار کرے گا اور رباط میں ٹھہرے گا اور پانی پی سکتا ہے اور اس قبرستان مدفون ہو سکتا ہے، پس حکم حاکم یا موت کے بعد اضافت کی شرط ہوگی جیسا کہ فقراء پر وقف کرنے کی صورت میں حکم ہے لیکن مسجد کا حکم اس کے خلاف ہے کیونکہ مسجد میں اس کا حق انتفاع باقی نہیں رہا، پس وہ حکم حاکم کے بغیر ہی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے گی۔

امام ابو یوسفؒ کا مذہب یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ قبضہ لازمی شرط نہیں ہے۔

امام محمدؒ کا مذہب یہ ہے کہ ان کے نزدیک سپرد کرنا شرط ہے اور اس کے لیے ایک شخص ہی کافی ہے کیونکہ تمام جنس کا فعل دشوار ہے نیز اس لیے بھی کہ جب وہ قبرستان میں دفنائیں گے تو یہ قبضہ کی صورت ہو جائے گی تو اس مسجد کی طرح ہو گیا جس مسجد میں نماز ادا کی گئی ہو اگر اس میں کوئی دفن نہ کیا گیا ہو تو اس سے قبضہ کا معنی حاصل نہ ہوگا چنانچہ وہ مالک کے قبضہ میں رہے گا اور اسے رجوع کا حق حاصل ہوگا۔

اور اس قبرستان میں دفن ہونے کے لحاظ سے مالدار اور فقیر سب شریک ہوں گے، اسی طرح اس مسجد میں نماز ادا کرنے اور سبیل اور کنوئیں وغیرہ سے پانی پینے کے اعتبار سے سب شریک ہوں گے کیونکہ یہ چیز اباحت کے درجہ میں آتی ہے اور مباح چیز میں مالدار اور فقیر سب برابر ہیں۔ صدقہ کی آمدنی کا حکم اس کے برخلاف ہے، اس لیے کہ اس کا مقتضی تملیک ہے، پس وہ مال دار کے لیے جائز نہ ہوگی۔

وقف کو کرایہ پر دینا

وقف کرنے والے کی طے کردہ مدت سے زیادہ وقف شدہ چیز کو کرایہ پر دینا جائز نہیں ہے کیونکہ واقف کی شرط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے نیز اس لیے کہ اس نے متعین شرط کے ساتھ اسے اپنی ملکیت سے خارج کیا ہے، اگر کوئی مدت شرط نہ کی ہو تو متقدمین حنفیہ کہتے ہیں کہ جتنی مدت چاہے اسے کرایہ پر دے جائز ہے۔ متاخرین حنفیہ کہتے ہیں کہ ایک سال سے زیادہ دینا جائز نہیں ہے تاکہ طویل مدت کی وجہ سے وہ اسے اپنی ملک نہ بنالے کہ پھر وقف ہونے کی علامت (نشان) ختم ہوتی جائے گی اور ملکیت کی علامت نمایاں ہونے لگے گی کیونکہ ظلم کرنے والوں کی کثرت ہے اور ان کا غلبہ بھی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ کھیتوں میں تو تین سال کے لیے

وقف کا اجارہ جائز ہے اور گھروں وغیرہ میں ایک سال کے لیے جائز ہے۔
 وقف کو اجرت مثل کے ساتھ ہی اجارہ میں دینا جائز ہے تاکہ فقراء سے ضرر کا دفعیہ ہو،
 اگر اس نے وقف شدہ چیز کو اجرت مثل پر تین سال کے لیے اجارہ پر دیا، پھر رغبت بڑھنے کی وجہ
 سے مدت میں اضافہ ہو گیا تو اجارہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ عقد کے دن اجر مثل کا اعتبار کیا گیا ہے۔
 موقوف علیہ کے لیے وقف کو اجارہ پر دینا جائز نہیں ہے۔ الا یہ کہ وہ واقف کی طرف
 سے اس کا سرپرست یا قاضی کا نائب ہو، پس جب قاضی یا اس کا نائب یا سرپرست اسے اجارہ
 پر دے تو اس کی موت سے اجارہ فسخ نہ ہوگا کیونکہ وہ موقوف علیہ کی طرف سے وکیل کی طرح ہے
 اور معاملات وکیل کی موت سے فسخ نہیں ہوا کرتے۔

اگر موقوف علیہ نے اس میں سکونت اختیار کی تو اگر واقف نے اس کی رہائش کو مشروط
 کیا تھا تو اس کے لیے یہ جائز ہے اور اگر اس کے نفع کو مشروط کیا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔
 احتیاط یہی ہے کہ نگران دوسرے کو اجرت پر دے کہ اجرت اس کو دے دے۔ وقف کو عاریۃ دینا
 یا کسی کو سکونت کے لیے دینا جائز نہیں کیونکہ اس میں فقراء کے حق کا ابطال ہے۔

اگر مرض الموت میں وقف کیا ہے تو امام طحاوی فرماتے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد
 وصیت کے حکم میں ہوگا، امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس کو لازم نہ ہوگا اور ان کے نزدیک عدم لزوم
 ہی صحیح ہے، امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں کہ لازم ہوگا مگر ثلث مال میں سے معتبر ہوگا اور
 حالت صحت میں وقف کرنا تمام مال سے معتبر ہوگا۔

﴿ کتاب احیاء الموات ﴾

”احیاء“ کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو زندہ کرنا یعنی حساس یا نامی قوت والا کرنا۔ اور ”موات“ اس زمین کو کہتے ہیں جو سیم و تھور یا کسی اور وجہ سے قابل انتفاع نہ ہو اور اس کا کوئی مالک نہ ہو اور وہ شہر سے باہر ہو، شہر کے مصالح کا اس سے تعلق نہ ہو اور بستی سے اتنی دور ہو کہ اگر کوئی آدمی آخر آبادی سے کھڑا ہو کر چلائے تو اس زمین میں آواز نہ سنی جائے۔

ہمارے دور میں ہر وہ زمین جس پر حکومت کا قبضہ ہو وہ حکومت کی املاک میں شمار ہوگی اور جس زمین پر حکومت کا قبضہ نہ ہو وہ ارض موات کے حکم میں ہے۔

احیاء موات کی شرعی تعریف یہ ہے کہ غیر آباد زمین کو زراعت و کاشتکاری یا تعمیر یا شجر کاری وغیرہ سے باصلاحیت اور کارآمد بنانا لہذا جس زمین کا کوئی مالک نہ ہو یا وہ اسلام میں مقبوض ہو اور اس کا کوئی خاص مالک معلوم نہ ہو اور وہ بستی سے اتنی دور ہو کہ کوئی بلند آواز آدمی کھڑا ہو کر چلائے تو اس کی آواز اس میں سنی نہ جائے تو وہ امام ابو یوسف کے نزدیک ارض موات میں داخل ہے۔ اور امام محمدؒ کے نزدیک اگر وہ زمین اسلام میں مقبوض و مملوک ہو تو وہ موات میں شامل نہ ہوگی اور مالک معلوم نہ ہونے کی صورت میں وہ مسلمانوں کی جماعت کے لیے ہوگی۔ جو زمین کسی مسلمان یا ذمی کی مملوک نہ ہو اس میں امام محمدؒ نے عدم استفادہ کا اعتبار کیا ہے، پس وہ شہر کے مصالح میں سے نہ ہو اور شہر سے باہر ہو، خواہ اس کے قریب ہو یا دور۔

امام ابو یوسفؒ نے دور ہونے کی شرط لگائی ہے کیونکہ ظاہر بات یہی ہے کہ جو زمین شہر یا بستی کے قریب ہوگی اس کے اہلیان کا نفع اس سے منقطع نہ ہوگا۔ امام محمدؒ نے بستی والوں کا اس زمین سے حقیقہً انقطاع نفع کو معتبر مانا ہے۔ مختار قول امام ابو یوسفؒ کا ہے۔

آج کل ارض موات حکومت کی املاک میں سے شمار ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہؒ نے احیاء موات اور اس کی تملیک میں حاکم کی اجازت کو شرط قرار دیا ہے لہذا جو شخص بحکم حاکم ارض موات کو آباد کرے گا وہ اس کا مالک ہو جائے گا اور اگر حاکم کی اجازت کے بغیر آباد کرے گا تو مالک نہ ہوگا، خواہ وہ مسلمان ہو یا ذمی۔

جیسا کہ جنادہ بن ابی امیہؒ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا: ہم لوگ دابق مقام

میں عسکری حالت میں موجود تھے کہ حبیب بن مسلمہ سے کسی نے یہ ذکر کیا کہ بند قبر صی سمندر سے سامان تجارت لے کر ارمینہ کے راستہ پر جا رہا ہے۔ حبیب بن مسلمہ اس کے پیچھے نکلے، اس سے لڑائی ہوئی اور بالآخر اسے قتل کر کے اس کا سامان پانچ خچروں پر لاد کر لے آئے جس میں دیباچ، یاقوت اور زمرہ وغیرہ بھی تھے۔ حبیب نے چاہا کہ سارا اسباب خود ہی لے لے لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ سارا نہیں بلکہ تھوڑا سا لے لو، حبیب نے ابو عبیدہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ

﴿من قتل قتیلاً فله سلبه﴾: ”یعنی جو شخص کسی کو قتل کرے تو مقتول کا ساز و سامان اسی کا ہوگا۔“

ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے ایسا نہیں فرمایا: معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جب ان کی بات کو سنا تو وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور اس وقت حبیب ان سے لڑ رہے تھے، معاذ رضی اللہ عنہ نے حبیب سے کہا کہ خدا کا خوف کرو، تمہارے امام جتنے حصہ پر خوش ہیں، اتنا حصہ تم لے لو، تمہارے لیے بس اتنا ہی ہے جتنے پر تمہارے امام دل سے خوش ہیں، پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ان کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنائی، چنانچہ پھر سب کا اس پر اتفاق رائے ہو گیا اور حبیب کو خمس کا بعض حصہ دیا جسے انہوں نے ایک ہزار دینار کے عوض فروخت کیا۔

جب حاکم احياء موات کے بعد اس زمین کا اسے مالک بنا دے تو وہ زمین اس کی ملک ہو جائے گی۔

بہتر یہ ہے کہ امام وقت اس کے احياء (آباد کاری) کے بعد وہ زمین اس کو دے دے اور اس سے واپس نہ لے جبکہ وہ نادانی کی وجہ سے اجازت نہ لے لیکن اگر اس نے حاکم کو کم حیثیت جانتے ہوئے اس سے اجازت نہیں لی تو حاکم کو زمین واپس لینے کا حق ہوگا۔

مسلمان اور ذمی اس سلسلہ میں برابر ہیں کیونکہ احياء ملک کا سبب ہے اور مسلمان پر ایسی زمین میں عشر اور ذمی پر خراج واجب ہوگا۔ پس ہر ایک پر اس کے لائق و مناسب امر لازم ہوگا اور احياء یہ ہے کہ اس زمین میں کوئی عمارت بنالے یا کاشتکاری کر لے یا اس زمین کا بند بنالے تاکہ سیلاب کا پانی روک سکے اور اس عمارت یا کھیت وغیرہ کی جگہ اس کے لیے ہوگی، دوسرے کی نہ ہوگی۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اگر نصف سے زیادہ زمین کو آباد کر لیا تو یہ ساری زمین کا احياء شمار ہوگا اور اگر نصف زمین کو آباد کیا ہو تو جو حصہ آباد کیا ہو بس وہی اس کا

ہوگا، باقی غیر آباد حصہ اس کا نہ ہوگا۔ ابن سماعہ نے امام ابوحنیفہؒ سے نقل کرتے ہوئے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر اس نے اس میں کنواں کھودا یا اس میں پانی پہنچایا تو اس نے اس کو آباد کر دیا، زراعت کرے یا نہ کرے۔

صاحبینؒ فرماتے ہیں کہ حاکم کی اجازت (حکم) کے بغیر ہی اس کا مالک ہو جائے گا۔ اس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ روایت ہے جس میں وہ حضور نبی کریم ﷺ کا فرمان نقل کرتی ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا

﴿من اعمارضاً لیست لاحد فهو احق بہا﴾: ”جو شخص ایسی زمین کو آباد کرے جو کسی کی ملک نہ ہو تو وہ اس کا زیادہ حق دار ہے۔“^۱

پتھر وغیرہ سے علامت لگانا

جس نے تین سال تک زمین پر پتھر وغیرہ سے علامت (نشان) لگائی لیکن اس میں کاشتکاری نہیں کی یا اس میں کوئی تعمیر نہ کی یا اس عرصہ کے دوران کوئی کنواں نہ کھودا تو حاکم کسی اور کو وہ زمین دے دے۔ کیونکہ اتنے عرصہ کے بعد اس کا زمین کے بارے میں غفلت اور لاپرواہی ثابت ہو چکی ہے حالانکہ دارالاسلام کا مقصود اس کی اراضی کی آبادی کو ظاہر کرتا ہے تاکہ مسلمانوں کی منفعت حاصل ہو یعنی عشر اور خراج حاصل ہو۔ نیز اس لیے کہ محض پتھر وغیرہ سے علامت لگانا اس کا احیاء نہیں ہے کیونکہ یہ صرف دوسرے کو زمین سے روکنا اور حدود متعین کرنے کے لیے پتھر رکھے جاتے ہیں تاکہ کوئی اس میں شریک نہ ہو۔

زمین کے ارد گرد خشک ٹہنیاں لگانا یا اس کا گھاس وغیرہ اکھاڑنا تحجیر ارض میں شامل ہے اور تین سال کی تحدید حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ چنانچہ ایک ضعیف اثر میں جسے ابو یوسفؒ نے اپنی سند سے حضرت سعید بن المسیبؒ سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”جو بے آباد زمین کو آباد کرے تو وہ اس کی ہے اور پتھر لگانے والے کا تین سال کے بعد کوئی حق نہیں ہے۔“

حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے قبیلہ جہینہ یا مزینہ کے چند لوگوں کو ایک زمین جائیداد کے طور پر دی تو ان لوگوں نے اس زمین کو بے کار چھوڑے رکھا، پھر دوسرے لوگوں نے اس زمین کو لے کر آباد کیا، پھر اس زمین کے بارے میں

پہلے لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاں مقدمہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ قطعہ میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیا ہوتا تو میں اس کو نہ لوٹاتا لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اور فرمایا کہ جس کی زمین ہو اور وہ تین سال تک اسے معطل چھوڑے رکھے، اسے آباد نہ کرے اور اسے کوئی دوسرا آباد کر دے تو وہ اس کا زیادہ حق دار ہے۔^۱

تین سال کی تجدید اس وجہ سے بھی ہے کہ عام طور پر سال میں ایک بار اراضی کو کاشت کیا جاتا ہے اور اتنے عرصہ میں معلوم کیا جاسکتا ہے کہ اسے اس میں دلچسپی بھی ہے یا نہیں اگر اس نے زمین کو بے کار چھوڑ سے رکھا اور تین سال کے عرصہ تک اس میں کاشتکاری نہیں کی تو اس سے پتہ چلا کہ وہ اس زمین کو تلف کرنا اور بے آباد رکھنا چاہتا ہے اس لیے حاکم پر واجب ہے کہ اس زمین سے اس کا قبضہ و اگزار کرائے اور یہ سب کچھ از روئے دیانت کے ہے لیکن اگر مدت معینہ گزرنے سے پہلے دوسرا اس کو آباد کر دے تو وہ اس کا مالک ہو جائے گا۔

کنوئیں کا حریم

جس نے امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک بحکم حاکم اور صاحبینؒ کے نزدیک بغیر حکم حاکم ارض موات میں کنواں کھودا تو اس کا حریم ہر جانب سے چالیس ذراع ہوگا، اس لئے کہ کنوئیں کا کھودنا اس کا احیاء ہے۔ نیز کنوئیں کا حریم گھر کے صحن کی طرح ہے اور گھر کا مالک اپنے گھر کے صحن کا زیادہ حق دار ہوتا ہے اسی طرح کنوئیں کا حریم بھی ہے اور اس میں اونٹ اور بکریاں برابر ہیں، یہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک ہے۔

پس جو شخص اس کے حریم میں کھدائی کرنا چاہے گا اسے اس کام سے روکا جائے گا، اس لیے کہ پانی کے جانے سے اس کا حق مختل ہوگا نیز اس لیے کہ وہ حریم کا اس لیے مالک ہوا ہے کہ اس کے لیے اس سے انتفاع ممکن ہو جبکہ اس کے حریم میں دوسرا کنواں کھودنا انتفاع حق سے مانع ہوگا، ہاں اگر دوسرا شخص پہلے کنوئیں کے حریم سے باہر کنواں کھودے اور پہلے کنوئیں کا پانی اس طرف چلا جائے تو اس پر کچھ لازم نہ ہوگا کیونکہ وہ کھودنے میں تعدی کرنے والا نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کنوئیں کا حریم ہر جانب سے چالیس ذراع ہے، جب وہ کنواں اونٹوں، بکریوں اور مسافروں کو پانی پلانے کے لیے ہو۔“^۲

۱ [نصب الریۃ ۲/۲۹۰] ۲ [سنن البیہقی ۶/۱۵۵]

صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر وہ کنواں کھیت سینچنے کیلئے ہو تو اس کا حریم ساٹھ گز ہے اور امام صاحب کے نزدیک چالیس گز ہے (جیسا کہ پہلے گزرا) اور چشمہ کا حریم ہر جانب سے پانچ سو گز ہے اس لیے کہ چشمہ کا پانی کھیت کی سیرابی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پس ایسی جگہ کا ہونا ضروری ہے جس میں پانی چلتا ہو اور ایسا حوض جس میں پانی جمع ہوتا ہو اور ایسی نہر جس کا پانی کھیت تک پہنچتا ہو، اس لیے اس کی مقدار بڑھادی گئی اور پانچ سو گز کی تحدید ہر طرف سے شمار ہوگی۔ اس کی دلیل ایک حدیث غریب ہے جیسا کہ امام زیلعی سے نصب الرایۃ میں ذکر کیا کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا چشمہ کا حریم پانچ سو گز اور بیر عطن کا حریم چالیس گز اور بیرناصح کا حریم ساٹھ گز ہے۔

درخت کا حریم

جب درخت ارض موات میں لگائے گئے ہوں تو ان کا بھی ایک حریم ہے یہاں تک کہ پھر دوسرے کو اس کے حریم میں شجر کاری کرنا ممنوع ہوگا کیونکہ اسے ایسے حریم کی ضرورت ہوگی جس میں وہ پھل کو رکھ سکے اور وہ حریم ہر جانب سے پانچ گز مقرر کیا گیا ہے چنانچہ حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: دو آدمی حریم نخلہ کے بارے میں بارگاہ رسالت میں اپنا مقدمہ لے کر آئے تو ایک حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے اس کی پیمائش کا حکم دیا تو سات گز نکلی، دوسری حدیث میں ہے کہ پیمائش کی گئی تو پانچ گز نکلی اور اسی کا فیصلہ کیا گیا۔^۱

جو دریا زمین چھوڑ دے اور اس سے پانی ہٹ جائے تو اگر پانی پھر آسکتا ہو تو اس زمین کو چلتی کرنا جائز نہیں ہے اور اگر پانی دوبارہ نہ آسکتا ہو تو وہ ارض موات کے مثل ہے کہ اگر وہ کسی کا حریم نہ ہو تو جو اس کو چلتی کرے وہ اس کا حاکم کی اجازت (امام صاحب کے نزدیک) سے مالک ہو جائے گا اور اگر وہ کسی کا حریم ہو تو وہ اسی کے تابع ہوگی کیونکہ وہ اسی کے مرافق میں سے ہے۔

زمین کی آب پاشی

شرکاء کے درمیان پانی کی تقسیم جائز ہے، بعث نبوی ﷺ سے قبل لوگ ایسا کیا کرتے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے ان کے عمل کو برقرار رکھا اور آج تک بغیر کسی ممانعت کے

لوگوں کا تعامل جاری ہے، پانی کی یہ تقسیم باعتبار حق کے ہے نہ کہ باعتبار ملک کے، نہر کا پانی کسی کا مملوک نہیں ہے۔ تقسیم کبھی تو باعتبار ملک کے ہوتی ہے اور کبھی باعتبار حق کے ہوتی ہے۔

حق شرب کا دعویٰ بغیر زمین کے بھی استحساناً جائز ہے بایں طور کہ وہ زمین اور حق شرب کو خرید لے، پھر حق شرب کے سوا زمین کو فروخت کر دے یا اس کا وارث ہو جائے کیونکہ کبھی وراثت سے ایسی چیز ملکیت میں آجاتی ہے جو بیع سے نہیں آتی جیسے قصاص، پس اگر قصاص کا حق اس کے باپ کا ہو اور وہ مر جائے اور وہ اپنے باپ کے قاتل سے قصاص نہ لے سکے تو مقتول کا پوتا اس حق کا وارث ہوگا اور اس کا مطالبہ کر سکتا ہے، اسی طرح شراب بھی مالی حق ہے اس میں وراثت جاری ہوگی۔

اگر نہر پر موجود ایک زمین کا دعویٰ کیا جس زمین کا شرب اس نہر سے متعلق ہو اور لوگ اس کے لیے زمین کی گواہی دیں تو زمین کا اور اس کے حصہ شرب کا فیصلہ کر دیا جائے گا اس لیے کہ زمین کا شرب سے تعلق رہتا ہے اور اگر صرف شرب کا دعویٰ کرے اور لوگ اس پر گواہی دیں تو زمین کے کسی حصہ کا بھی اس کے لیے فیصلہ نہ کیا جائے گا۔

حق شرب نہ فروخت کیا جائے گا، نہ اسے ہبہ کیا جائے گا اور نہ ہی اسے صدقہ کیا جائے گا کیونکہ جہالت عام ہے اور قبضہ کا تصور نہیں ہے اور حق شرب میں مہر بننے کی صلاحیت نہیں ہے اگرچہ عقد میں اس کا ذکر کر دیا جائے، اس صورت میں مہر مثل ہی واجب ہوگا اور حق شرب بدل خلع بھی نہیں بن سکتا۔ پس اگر بیوی اپنے شوہر کو (وہ اس سے علیحدگی چاہتی ہو) حق شرب دے تو اس کا اسے بدل خلع کا نام دینا لغو ہوگا اور اس بیوی پر لازم ہے کہ مہر کا جو حصہ وصول کیا ہے اسے واپس کر دے۔

پانی کی اقسام اور اس سے انتفاع کا حق

پانی کی چند اقسام ہیں: (۱) دریا کا پانی، یہ عام ہے، تمام مخلوق کو اس سے انتفاع کا حق حاصل ہے، خواہ پینے کے لیے پانی اس سے لیں یا زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے لیں، کسی کو اس سے منع نہ کیا جائے گا۔ جیسے ہوا اور سورج کی روشنی سے سب کو انتفاع کا حق ہوتا ہے۔

(۲) وادیوں اور بڑی بڑی نہروں کا پانی، تمام لوگ اپنی زمینوں کو سیراب کرنے اور پینے کے اعتبار سے اس میں شریک ہیں جبکہ سیراب کرنے سے عامۃ الناس کو نقصان نہ ہوتا ہو۔ بایں صورت کہ کسی بنجر زمین کو آباد کرے اور اس کی سیرابی کے لیے اس نہر کو کھودے جو کسی کی

ملک میں نہ ہو کیونکہ وہ اصل میں مباح ہے اور اگر عامۃ الناس کو اس سے نقصان ہوتا ہو تو پھر اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ لوگوں سے ضرر کا ہٹانا واجب ہے جیسے دریا کا کنارہ ٹوٹ جائے اور پانی اس کی جانب آجائے اور اس کی ایک جانب غرق ہو جائے۔

(۳) نہر خاص کا پانی: یعنی ایسی نہر کا پانی جو نہر کسی بستی کے لیے خاص ہو، پس دوسروں کی اس میں پینے میں شرکت ہے اور اہل بستی کے لیے اس سے پانی لینا اپنے استعمال کیلئے جائز ہوگا، دوسروں کے لیے جائز نہ ہوگا۔ امام ابوحنیفہؒ سے کسی نے مسئلہ دریافت کیا کہ ایک آدمی کا پانی ہے جو اس کے کھیتوں کے لئے چلتا ہے اور ایک آدمی آکر اس پانی سے اپنے اونٹوں اور چوپایوں کو پانی پلاتا ہے یہاں تک کہ ان کو سارا پانی پلا دیتا ہے تو کیا اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ امام صاحبؒ نے اپنے شاگرد امام زفرؒ سے اس سوال کا حل معلوم کیا تو امام زفرؒ نے لکھا کہ اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ امام ابوحنیفہؒ نے ان کی تغلیط کرتے ہوئے فرمایا کہ اونٹ والوں کے لیے ایسا کرنا جائز ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

﴿المسلمون شرکاء، فی ثلاث فی الکلاء، والماء، والنار﴾: ”یعنی مسلمان

تین چیزوں میں شریک ہیں ایک گھاس، دوسرا پانی اور تیسرا آگ۔“

یہ حدیث پانی پینے اور حق شرب دونوں کو شامل ہے کنوئیں اور حوض کا حکم اسی نہر خاص کی طرح ہے۔

(۴) گھڑے وغیرہ میں محفوظ کیا ہوا پانی، ایسے پانی کا لینا مالک کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔ مالک کو اس پانی کا بیچنا بھی جائز ہے، اس لیے کہ وہ احراز (محفوظ کرنا) کی وجہ سے اس کا مالک ہے اور یہ شکار کی مانند ہو گیا مگر اتنا فرق ہے کہ اس کی چوری سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ حدیث کی وجہ سے اس میں شرکت کا شبہ پایا جاتا ہے۔

اگر کوئی کنواں، دریا یا چشمہ کسی آدمی کی ملک میں ہو تو اسے حق حاصل ہے کہ وہ دوسرے کو اس کی ملک میں داخل ہو کر پانی پینے سے روکے جبکہ دوسرا شخص قریب میں مباح زمین کو پاتا ہو، اگر قریب میں کوئی زمین نہ ہو تو دو صورتیں ہیں یا تو اسے اپنی زمین میں داخل ہو کر پانی خود ہی پینے دے بشرطیکہ وہ اس کا کنارہ توڑے گا نہیں اور یا پھر خود اس کو پانی نکال کر دے دے اگر ایسی صورت میں اس کو روکے حالانکہ وہ یا اس کی سواری پیاس کی وجہ سے جان کے جانے کے خطرے میں ہے اور سواری ایسی ہو جسے پانی کی احتیاج ہوتی ہے تو اس کے ساتھ لڑے۔ اس کی

دلیل یہ روایت ہے کہ چند لوگ پانی والی جگہ پر آئے اور انہوں نے وہاں کے لوگوں سے کنوئیں کی جگہ معلوم کی تو انہوں نے بتانے سے انکار کیا، پھر ان سے ڈول مانگا تو انہوں نے ڈول بھی نہیں دیا، پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو! ہماری اور ہماری سواریوں کی گردنیں ٹوٹنے کو ہیں، انہوں نے پھر بھی نہ مانا اور ڈول تک نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب (واپس آکر) اس کا ذکر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ان پر اسلحہ کیوں نہ اٹھالیا؟ نیز اس وجہ سے بھی کہ یہ مضطر کو اس کا حق نہ دینا ہے حالانکہ مضطر کا حق پانی کے پینے میں ثابت ہے۔ پس اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ہتھیار کے ساتھ مقابلہ کرے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کلام نہ فرمائیں گے ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جس نے مسافر کو اپنے پاس بچا ہوا پانی نہ دیا۔“ الحدیث۔

بہیہ نامی عورت اپنے والد سے نقل کرتی ہیں کہ میرے والد نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت لی، پھر آپ کے جسم مبارک کو چومنے لگے اور اس کے ساتھ چمٹ گئے، پھر عرض کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! وہ کون سی چیز ہے جس کا روکنا حلال نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”پانی“ الحدیث۔

اور ایسا پانی جسے کسی برتن میں جمع کر کے محفوظ کیا گیا ہو، اس کے نہ دینے پر بغیر ہتھیار کے اس کے ساتھ لڑے کیونکہ وہ احراز کے ساتھ اس کا مالک ہو۔ اسی لیے دوسرے کو ضامن بھی بنا سکتا ہے لیکن وہ اس بات پر مامور ہے کہ دوسرے کو بقدر حاجت پانی دے پس نہ دینے سے اس نے حکم کی مخالفت کی، اس بنا پر وہ اس کو ادب سکھائے گا، بھوک کی صورت میں کھانے کا حکم بھی برتن میں محفوظ کردہ پانی کی طرح ہے، پس اگر کھانے کی احتیاج ہو بایں صورت کہ اگر کھانا کھالے تو بظاہر وہ نہیں مرے گا تو جس کے پاس کھانا موجود ہو اس سے مانگ لے، اگر وہ انکار کرے تو اس کے ساتھ لڑ سکتا ہے اور کھانا لے سکتا ہے اور جس قدر کھایا ہو اس کی قیمت کا ضامن ہوگا۔

صاحب شرب کو اندر آنے سے اس کو روکنے کا حق نہیں ہے جبکہ وہ اس کی ملک کو نقصان نہ پہنچائے اس لیے کہ موات مشترک تھا اور احواء حق مشترک کا ہے لہذا حق شرب سے منع نہیں کر سکتا ہے، ان سب میں اصل (دلیل) آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے:

﴿الناس شركاء في ثلاث، في الماء، والكلاء، والنار﴾: ”لوگ تین چیزوں

میں شریک ہیں، پانی، گھاس اور آگ۔“

اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا جو پانی اس کی ضرورت سے زائد ہو اس کا فروخت کرنا اس کے لیے جائز ہے؟ تو حضرت ایاس بن عبد سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے زائد پانی کے بچنے سے منع فرمایا ہے۔^۱

آج کے دور میں ڈیموں کی تعمیر کا خرچ خزانہ عامہ کے ذمہ ہے کیونکہ اس کا نفع عوام ہی کا ہے لہذا سرکاری دولت کے ذمہ ہوگا اگر خزانہ میں پیسہ نہ ہو تو عامۃ الناس کے حق کے احیاء کے لیے لوگوں کو اس پر مجبور کیا جائے گا تاکہ ان سے ضرر کا دفیعہ ممکن ہو لیکن جن لوگوں کے پاس عملی تجربہ یا قوت و طاقت موجود ہو حاکم انہیں اس پر مجبور کر سکتا ہے اور ان کے اخراجات ان اہل ثروت کے ذمہ ڈالے گا جو کام کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ جو نہریں عامۃ الناس کے زیر استعمال ہوں ان نہروں کی توسیع و تنظیف وغیرہ کا کام ان ہی کے مالکان کے ذمہ ہوگا کیونکہ ان کی منفعت بھی ان ہی کو حاصل ہے اور جو ان میں سے اس سے انکار کرے تو عام ضرر کے دفیعہ کے لیے اسے مجبور کیا جائے گا اور اگر ان نہروں میں عام ضرر ہو بایں طور کہ انہیں نہروں کے بھر جانے کا خطرہ ہو کہ پانی مسلمانوں کے راستے اور ان کی زمینوں کی طرف آجائے گا تو اپنے حصوں کی حفاظت ان ہی کے ذمہ ہوگی اور حاکم کو حق ہوگا کہ جس کو چاہے اس پر مجبور کرے اور عمومی کلفت ان نہروں سے مستفید ہونے والوں کے ذمہ لگائے۔

اگر نہر مخصوص جماعت کی زیر ملکیت ہو تو اس نہر کی صفائی، کھدائی اور توسیع ان ہی کے اوپر ہوگی، جو ان میں سے انکار کرے تو ایک قول کے مطابق اسے مجبور کیا جائے گا اور دوسرے قول کے مطابق مجبور نہ کیا جائے گا، اس لیے کہ دو ضرروں میں سے ہر ایک خاص ہے اور اس کا دفیعہ بحکم قاضی صفائی کھدائی وغیرہ سے ممکن ہے، پھر شرکت نہ کرنے والے سے رجوع کر لیا جائے گا۔

جب وہ نہر اس خاص جماعت کی زمین سے متجاوز ہو جائے تو ان لوگوں سے صفائی کا صرفہ ختم کر دیا جائے گا۔

امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں کہ ان سب پر نہر کی کھدائی لازم ہے، نہر کی شروع سے آخر تک اور یہ چیز اپنے حصہ اور زمین کے مطابق ہوگی، اس لیے کہ اوپر والا اپنی زمین کے ماوراء حصہ کی احتیاج رکھتا ہے تاکہ بچا ہو پانی آگے بہایا جائے اور اس کے باشندے غرق

نہ ہوں۔

امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ جب وہ کھدائی اس کی زمین سے متجاوز ہو جائے تو اس زمین کی سیرابی ممکن ہوگی اور اس کی ضرورت بھی پوری ہوگی اور اس کے بعد کا وہ محتاج نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر اس کے لیے زمین کو سیراب کرنا ممکن ہو اور کھدائی ممکن نہ ہو تو اس پر کھدائی وغیرہ واجب نہ ہوگی۔ اور شرب والوں پر کچھ بھی کھدائی لازم نہیں ہے کیونکہ شرب ایک عام شرکت کا حکم رکھتی ہے۔

مخصوص نہر کے شرکاء آپس میں لڑیں کہ میرا شرب اتنا اور میرا اتنا ہے تو شرب کو ان کے درمیان ان کی زمینوں کے تناسب سے کر دیا جائے گا تا کہ جو مقصد ہے وہ حاصل بھی ہو اور بقدر ضرورت ہو اور اگر راستے کی مقدار میں جھگڑا ہو تو وہاں یہ طریقہ نہ ہوگا کیونکہ کسی کا گھر کشادہ ہو یا تنگ راستہ تو اس کو گزرنے کیلئے ضرور چاہیے اور راستہ سب کے لیے ایک ہی انداز کا ہوگا۔ یہ نہیں کہ کشادہ گھر والے کو زیادہ اور کم والے کو کم ملے یعنی تنگ والے کو کم ملے۔ ان شرکاء میں سے جس کی زمین پہلے ہے اور اوپر ہے کہ پانی نہیں چڑھتا اس کے باوجود بھی اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ نہر میں بند لگا کر اپنی زمین سیراب کرے کیونکہ اس میں دیگر شرکاء کا نقصان ہے بلکہ بغیر بند لگائے ہوئے اپنے حصے کے مطابق سیراب کرنے کا حق ہے ہاں اگر تمام شرکاء راضی ہو کر اجازت دے دیں تو جائز ہے اسی طرح اگر سب نے اتفاق کر لیا کہ اپنی باری میں ہر ایک بند لگا لیا کرے تو جائز ہے کیونکہ یہ انہیں کا حق ہے لیکن بند ایسی چیز سے لگائے کہ نہر جس سے نہ پٹے مثلاً تختہ وغیرہ سے مٹی کا بند نہ لگائیں ورنہ دیگر شرکاء کو اس کے نکالنے میں دقت ہوگی اور اگر وہ اس پر بھی راضی ہو جائیں تو جائز ہے۔

مخصوص مشترک نہر میں سے کوئی دوسری نہر کھودنا چاہتا ہے تو اپنی ساتھیوں کی رضامندی کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کوئی مخصوص مشترک کے کنارے پر پن چکی لگانا چاہتا ہے تو اپنے ساتھیوں کی رضامندی کے بغیر نہیں لگا سکتا کیونکہ اس نہر کا کنارہ توڑنا پڑے گا نیز پن چکی میں مشترک جگہ کو اپنی عمارت میں گھیر لے گا اور دونوں ممنوع ہیں اور اگر پن چکی ایسی ہو کہ اس سے نہر کو اور اس کے پانی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہو اور اپنی جگہ میں پن چکی لگاتا ہے تو جائز ہے کیونکہ یہ اپنی ملک میں تصرف ہے جس میں کسی کو نقصان نہیں۔

اگر شرکاء میں سے کوئی شریک نہر کا پانی اپنی دوسری زمین میں لے جائیں جس کا شرب اس نہر میں نہیں تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے ورنہ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد وہ کہے گا

کہ یہ تو میرا حق ہے۔ لہذا اس کو پہلے ہی روک دیا جائے گا۔

جس نے اپنی زمین کو معتاد طریقہ سے سیراب کیا اور اس کا پانی دوسرے کی زمین میں پہنچ گیا اور اس سے اس کی زمین غرق ہوگئی تو اس پر کوئی ضمان (تاوان) نہ ہوگا لیکن اگر اس نے غیر معتاد طریقہ سے زمین کی آبپاشی کی تو ایسی صورت میں ضامن ہوگا۔ اس لیے کہ وہ تعدی اور زیادتی کا مرتکب ہے۔ جب اپنی نہر کا سرا کھولا اور پڑوسی کی زمین تک اس کا پانی پہنچ گیا جس سے اس کی زمین ڈوب گئی تو اگر وہ معتاد طور پر تھا تو ضامن نہ ہوگا ورنہ ضامن ہوگا۔ یہی حکم ہے کہ اگر اپنی زمین میں موجود گھاس کو جلانے اور آگ دوسرے کی زمین میں پہنچ کر کوئی چیز جلا ڈالے تو اگر اس کا جلانا معتاد ہو تو ضامن نہ ہوگا ورنہ ضامن ہوگا اور بعض کا قول یہ ہے کہ اگر وہ دن ہواؤں کے چلنے کا ہو اور اسے معلوم ہو کہ آگ متجاوز ہوگی تو ایسی صورت میں ضامن ہوگا۔

مزارعت کا بیان

مزارعت لغتاً ”زرع“ سے مفاعلت ہے بمعنی بونا، بیج ڈالنا، اس کو مخابرہ اور محافلہ بھی کہتے ہیں اور اہل عراق اس کو قراح بولتے ہیں۔ اصطلاح شرع میں مزارعت اس عقد کو کہتے ہیں جو پیداوار کی تہائی یا چوتھائی وغیرہ پر منعقد ہو۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عقد باطل ہے۔ اس لیے کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں محافلہ کیا کرتے تھے، زمین کو ثلث اور ربع پیداوار اور متعین اناج پر کرایہ پر دیتے تھے، ایک روز ہمارے چچا کے رشتہ داروں میں کا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کام سے منع فرمایا جس سے ہمارا فائدہ تھا لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں ہم کو زیادہ فائدہ ہے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محافلہ یعنی زمین کو ثلث یا ربع پیداوار اور متعین اناج پر کرایہ پر دینے سے منع فرمایا اور حکم دیا ہے کہ زمین کا مالک خود اس میں کھیتی باڑی کرے یا دوسرے کو کھیتی باڑی کے لیے دے دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایہ پر دینا یا اور کسی طریقہ پر دینا برا جانا ہے۔^۱

نیز حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم محافلہ کیا کرتے تھے یعنی زمین کو ثلث یا ربع پیداوار پر کرایہ پر دیتے تھے، پھر انہوں نے سابقہ روایت کی طرح بیان کیا۔^۲

نیز حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ تمام انصار میں

ہمارے ہاں محافلہ زیادہ تھا، ہم زمین کو کرایہ پر دیتے اور کہتے کہ یہاں کی پیداوار ہم لیں گے اور تم یہاں کی لینا، پھر کبھی یہاں تو پیداوار ہوتی اور وہاں نہ ہوتی تو رسول اللہ ﷺ نے ہمیں اس سے منع فرمایا لیکن چاندی کے بدلے کرایہ پر دینے سے منع نہیں فرمایا۔^۱

اور حنظلہ بن قیس کی روایت میں ہے کہ حضرت رافع ۹ نے فرمایا کہ سونے اور چاندی کے بدلے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ (ایضاً) نیز حضرت رافع بن خدیج ۹ سے مروی ہے کہ ظہیر بن رافع میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسے کام سے منع فرمایا جس میں ہمارا فائدہ تھا، میں نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ اور رسول اللہ ﷺ نے جو کچھ فرمایا وہ حق ہے، انہوں نے کہا کہ آپ ﷺ نے مجھ سے پوچھا کہ تم اپنے کھیتوں کا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! ان کو کرایہ پر چلاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ نہر پر جو پیداوار ہو اس کو لیتے ہیں یا چند وسق کھجور یا جو کے بدلے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، یا تو تم خود اس میں کھیتی باڑی کرو یا دوسروں کو (بلا کرایہ) کھیتی باڑی کے لیے دو یا اسے یوں ہی رہنے دو۔^۲

ان روایات سے معلوم ہوا کہ رسول کریم ﷺ نے مزارعت سے منع فرمایا، اس لیے کہ مزارعت بعض پیداوار کے بدلے زمین کو اجرت پر دینا ہے اور اجرت نامعلوم یا معدوم ہوتی ہے اور دونوں چیزیں مفسد عقد ہیں اور آنحضرت ﷺ کا اہل خیبر کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا وہ دراصل خراج مقاسمہ تھا جو کہ بطریق صلح و احسان کے تھا اور یہ جائز ہے۔

صاحبین فرماتے ہیں کہ مزارعت جائز ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ نے خیبر کے لوگوں سے کھجور اور کھیت کی پیداوار کے نصف پر معاملہ فرمایا تھا نیز لوگوں کو اس کی حاجت و ضرورت بھی ہے، اس لیے زمین کا مالک بسا اوقات بذات خود کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوتا اور کرایہ پر دینے کی کوئی چیز نہیں پاتا اور اسی طرح کام پر قدرت و طاقت رکھنے والا بسا اوقات اس کے پاس زمین نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی اور کام، اس لیے مزارعت کے جواز کی ضرورت ہے تاکہ حاجت و ضرورت پوری ہو جیسا کہ مضاربت کا معاملہ ہوتا ہے، فتویٰ بھی صاحبین کے قول پر ہے۔

صاحبین کے ہاں مزارعت کی چار صورتیں ہیں، تین جائز اور ایک ناجائز، جائز صورتیں یہ ہیں: (۱) زمین اور بیج ایک کا ہو اور بیل اور کام دوسرے کا ہو۔ (۲) زمین ایک کی ہو

اور باقی (بیج، بیل، عمل) دوسرے کا ہو (۳) عمل ایک کا ہو اور باقی دوسرے کا ہو، یہ تینوں صورتیں جائز ہیں۔ وقد نظمها فی الدر المختار

ارض و بذر کذا ارض کذا عمل..... من واحد ذی ثلثها کلها قبلت پہلی صورت میں زمین اور بیج کا مالک بعض پیداوار پر عامل کا مساجر ہے اور یہی اصل مزارعت ہے اور آلات حراشت استیجار میں داخل نہیں ہے، وہ جو عامل کے عمل کے تابع ہیں، جیسے کسی درزی کو اجرت پر رکھا جائے تاکہ وہ درزی کی مشین سے اس کے کپڑے سلایا کرے تو یہ جائز ہے اور دوسری صورت میں عامل پیداوار کے بعض متعین حصہ کے بدلہ زمین کو اجرت پر لینے والا ہے تو یہ ایسا ہی جائز ہے جس طرح زمین کو معلم و متعین مال پر اجرت پر لیا جائے۔

اور تیسری صورت میں زمین کا مالک بعض پیداوار پر عامل کا مستاجر ہے اور آلات مستاجر کے ہیں جو یہ جائز ہے کیونکہ وہ ایسا ہی جیسے کوئی درزی اجرت پر لیا جائے کہ وہ کپڑے والے کی مشین سے اس کا کپڑا سلانی کرے۔

(۴) زمین اور بیل ایک کا ہو اور بیج اور عمل دوسرے کا ہو، یہ صورت باطل ہے کیونکہ اس میں آلہ حرث (بیل) کو بعض پیداوار کے عوض اجرت پر لینا لازم آتا ہے جو کہ جائز نہیں ہے کیونکہ وہ عمل کے تابع نہ ہوگی۔

نیز اگر بیج اور بیل ایک کا ہو اور زمین اور عمل دوسرے کا ہو یا صرف بیل ایک کا ہو اور باقی دوسرے کا یا صرف بیج ایک کا ہو اور باقی دوسرے کا تو یہ تینوں صورتیں بھی فاسد ہیں۔ وقد نظمها فی الدر المختار

والبذر مع بقر اولا کذا بقر..... لا غیر او مع ارض اربع بطلت

صحت مزارعت کی شرائط

صاحبین کے نزدیک صحت مزارعت کے لیے چند شرطیں ہیں۔ (۱) زمین کا قابل کاشت ہونا، شور اور ریگستان میں مزارعت صحیح نہیں ہے کیونکہ اس سے مزارعت کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ (۲) مزارعت کی ایسی مدت بیان کرنا جو کاشتکاروں میں معروف ہوتا کہ اختلاف نہ ہو مثلاً ایک سال یا دو سال (۳) زمین کے مالک اور مزارع کا اہل عقد میں سے ہونا (۴) صاحب تخم کا مذکور ہونا، اس لیے کہ اگر بیج مالک کی طرف سے ہو تو عامل مزدور ٹھہرے گا اور اگر عامل کی طرف سے ہو تو زمین کرایہ پر ٹھہرے گی اور دونوں کے احکام مختلف ہیں تو بلاذکر صاحب

تخم معقود علیہ مجہول ہوگا۔ (۵) جس کی طرف سے بیج نہیں ہے اس کا حصہ بیان کرنا کیونکہ حصہ عمل یا زمین کی اجرت ہے تو اس کا معین ہونا ضروری ہے۔ (۶) زمین کے مالک اور عامل کے درمیان تخلیہ کا ہونا (یعنی مالک ارض کا درمیان میں نہ آنا) حتیٰ کہ اگر مالک ارض کے عمل کو شرط ٹھہرایا گیا تو عقد فاسد ہوگا۔ (۷) پیداوار میں بلا تعین مقدار دونوں کا شریک ہونا اگر کسی ایک کے لیے کچھ پیانا غلہ کی شرط ہو تو مزارعت باطل ہوگی کیونکہ ممکن ہے کہ غلہ اتنی ہی مقدار میں پیدا ہو، اس سے زیادہ نہ ہو اور پھر ان میں جھگڑا پڑے، اسی طرح پانی کی نالیوں اور گولوں کے قریب اگنے والی کھیتی اگر کسی ایک کے لیے مشروط ہو تو مزارعت جائز نہ ہوگی کیونکہ ممکن ہے کہ اس جگہ کے سوا اور جگہ غلہ پیدا نہ ہو۔

لیکن اگر بیج کا مالک اپنے لیے یا دوسرے کے لیے پیداوار کا عشر مشروط کرے اور باقی پیداوار دونوں کے درمیان مشترک ہو تو یہ معین مشترک ہوگا جو کہ قطع شرکت کا موجب نہیں ہے۔ اگر ایک کے لیے بھوسا (جانوروں کا چارہ) اور دوسرے کے لیے غلہ مشروط ہو تو یہ مزارعت فاسد ہوگی کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی آفت آن پڑے اور بھوسے کے سوا کچھ بھی نہ رہے۔ اگر دونوں نے شرط لگائی کہ بھوسا نصف نصف ہوگا اور دانے ان دونوں میں سے خاص طور ایک کے لیے ہوں گے تو یہ مزارعت بھی فاسد ہے کیونکہ یہ قطع شرکت کا موجب ہے۔ اگر دونوں نے شرط رکھی کہ دانے نصف نصف ہوں گے اور بھوسے کا ذکر نہیں ہوا تو مزارعت درست ہوگی کیونکہ دونوں نے مقصود یعنی دانوں میں شرکت کی شرط لگائی ہے اور بھوسا بیج والے کا ہوگا کیونکہ یہ اس کے بیج کا نمبو ہے۔

اگر دونوں نے شرط رکھی کہ دانے نصف نصف ہوں گے اور بھوسا بیج والے کا ہوگا تو یہ بھی درست ہے کیونکہ یہ عقد کا حکم ہے۔ اگر دونوں نے بھوسے کو دوسرے کے لیے مشروط کیا تو مزارعت فاسد ہوگی کیونکہ یہ ایسی شرط ہے جو قطع شرکت کا موجب ہے، بسا اوقات بھوسے کے سوا کچھ پیدا نہیں ہوتا تو دوسرا یعنی بیج والے کے علاوہ کوئی دوسرا مشروط طور پر اس بھوسے کا مستحق ہو جائے گا۔

جب مزارعت صحیح ہو تو پیداوار ان شرائط کے مطابق ہوگی جو دونوں میں طے ہوئیں اور وہ ایسی شرائط ہوں جو قطع شرکت کا تقاضا نہ کرتی ہوں اگر پیداوار کچھ بھی نہ ہوئی تو مزارعت صحیح میں عادل کے لیے کچھ نہ ہوگا کیونکہ شرکت تو پیداوار میں تھی اور پیداوار ہوئی نہیں اور اس صورت میں وہ اس مضارب جیسا ہوگا جسے کوئی نفع نہ ہوا ہو اگر مزارعت فاسد ہو اور زمین کچھ پیدا نہ

کرے یعنی پیداوار نہ ہو تو جس کی طرف سے بیج تھا اس پر اجر مثل واجب ہوگا پس اگر بیج عامل کی طرف سے تھا تو وہ زمین کو اجرت پر لینے والا ہوگا اور اگر بیج مالک ارض کی طرف سے ہو تو وہ عامل کو اجرت پر لینے والا ہوگا جب مزارعت فاسد ہوگی تو اجر مثل واجب ہوگا کیونکہ اس نے عقد فاسد سے منفعت کو پورا پورا حاصل کیا ہے اور مزارعت فاسدہ میں زمین کی پیداوار بیج والے کی ہوگی کیونکہ یہ سب کچھ اسی کی ملک کی نمونہ ہے۔ پس اگر بیج زمیندار کی طرف سے ہو تو عامل کے لیے اجر مثل ہوگا، اس لیے کہ زمیندار نے عقد فاسد سے اپنی منفعت کو پورا پورا وصول کیا ہے بشرطیکہ مشروط پیداوار کی مقدار سے زیادہ اجرت عامل کے لیے نہ ہو کیونکہ وہ خود زیادہ اجرت کے سقوط پر راضی ہے اور یہ شیخین کے ہاں ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ اسے ہی اجرت ملے گی جو اس کام میں اوروں کو ملتی ہے، خواہ کہیں تک پہنچ جائے۔ اس لیے کہ زمیندار نے عقد فاسد سے اپنے منافع پورے پورے وصول کر لیے ہیں لہذا اس پر منافع کی قیمت واجب ہوگی۔ اس لیے کہ اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ فتویٰ شیخین کے قول پر ہے۔

اگر بیج کام کرنے والے کی طرف سے تھا تو زمین دار کو اس زمین کا اجر مثل ملے گا، اس لیے کہ عامل نے عقد فاسد سے اس کی زمین سے پوری پوری منفعت حاصل کر لی ہے لہذا اس کا واپس کرنا اس پر واجب ہوگا اور وہ ممکن نہیں ہے اور اس کا کوئی مثل نہیں۔ لہذا اس کی قیمت لوٹانا واجب ہوگا۔

کیا مشروط پیداوار سے زیادہ دیا جاسکتا ہے، اس میں اختلاف ہے، اگر زمین دار زمین اور بیل کو اور دوسرا بیج اور کام کو جمع کرے تو مزارعت فاسد ہوگی جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ پس عامل پر اس زمین جیسی اجرت ہوگی اور آلہ حراشت بھی۔ یہی صحیح ہے کیونکہ اجارہ میں اس کا دخل ہے اور یہ بھی ایک معنی میں اجارہ ہے۔

اگر زمین دار مزارعت فاسدہ اپنے بیج کی وجہ سے پیداوار کا مستحق قرار پائے تو ساری پیداوار اس کے لیے جائز ہوگی کیونکہ نمونہ ایسی زمین میں ہوئی ہے جس کا وہ مالک ہے اور اگر عامل اس کا مستحق ہو بایں طور کہ بیج اس کا ہو تو وہ اپنے بیج اور زمین کی اجرت کے بقدر لے گا اور جو زائد ہو اسے صدقہ خیرات کر دے کیونکہ اس کے بیج سے ہی یہ حاصل ہوا ہے لیکن ایسی زمین میں جو دوسرے کی مملو کہ ہے اور ایسے فاسد عقد کے ساتھ جو خبث کا موجب ہے، پس اپنے مال کے عوض تو اس کے لیے جائز ہے اور زائد کو صدقہ کر دے گا۔ جب مزارعت کا معاملہ سابقہ شرائط کے ساتھ طے ہو جائے، پھر بیج والا کام سے انکار کر دے تو اس پر حاکم جبر نہیں کرے گا اور اس پر

کاشتکاری کا کام لازم نہ ہوگا اور یہ بات قضاء ہے۔ البتہ دیانتاً اس پر لازم ہے کہ وہ اسے راضی کرے کیونکہ اس نے اس کو دھوکہ دیا ہے، پس مزارعت بیع والے کے حق میں لازم نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے اپنا مال یعنی بیع کو تلف کیے بغیر عقد کا ایفاء ممکن نہیں ہے جبکہ دوسرے کے حق میں یہ لازم ہے۔ پس جب وہ شخص جس کی طرف سے بیع نہیں ہے انکار کر دے تو حاکم اسے کام پر مجبور کرے گا کیونکہ عقد کو پورا کرنے میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اور عقد، اجارہ کی طرح لازم ہے الا یہ کہ کوئی عذر درپیش ہو تو اس کی وجہ سے اجارہ فسخ ہو جاتا ہے لہذا مزارعت اس وجہ سے فسخ ہو جائے گی جب متعاقدین میں سے کوئی ایک مر جائے تو مزارعت باطل ہو جائے گی جیسا کہ اجارہ کا حکم ہے جبکہ مزارعت سے پہلے کوئی مر جائے، حتیٰ کہ اگر عامل نے زمین کو کاشت کیا تو کام کے عوض اس کو کچھ نہ ملے گا اگر بیع بونے کے بعد مر جائے تو اگر زمین دار مر گیا ہو تو کھیت کٹنے تک وہ زمین عامل کے ہاتھ میں رہنے دیں گے اور شرائط کے مطابق تقسیم ہوگی تاکہ دونوں کے حق کی رعایت ہو اور باقی سالوں کیلئے مزارعت کا عقد ختم ہو جائے گا جبکہ سال سے زیادہ کا عقد کیا گیا ہو اور اس میں عامل کا کوئی نقصان نہیں ہے۔

اگر مزارعت کی مدت گزر جائے اور کھیتی ابھی نہ پکی ہو تو کاشتکار کو اس زمین کا وہ کرایہ دینا ہوگا جو اس جیسی زمین کا کھیتی کٹنے تک ہوا کرتا ہے اور کھیتی کا صرفہ ان دونوں پر ہوگا اپنے اپنے حصوں کے مطابق کیونکہ عقد کو باقی رکھنے میں دونوں کے حق کا ایفاء ہے اور اسے فسخ کرنے میں ان میں سے ایک کو ضرر لاحق ہوتا ہے لہذا کھیتی کے کٹنے تک اس عقد کو باقی رکھنا بہتر ہوگا اور کام ان دونوں پر لازم ہوگا۔ اس لیے کہ عقد کا وقت تو انتہائے مدت سے پورا ہو چکا ہے اور یہ مشترکہ مال میں عمل ہے، پس اس میں صرف عامل پر کام کا وجوب نہ ہوگا۔ بخلاف اس صورت کے کہ جب زمین کا مالک مر جائے اور کھیت ابھی پکا نہ ہو تو اس صورت میں صرف عامل کے ذمہ کام ہوگا کیونکہ مدت باقی ہونے کی وجہ سے عقد ابھی باقی ہے۔

کھیتی کاٹنے، گاہنے اور غلہ صاف کرنے کی اجرت دونوں پر حصوں کے مطابق ہوگی کیونکہ معاملہ کھیت کے مقصود یعنی غلہ کے حاصل ہونے کی وجہ سے پورا ہو چکا ہے، پس دونوں کے درمیان بغیر عقد کے مال مشترک باقی رہا، پس اس کا صرفہ ان ہی پر ہوگا۔ اگر ان میں سے کسی ایک نے دوسرے کی اجازت کے بغیر صرفہ کر دیا، قاضی نے بھی اس کا حکم نہیں دیا تھا تو وہ متبرع (احسان کرنے والا) ہوگا اگر دونوں نے عقد مزارعت میں کھیتی کاٹنے کی اجرت وغیرہ کاشتکار کے ذمہ ہونے کی شرط کر لی تو مزارعت فاسد ہو جائے گی کیونکہ یہ ایسی شرط ہے کہ اس کا

عقد تقاضا نہیں کرتا ہے۔ اور اس میں متعاقدین میں سے کسی ایک کا نفع ہے اور یہ قیاس ہے مگر یہ کہ امام ابو یوسفؒ سے اس کا جواز مروی ہے۔ حضرت حسنؒ، امام صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ کھیتی کے صرفہ کی شرط کا شتکار کے ذمہ کر لی گئی تو تعادل کی بنا پر جائز ہے اور اس کو استصناع پر قیاس کیا گیا ہے۔ وعلیہ الفتویٰ

مساقات کا بیان

زیکعی، یعنی اور درر وغیرہ میں ہے کہ مساقات لغتاً ”سقی“ سے باب مفاعلت ہے بمعنی سینچنا اور سیراب کرنا۔ لیکن نہایہ وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لغوی اور شرعی معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پس مساقات اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنا باغ دوسرے کو اس لیے دے دے کہ وہ درختوں کی پرورش، ان کی اصلاح اور دیکھ بھال کرے اور جو پھل آئے وہ ان میں نصف یا ثلث یا ربع یا کم و بیش مشترک ہو۔ مزارعت کی طرح مساقات بھی امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک باطل ہے اور صاحبینؒ کے نزدیک جائز ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔

صاحبینؒ کے نزدیک اس کا جواز اس شرط سے مشروط ہے کہ معین مدت ذکر کر دی گئی ہو اور بطریق مشاع پھل کا حصہ معین کر دیا گیا ہو، اس میں مدت کی تعیین کی شرط قیاس کے مطابق ہے، اس لیے کہ مساقات بھی ایک لحاظ سے اجارہ ہے اور استحسان کا تقاضا یہ ہے کہ مدت بیان نہ بھی ہو تو جائز ہونا چاہیے اور یہ عقد پہلی بار پیدا ہونے والے پھل پر ہوگا کیونکہ پھل کو پکنے کیلئے ایک وقت معین تو درکار ہوتا ہے اور پھلوں کا تفاوت بہت کم ہوتا ہے لہذا پھلوں میں بیان مدت کی شرط نہ ہوگی جیسے مزارعت میں ہے۔ اس لیے کہ اس کی ابتداء اور انتہاء بھی موسم خریف، صیف اور ربیع کے اعتبار سے اکثر مختلف ہوتی ہے، پس اس میں جہالت آئے گی لیکن اگر کسی کو درخت دیئے اور اس کو ابھی پھل نہیں لگے تو بیان مدت کے بغیر یہ عقد جائز نہ ہوگا کیونکہ زمینوں کی قوت اور ضعف کی وجہ سے اس میں کھلا تفاوت ہے اور اگر کھجور کے درخت یا رطبہ کی جڑیں اس لیے دیئے کہ وہ اس کی نگہداشت کرے یا اس نے رطبہ کو مطلق چھوڑا تو مساقات فاسد ہوگی کیونکہ اس کی انتہائی مدت نامعلوم ہے، اس لیے کہ جب تک اسے زمین میں چھوڑا جائے اس میں بڑھوتری آتی رہتی ہے، اس مدت میں جہالت ہوئی اور بطریق مشاع پھل کا حصہ اس لیے متعین ہو کہ اس سے شرکت کا تحقق ہوگا کیونکہ معین جزء کی شرط رکھنا شرکت کو ختم کر دیتا ہے۔

اگر متعاقدین نے مساقات میں ایک وقت معین کر دیا جس وقت کے بارے میں اسے معلوم ہے کہ پھل اتنے وقت میں نہیں نکلے گا تو معاملہ فاسد ہو جائے گا کیونکہ مقصود فوت ہے اور وہ پیداوار میں شرکت ہے۔

اگر دونوں نے اتنی مدت کی تعیین کی جس میں کبھی پھل آجاتا ہے اور کبھی مؤخر بھی ہو جاتا ہے تو جائز ہے کیونکہ ہم ایسی صورت میں مقصود کے فوت ہونے کا یقین نہیں کر سکتے۔ پھر اگر وقت معین پر پھل آجائے تو صحت عقد کی وجہ سے وہ شرکت کے مطابق ہوگا اگر پھل کے نکلنے میں تاخیر ہوئی تو فساد عقد کی وجہ سے عامل کو اس جیسی اجرت ملے گی۔

مساقات، کھودنا درختوں، انگوروں، ترکاریوں اور بینکوں میں جائز ہے۔ پس اگر کھجور کا پھل دار درخت مساقات پر دیا اور پھل عمل سے بڑھنے والا ہے تو یہ جائز ہے یا کھیت دیا جو عمل سے بڑھنے والا ہے تو یہ جائز ہے کیونکہ اس میں عمل کی ضرورت ہے اور اگر پھل کا بڑھنا پورا ہو چکا ہو اور کھیتی کاٹنے کیلئے تیار ہو چکی ہو تو جائز نہیں ہے کیونکہ عامل اپنے عمل کی وجہ سے مستحق ہوتا ہے۔ اور جب پھل پک چکا، کھیتی تیار ہو چکی تو اس کے عمل کو کوئی دخل نہیں رہا۔ پس اگر پکنے کے بعد بھی مساقات کو جائز رکھا جائے تو عامل کا بلا تحمل مستحق ہونا لازم آئے۔ ولہم یرد بہ الشرع

جب مساقات فاسد ہو تو کارندہ کو اجر مثل ملے گی کیونکہ یہ ایک لحاظ سے اجارہ فاسدہ ہے اور مزارعت کی مثل ہوگا جب وہ فاسد ہو جائے پھر شیخین کے نزدیک تو اسے اجر مثل ملے گا جو طے شدہ شرط سے زائد نہ ہوگا اور امام محمد کے نزدیک اسے وہی اجرت ملے گی جو اس کام میں اوروں کو ملتی ہے خواہ کہیں تک پہنچ جائے۔

عقد مساقات کسی کے مرجانے سے باطل ہو جاتی ہے، مالک کے مرنے سے اس لیے باطل ہو جاتی ہے کہ کھجور کے درخت دوسرے کی طرف منتقل ہو گئے اور عامل کے مرنے سے اس لیے باطل ہو جاتی ہے کہ اس کی طرف سے اب عمل (کام) کا ہونا ناممکن ہو گیا ہے۔ پس اگر کھجوروں کا مالک مر گیا اور پھل نیم پختہ اور سبز ہیں تو عامل کے لیے جائز ہے کہ وہ پہلے کی طرح اس کی دیکھ بھال کرے یہاں تک کہ پھل پک جائیں اگرچہ اس کے ورثہ اس کو برا جائیں کیونکہ اس میں عامل پر سے دفع ضرر ہے اور ورثہ کو کوئی ضرر نہیں ہے۔

اور اگر عامل مر گیا تو اس کے ورثہ کے لیے جائز ہے کہ اس کی دیکھ بھال کریں، خواہ کھجوروں کا مالک اس کو برا جانے کیونکہ اس میں جانبین کا خیال اور رعایت ہے۔ اور اگر دونوں مرجائیں تو عامل کے ورثہ کو اختیار حاصل ہے کیونکہ وہ اب اس کے قائم

مقام ہیں پس اگر عامل اس کی دیکھ بھال سے انکار کریں تو کھجوروں کے مالک کے ورثہ کو اختیار ہوگا۔

اگر معاملہ کی مدت گزر جائے اور پھل ابھی نیم پختہ اور سبز ہوں تو عامل کے لیے جائز ہے کہ وہ پھل پکنے تک بلا اجرت اس کی دیکھ بھال کرے کیونکہ درختوں کو اجرت پر لینا جائز نہیں ہے مگر اس میں مزارعت کا حکم اس کے برخلاف ہے۔ اس لیے کہ زمین کو کرایہ پر لینا جائز ہے، اسی طرح اس مسئلہ میں عمل، عامل کے ذمہ ہے اور مزارعت میں ان دونوں پر عمل ہے۔

جن اعذار کی بنا پر اجارہ فسخ ہو جاتا ہے ان ہی اعذار کی وجہ سے مساقات اور مزارعت بھی فسخ ہو جاتی ہے، ان اعذار میں سے ایک عذر یہ ہے کہ عامل چور ہو، خوف ہو کہ کہیں وہ پکنے سے پہلے پھل وغیرہ نہ چرالے نیز اس میں زمین دار کا نقصان ہے۔

اس طرح عامل کا بیمار ہو جانا بھی ایک عذر ہے جبکہ وہ مرض ایسا ہو جو اسے کام کرنے سے عاجز کرتا ہو کیونکہ ایسا کرنے میں اس پر ضرر کی زیادتی لازم کرنا ہے جس کا اس نے التزام نہیں کیا، لہذا اسے عذر قرار دیا جائے گا۔ جس شخص نے کسی کو معین سالوں کے لیے کوری زمین دی کہ وہ اس میں درخت لگائے اس شرط پر کہ زمین اور درخت ان دونوں کے درمیان نصفاً نصف ہوں گے تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس نے شرکت کو شرکت سے پہلے حاصل ہونے والی چیز سے مشروط کیا۔ اس کے کام سے مشروط نہیں کیا ہے اور تمام پھل اور درخت زمین کے مالک کے ہوں گے اور درخت لگانے والے کو درخت لگانے کی قیمت اور اپنے کام پر اجرت مثل ملے گی۔

ماذون غلام کے احکام

اذن کا لغوی معنی ہوتا ہے، اجازت دینا اور اصطلاح شرع میں ممنوع التصرف شخص کو تصرف کی اجازت دینا اور اس پر لگی ہوئی پابندی کو ختم کرنا ہے۔ عبید ماذون اپنی اہلیت کے سبب اپنے لیے تصرف کر سکتا ہے کیونکہ اس کی اہلیت اذن کے بعد اپنی زبان اور عقل و تمیز کی وجہ سے باقی ہے اور اجازت دہندہ تجار کو اس کی خبر دے گا تا کہ وہ اس کے ساتھ معاملہ کریں اور اس کا فائدہ بچہ کو تصرفات کرنے، مال کمانے اور نفع حاصل کرنے کی طرف رہنمائی کرنا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ [النساء: ۶]** یعنی کسی طرح ان کو آزمائو، کوئی چیز ان کو دے کر دیکھو کہ وہ اس میں کس طرح تصرف کرتے ہیں۔ اور سرپرست باپ ہے اور باپ نہ ہو تو دادا ہے اور پھر وصی اور قاضی ہے۔

بچہ کے اذن کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتا ہو کہ بیع سے ملکیت سلب اور نفع حاصل ہوتا ہے۔

اور اذن صراحتہ اور دلالتاً دونوں طرح ثابت ہوتا ہے۔ صراحت کی مثال تو یہ ہے کہ اس طرح کہے کہ میں نے تجھے تجارت کی اجازت دی اور دلالتاً اذن کی صورت یہ ہے کہ اسے بیع و شراء کرتے دیکھے اور خاموشی اختیار کر لے کیونکہ لوگ جب اسے تصرفات کرتے دیکھتے ہیں اور اس کے سر پرست کو خاموش دیکھتے ہیں تو یہی سمجھتے ہیں کہ اس کا سر پرست اس پر راضی ہے ورنہ وہ ضرور اس کو منع کرتا، چنانچہ وہ اس کے ساتھ عبید ماذون والا معاملہ کرتے ہیں۔ پس اگر اس کی خاموشی اس کی رضامندی شمار نہ ہو تو اس سے انہیں ضرر پہنچ سکتا ہے لہذا ضروری ہوا کہ اس کی خاموشی کو دفع ضرر کی خاطر اس کی رضامندی قرار دیا جائے۔ خواہ اس کی بیع (معاملہ) سر پرست کے لیے ہو یا کسی اور کے لیے ہو اور اس کے حکم اور اجازت سے ہو یا نہ ہو، معاملہ صحیح ہو یا فاسد کیونکہ ان تصرفات کے موقع پر اس کا سکوت اس کی رضا و خوشی کی دلیل ہے۔

جب سر پرست نے بچہ کو تجارت کی عام اجازت دے دی تو تمام تجارتوں میں اس کا تصرف جائز ہوگا۔ اور اگر اس نے کسی خاص نوع کی تجارت کی اجازت دی مثلاً اس نے کہا کہ میں تجھے روٹی کی تجارت کی اجازت دیتا ہوں تو پھر بھی وہ ہر قسم کی تجارت کا مجاز ہوگا۔ اسی طرح اگر اس نے اس کو کسی خاص نوع کی تجارت سے منع کیا تو بھی یہی حکم ہے، اسی طرح اگر اس سے کہا کہ میں تجھے خشکی میں تجارت کی اجازت دیتا ہوں لیکن سمندر میں اجازت نہیں دیتا ہوں، پھر بھی یہی حکم ہے کیونکہ اذن، فک حجر اور اطلاق تصرف کا نام ہے اور انفکاک حجر کے بعد غلام اپنی اہلیت کے سبب سے تصرف کرتا ہے اذن و تصرف نہ کسی وقت کے ساتھ مقید ہوگا اور نہ کسی خاص قسم کی تجارت کے ساتھ مخصوص ہوگا جبکہ توکیل کا معاملہ ایسا نہیں ہے اور اسے اس کا وکیل بنانا درست نہیں ہے کیونکہ وہ مجہول ہے اور ماذون سے تو اذن تصرفات میں رجوع نہیں کر سکتا جبکہ وکیل سے رجوع کر سکتا ہے۔

ہاں اگر وہ کسی معین چیز کے بارے میں اجازت دے تو وہ ماذون نہ ہوگا کیونکہ یہ درحقیقت استخدام ہے نہ کہ اذن۔

ماذون کے جائز تصرفات

جب ماذون کے لیے تصرف جائز ہو تو اس کے لیے خریدنا، فروخت کرنا، رہن لینا،

رہن رکھنا وغیرہ تمام تصرفات جائز ہوں گے خواہ وہ کرایہ پر کچھ لے یا کرایہ پر دے۔ وکیل بنائے، مضاربت کرے، شرکت عنان کرے، بیع سلم کرے، مزارعت کرے، غلہ خریدے اور اس کو بوئے۔

اگر ماذون نے کسی قرض یا ودیعت یا غصب کردہ چیز کا اقرار کیا تو جائز ہے کیونکہ اقرار بھی تجارت کے توابع میں سے ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کے اقرار کو درست قرار نہ دیا جائے تو لوگ اس کے ساتھ معاملہ کرنے سے باز آجائیں گے اور یہ اس وقت ہے کہ جب اس کا تعلق تجارت سے ہو۔

ماذون کے ناجائز تصرفات

ماذون کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شادی کرے کیونکہ یہ تجارت میں شامل نہیں ہے اگر اس نے اس کے ساتھ دخول کر لیا تو مہر اس پر ہوگا۔ ماذون کے لیے جائز نہیں کہ وہ کوئی چیز ہبہ کرے خواہ بالعوض ہو یا بلا عوض اور اس کے لیے کوئی چیز صدقہ کرنا بھی جائز نہیں کیونکہ یہ سب چیزیں تبرع میں آتی ہیں۔ ہاں اگر وہ (ماذون) تھوڑا سا کھانا کسی کو تحفہ دے دے یا تھوڑا سا مال تحفہ دے دے یا اس کی مہمان داری کرے جو اس کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے تو جائز ہے کیونکہ یہ تاجروں کی عادت ہے۔ اسی طرح ماذون کے لیے جائز نہیں کہ وہ آقا (سرپرست) کی اجازت کے بغیر کسی کے مال کا کفیل بنے، اگر آقا نے اجازت دے دی تو جائز ہے جبکہ اس پر قرض نہ ہو لیکن اگر وہ مقروض ہو تو جائز نہیں ہے۔

صيد کے احکام

”صيد“ لغتاً مصدر ہے بمعنی شکار کرنا خواہ وہ ماکول ہو یا غیر ماکول اور مجازاً مفعول پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جسے خلق اور علم کا اطلاق مخلوق اور معلوم پر ہوتا ہے۔ صید ہر وہ متوحش جانور ہے جس کو حیلہ کے بغیر پکڑنا ممکن نہ ہو۔

سکھائے ہوئے کتے، چیتے اور باز اور شکرے اور دیگر سکھائے ہوؤں سے شکار کرنا جائز ہے، اس طرح شکار کی بندوقوں اور تیروں سے بھی شکار کرنا جائز ہے۔ خنزیر سے شکار کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ نجس العین ہے۔

شکار کے جواز پر دلیل یہ آیت قرآنی ہے۔

﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ۲]: ”جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کرو۔“

نیز ارشاد ہے:

﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ [المائدة: ۹۶]: ”تمہارے لیے دریا کا شکار حلال کیا گیا

ہے۔“

نیز ارشاد ہے:

﴿أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ﴾ [المائدة: ۴]:

”تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں اور جن زخمی کرنے والوں کو تم نے سکھایا ان کا شکار حلال

کیا گیا ہے۔“

نیز اس کے جواز کی دلیل آنحضرت ﷺ کا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو یہ فرمانا ہے کہ جب تم اپنا سکھایا ہوا کتا چھوڑو اور اللہ تعالیٰ کا نام لے لو تو وہ شکاری جانور جو شکار تمہارے لیے روکے اس کو کھاؤ، خواہ وہ مار ڈالیں۔^۱

نیز آنحضرت ﷺ نے ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”پس تم اپنی کمان کے ساتھ شکار کرو تو اللہ تعالیٰ کا نام لو، پھر کھاؤ“^۲

شکار کے حلال ہونے کی شرطیں

شکار کے حلال ہونے کی سات شرطیں ہیں ان میں سے چار شرطیں تو مرسل (چھوڑے ہوئے شکاری جانور) کے بارے میں ہیں۔ اور تین شرطیں مرسل (چھوڑنے والے) کے بارے میں ہیں۔ مرسل میں پائی جانے والی شرطیں یہ ہیں: (۱) شکاری جانور سکھایا ہو، کتے اور دوسرے درندوں کا معلم ہونا تو یہ ہے کہ وہ تین بار شکار پکڑ چکے اور اس کی کھال، گوشت، ہڈی کچھ نہ کھائے، اگر خون پی لے تو کچھ حرج نہیں اور باز وغیرہ کا معلم ہونا یہ ہے کہ جب اس کو بلایا جائے تو فوراً واپس آجائے، وجہ یہ ہے کہ کتے کی عادت پھاڑنا ہے اور باز وغیرہ کی عادت وحشت ہے، جب دونوں نے اپنی عادت چھوڑ دی تو ان کا معلم ہونا ثابت ہو گیا اور ان کے معلم کے بارے میں تجربہ کار لوگوں سے رجوع کیا جائے گا۔

حضرت حسن، امام ابو حنیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: شکاری جانور جو شکار پہلی بار اور دوسری بار کرے اس کو نہ کھاؤ اور تیسری بار کا کیا ہوا شکار کھاؤ۔ صاحبین فرماتے

ہیں کہ جب وہ تین بار شکار کو کھانا چھوڑ دے تو وہ معلم ہو جائے گا کیونکہ ایک بار چھوڑنے سے اس کا معلم ہونا ثابت نہ ہوگا کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ اس نے سیر ہونے یا مار کے خوف سے اس کو چھوڑ دیا ہو۔ اس لیے کئی بار دیکھ لینا ضروری ہے اور تین بار چھوڑ دینے کے بعد اس کے معلم ہونے کا حکم لگائیں گے۔ اگر شکاری جانور کے معلم ہونے کا حکم لگانے کے بعد اس نے کھالیا یا بات ماننی چھوڑ دی تو اس کے جاہل ہونے کا حکم لگا دیں گے اور اس سے پہلے اس کا بچا ہوا شکار حرام ہوگا کیونکہ اس کی جہالت سامنے آگئی۔ یہ امام صاحب کے ہاں ہے۔ صاحبین کہتے ہیں کہ صرف وہی حرام ہوگا جس شکار سے اس نے کھایا ہو کیونکہ ہم اس سے پہلے اجتہاد کے ذریعہ اس کے شکار کے حلال ہونے کا حکم لگا چکے ہیں لہذا اس طرح کے اجتہاد سے وہ نہیں ٹوٹے گا۔

(۲) شکاری جانور ہو، پس وہ (شکاری جانور) اپنی کچلیوں یا اپنے پنچے سے شکار کو پکڑے اور اس کے ذریعے اس کو روک رکھے کیونکہ آیت قرآنی میں ”الجوارح“ سے یہی مراد ہے یعنی وہ جانور جو زخمی کرتا ہے اس مقام پر اس کا زخمی کرنا ذبح اختیاری سے عاجز ہونے کی مجبوری کی وجہ سے ذبح اضطراری کے حکم میں ہوگا۔

(۳) اور یہ کہ وہ خنزیر کی طرح نجس العین نہ ہو۔

(۴) شکار کو زخمی کرے تاکہ جارح کا لفظ اس پر صادق آئے اور اس لیے بھی کہ خون کا بہانا ضروری ہے پس اگر اسے ٹکر مار کر یا گلا گھونٹ کر مار دیا ہو تو زخمی نہ ہونے کی وجہ سے اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔

مرسل میں پانی جانے والی شرطیں

(۱) مرسل مسلمان یا اہل کتاب میں سے ہو جو شکار چھوڑنے کا مفہوم سمجھتا ہو۔ (۲) چھوڑتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا، اس کی دلیل آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ فرمان ہے جب تم اپنے تعلیم یافتہ کتے چھوڑو اور اللہ تعالیٰ کا نام لے لو تو پھر کھا لو۔ [الحدیث] اور تسمیہ کی یہ شرط کھانے کے حلال ہونے کے لیے ہے لیکن اگر بھول کر تسمیہ چھوٹ جائے تو اس کا کھانا حلال ہوگا کیونکہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

﴿رفع عن امتی الخطاء والنسیان﴾: ”یعنی میری امت سے خطا و نسیان اٹھالی گئی ہے۔“

(۳) شکار ممنوع ہو، اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو، اس لیے کہ حضور اکرم ﷺ نے ایسے شکار کا کھانا ناپسند کیا ہے جو تیر انداز کی نگاہ سے غائب ہو جائے جیسا کہ ابوزین روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے اس شکار کے بارے میں جو اس کے صاحب کی نظروں سے پوشیدہ ہو جائے۔ یہ فرمایا

﴿لعل هوام الارض ہی قتلته﴾: ”یعنی ہو سکتا ہے کہ زمین کے جانوروں نے اسے مار ڈالا ہو۔“

نیز ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک سیاہ فام غلام آنحضرت ﷺ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس سے مسافر گزرتے ہیں اور میں اپنے آقا کے مویشی چرارہا ہوتا ہوں تو کیا میں ان کی اجازت کے بغیر ان بکریوں کا دودھ انہیں پلا سکتا ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”نہیں“ اس نے کہا کہ میں تیر چلاتا ہوں تو شکار کبھی میرے سامنے دم توڑ دیتا ہے اور کبھی زخمی ہو کر کہیں دور چلا جاتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو شکار تمہارے سامنے گر کر دم توڑ دے اسے کھاؤ اور جو زخمی ہو کر کہیں دور جا کر مرے اسے مت کھاؤ کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ تمہارے شکار کی وجہ سے مرا ہے یا کسی اور سبب سے مرا ہے۔

شکاری جانوروں کے ذریعہ شکار کرنا

جب کوئی شخص اپنا معلم کتابا یا باز شکار کے جانور پر چھوڑے اور چھوڑتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے، پھر وہ شکاری جانور اس شکار کو پکڑ کر زخمی کر دے، پھر وہ مر جائے تو اس کا کھانا حلال ہے۔ جیسا کہ حدیث عدی رضی اللہ عنہ سے معلوم ہوتا ہے، جسے ہم نے پہلے نقل کیا ہے۔ نیز اس لیے کہ کتابا یا باز ایک آلہ ہے اور محض آلہ سے مقصود حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ اسے استعمال نہ کیا جائے اور اس کی صورت یہ ہے کہ اسے شکار پر چھوڑا جائے، پس اسے تیر اندازی اور چھری چلانے کے قائم مقام کر دیا گیا اس لیے اس وقت تسمیہ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر بھول کر تسمیہ چھوڑ دے تو بھی حلال ہوگا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں لیکن اگر اس نے قصداً تسمیہ ترک کی تو شکار کا کھانا حرام ہوگا۔ نیز ذبح اضطراری کے پائے جانے کیلئے شکار کا زخمی ہونا ضروری ہے اور ذبح اضطراری یہ ہے کہ جسم کے کسی بھی حصہ میں زخم پایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان مبارک ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ [المائدہ: ۴] میں اسی زخمی کرنے کی شرط کی طرف اشارہ

ہے۔ امام ابو یوسفؒ سے مروی ہے کہ انہوں نے اسے شرط قرار نہیں دیا، اس کا جواب وہی ہے جو ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔

اگر شکاری جانور کا معلم ہونا ثابت ہو چکا ہو، اس کے بعد اگر وہ (کتا یا دوسرا کوئی درندہ) شکار کے جانور میں سے کچھ کھالے تو اس شکار کا کھانا جائز نہ ہوگا، اس لیے کہ یہ اس کی جہالت کی علامت ہے۔

اور اگر شکرہ اس میں سے کھالے تو اسے کھانا جائز ہے، اس لیے کہ شکاری پرندوں کے سکھانے میں کھانا چھوڑنا شرط نہیں ہے۔ ان کا سکھانا۔ بس یہ ہے کہ جب ان کو چھوڑا جائے تو وہ شکار کی طرف چلا جائے اور بلایا جائے تو واپس آجائے۔ البتہ درندوں کے سکھانے میں ان کا شکار کو نہ کھانا شرط ہے۔ جب مرسل (چھوڑنے والا) شکار کو زندہ حالت میں پائے تو اس پر واجب ہے کہ اسے ذبح کرے کیونکہ وہ ذبح اختیاری پر قادر ہے لہذا عدم ضرورت کی بنا پر ذبح اضطراری کافی نہ ہوگا۔ پس اگر اس نے ذبح نہ کیا یہاں تک کہ شکار مر گیا اور اس میں مذبوح کی حیات سے زائد حیات تھی بایں طریق کہ وہ کچھ عرصہ جیسے ایک دن یا آدھا دن زندہ رہتا تو اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس کو ذبح کرنے پر قادر تھا اور اس نے اسے ذبح نہیں کیا لہذا وہ مردار کی طرح ہو گیا لیکن اگر وہ وقت کی تنگی یا آلہ ذبح کے نہ پائے جانے کی بنا پر ذبح نہ کر سکا اور اس میں مذبوح کی حیات سے زیادہ حیات موجود تھی تو بطور استحسان اس کا کھانا حلال ہوگا۔ وھو ایچ یہاں پر یہ قید جو لگائی گئی ہے کہ اس میں مذبوح کی حیات سے زیادہ حیات ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مذبوح کی حیات کے مثل اس میں حیات پائے تو اس کا ذبح کرنا لازم نہ ہوگا کیونکہ وہ حکماً میت ہے اور یہ صاحبینؒ کا قول ہے۔ امام صاحب سے منقول ہے کہ اسے بھی کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ اس نے اس کو زندہ حالت میں پکڑا ہے لہذا ذبح اختیاری کے بغیر حلال نہ ہوگا۔ اگر اس کتے نے شکار کا گلا گھونٹ کر اس کو مار دیا اور زخمی نہ کیا تو اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔

اگر ایسا معلم کتا جسے بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا گیا تھا اس کے ساتھ کوئی غیر معلم کتا مل گیا یا معلم کتا ہی شریک ہوا لیکن چھوڑتے وقت اس (دوسرے) پر قصداً تسمیہ ترک کی گئی تھی تو اس کا کھانا جائز نہ ہوگا کیونکہ اس میں حرمت اور اباحت کی دونوں جہتیں جمع ہو گئی ہیں۔ پس احتیاطاً حرمت والی جہت کو ترجیح دی جائے گی اس کی دلیل حدیث عدی رضی اللہ عنہ ہے جس میں حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس ﷺ سے دریافت کیا تھا کہ اگر میں اپنے کتے کے ساتھ کوئی دوسرا

کتا پاؤں اور مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ ان دونوں میں سے کس نے شکار کو پکڑا ہے تو کیا کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿فَلَا تَأْكُلْ فَا نَمَا سَمِيَتْ عَلٰى كَلْبِكَ وَلَمْ تَسْمِ عَلٰى غَيْرِهِ﴾: ”یعنی اس صورت میں مت کھاؤ، کیونکہ تم نے اپنے کتے کو چھوڑتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا تھا دوسرے کتے کو چھوڑتے وقت نہیں لیا تھا۔“^۱

تیر اور بندوق سے شکار کرنا

جب کوئی شخص شکار کے جانور پر تیر چلائے اور تیر چلاتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہو (بسم اللہ پڑھو) تو تیر سے جو جانور زخمی ہو کر مر جائے اسے کھا سکتا ہے کیونکہ یہ تیر اندازی کے ساتھ ذبح کرنا ہے، اس لیے کہ تیر ذبح کا آلہ ہے، پس اس وقت تسمیہ شرط ہوگی اور اس قسم کے ذبح کے لیے سارا جسم محل ہے، زخم کرنا ضروری ہے تاکہ ذبح کا معنی پایا جائے، پس اگر اس نے شکار کو زندہ حالت میں پایا تو اسے ذبح کر دے اگر ذبح نہ کیا یہاں تک کہ وہ مر گیا تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔

اگر تیر شکار پر لگا اور شکار بھاگ کر نظروں سے غائب ہو گیا اور شکاری اس کی تلاش میں مسلسل لگا رہا یہاں تک کہ اس نے شکار کو مردہ حالت میں پایا اور اس پر اس کے تیر کے ہی نشان ہیں تو اسے کھا سکتا ہے کیونکہ وہ تفریط کرنے والا نہیں ہے اور اس نے اس کو ذبح اصطراحی کے ساتھ ذبح کر لیا ہے لیکن اگر اس نے شکار کی تلاش کو چھوڑ دیا، پھر اسے مردہ حالت میں پایا ہو تو اسے کھانا درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ احتمال ہے کہ اس کی موت کسی اور سبب سے ہوئی ہو۔ نیز آنحضور ﷺ نے فرمایا جب تم اپنا تیر پھینکو تو اللہ تعالیٰ کا نام لو، پس اگر تم اسے پاؤ کہ وہ دم توڑ چکا ہے تو اسے کھاؤ۔^۲

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں:

”اگر تم اپنا تیر چلاؤ تو اللہ تعالیٰ کا نام لو، پھر اگر وہ (شکار) ایک دن تک غائب

رہے اور اس میں تم اپنے تیر کا ہی نشان پاؤ تو چاہو تو کھا لو۔“^۳

اگر شکار پر تیر چلایا اور تیر پانی میں جاگرا، پھر شکار مر گیا تو نہ کھایا جائے، اس لئے کہ

احتمال ہے کہ وہ پانی میں غرق ہو کر مرا ہوا جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

”جب تم اپنا تیر چلاؤ تو اللہ تعالیٰ کا نام لو، پھر اگر اس کو پاؤ کہ وہ قتل ہو چکا ہے تو کھاؤ مگر یہ کہ تم اس کو پانی میں گرا ہوا پاؤ (پھر نہ کھاؤ) کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ پانی نے اسے مارا یا تیرے تیر نے اسے مارا۔“

جب کسی نے شکار پر تیر چلایا اور وہ کسی چھت یا پہاڑ پر جاگرا، پھر وہاں سے زمین پر گر کر ہلاک ہو گیا تو اسے نہ کھایا جائے اور اگر ابتداء میں ہی زمین پر گر پڑا تو کھا سکتے ہیں۔ پہلی صورت کی وجہ یہ ہے کہ اس بات کا احتمال ہے کہ اس کی موت چھت یا پہاڑ سے گرنے کے سبب ہوئی ہو اور اللہ تعالیٰ نے ایسے جانور (متردیہ) کو حرام قرار دیا ہے۔ اور دوسری صورت کی وجہ یہ ہے کہ زمین پر گرنے سے تو احتراز ممکن نہیں ہے۔ بندوق کے ذریعہ شکار کرنا ایسا ہی ہے جیسے تیر کے ذریعہ شکار کرنا، یعنی ان کا حکم یکساں ہے۔

معراض کے ذریعہ شکار کرنا

جس شکار کو معراض نے اپنے عرض کی جانب سے قتل کیا ہو وہ حرام ہے کیونکہ وہ بوجھ اور گرانی کی وجہ سے مرا ہے نہ کہ زخم اور دھاری دار چیز سے۔

معراض کہتے ہیں بلا پر کے تیر کو جس کے دونوں کنارے باریک ہوتے ہیں۔ یہ نشانہ پر عرض کی جانب سے لگتا ہے۔ اس میں زخمی کرنا ضروری ہے تا کہ ذبح کا معنی پایا جاسکے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور حدیث عدی میں ہے کہ حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں معراض کے ذریعہ شکار پر تیر چلاتا ہوں اور نشانہ پر لگتا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم معراض کے ذریعہ تیر اندازی کرو اور وہ اس کو چیر کر زخمی کر دے تو اسے کھاؤ اور اگر اس کی عرض کی جانب سے لگے تو نہ کھاؤ۔

پتھر اور غلیل سے شکار کرنا

پتھر، غلیل اور لاٹھی سے شکار حلال نہیں ہوتا کیونکہ یہ سب موقوفہ کے حکم میں ہے گو وہ زخمی ہو گیا ہو کیونکہ یہ چیزیں شکار کو چیرتی پھاڑتی نہیں بلکہ اس کے اعضاء کو توڑتی ہیں ہاں اگر اس کو تیر کی مانند دراز اور نوکدار کر کے مارا ہو اور زخمی ہو گیا ہو تو حلال ہے۔

اگر پتھر وغیرہ نے شکار کو زخمی کر دیا اور وہ شکار مر گیا تو اگر پتھر ثقیل تھا تو اسے نہ کھایا جائے، اس لیے کہ احتمال ہے کہ اس پتھر کے نقل سے وہ قتل ہوا ہو اور اگر پتھر خفیف (ہلکا) ہو اور

اس میں حدت (تیزی) ہو تو شکار کا کھانا حلال ہوگا کیونکہ اس کا یقین ہو چکا کہ وہ اس زخم سے مرا ہے۔ اس کی دلیل حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! اگر ہم سے کسی کے پاس چھری نہ ہو اور شکار ہاتھ لگ جائے تو کیا وہ پتھر یا لاشی کے ٹکڑے سے ذبح کر سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جس چیز سے چاہو خون بہادو اور اللہ تعالیٰ کا نام لو۔“

ان مسائل میں اصل یہ ہے کہ جب موت کی زخم کی طرف نسبت یقین کے ساتھ ہو تو شکار حلال ہوگا اور اگر موت کی نسبت ثقل (بوجھ) کی طرف یقین کے ساتھ ہو تو حرام ہوگا اور اگر اس میں شک واقع ہو تو احتیاطاً حرام ہو گیا۔

شکار کے دوران عضو کے کٹ جانے کا حکم

جب کسی نے شکار کے جانور پر تیر چلایا اور اس کا کوئی عضو کٹ گیا تو زخم پائے جانے کی وجہ سے اس شکار کا کھانا حلال ہوگا البتہ عضو مقطوع نہ کھایا جائے گا، اس لیے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”زندہ حالت میں جس جانور کا جو عضو کاٹا جائے وہ میتہ ہے۔“

اگر تیر نے اس کو تین ٹکڑے کر دیا اور اکثر حصہ وہ ہے جو ڈھڈی سے ملا ہوا ہے تو اس کا کھانا حلال ہوگا اور اگر اس کو دو ٹکڑے کر دیا تو کھایا جائے گا۔ اس لیے کہ اس کا جدا کردہ حصہ زندہ حالت میں نہیں ہے اور اس کی حیات کے باقی ہونے کا وہم نہ کیا جائے گا، پس اکثر کھایا جائے گا اور اقل نہ کھایا جائے گا۔

تیر اندازی میں دو آدمیوں کا شریک ہونا

کسی نے شکار کو تیر مارا اور اس نے اس کو نیم جان کر دیا، پھر دوسرے نے اس کے تیر مارا اور اس کو قتل کر دیا تو وہ کھایا نہ جائے گا کیونکہ اسے نیم جان کرنے سے اس کا ذبح اختیاری ثابت ہو گیا، پھر جب دوسرے نے زخمی کیا تو وہ مردار ہو گیا اور دوسرا شخص پہلے شخص کے لیے اس شکار کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ اس نقصان کے سوا جو اس کے زخم نے کیا ہے کیونکہ دوسرا شخص غیر کے مملوک شکار کو تلف کرنے والا ہے اور یہ اس وقت ہے کہ جب کہ وہ شکار ایسی حالت میں ہو کہ پہلی تیر اندازی سے جانبر ہو سکتا ہے تاکہ اس کی موت کی نسبت دوسری تیر اندازی کی طرف ہو سکے لیکن اگر اس کی حالت ایسی ہو کہ وہ پہلی تیر اندازی سے نہ بچ پایا ہو مثلاً اس سے اس کا سر

کٹ گیا ہو یا پیٹ ہی پھٹ گیا ہو تو حلال ہوگا کیونکہ دوسری تیر اندازی کا وجود کا عدم ہے۔ اور اگر کسی نے شکار کو تیر مارا اور وہ اس کے لگ گیا لیکن اس کو سست اور نیم جان نہیں کیا تھا کہ دوسرے نے تیر مار کر قتل کر دیا تو وہ شکار دوسرے کا ہوگا اور حلال ہوگا۔ حلال جانوروں کا شکار جائز ہے کیونکہ وہ گوشت اور دیگر اجزاء سے انتفاع کا سبب ہیں، اس طرح حرام جانوروں کا شکار بھی جائز ہے کیونکہ وہ بھی کھال، بال یا سینگ سے انتفاع یا شر سے بچاؤ کا سبب ہیں۔

ذباح کا بیان

ذباح، ذبیحہ کی جمع ہے اور ذبح بھی اس معنی میں ہے: ارشاد باری تعالیٰ ہے: **وَفَدَّيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ** [الصافات: ۱۰۷] ذبیحہ اور ذبح دونوں کا معنی مذبوح (ذبح کیا ہوا، قربانی کا جانور) ہے اور ذبح ذبح کرنے کو کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾** [المائدہ: ۳]: ”یعنی مگر جو تم ذبح کر لو۔“

ذبح کی دو قسمیں ہیں: ذبح اختیاری، ذبح اضطراری، ذبح اختیاری پر قدرت ہوتے ہوئے ذبح اضطراری جائز نہیں ہے، جب ذبح اختیاری سے عاجز ہو تو اس وقت ذبح اضطراری جائز ہوگی۔

(۱) ذبح اختیاری کی جگہ حلق اور لبہ (سینہ کے اوپر کی ہڈی) کا درمیانی حصہ ہے اور ذبح کرنے کا معنی یہ ہے کہ حلقوم کو نصیل کے پاس سے اس کے اندر سے کاٹنا اور نصیل وہ جوڑ ہے جو دو جبروں کے نیچے گردن اور سر کے درمیان ہوتا ہے، پس جب حلقوم اور اس کے پاس موجود رگیں کاٹ دی جائیں تو ذبح کا معنی ثابت ہوگا اور وہ سری کو ابتدا میں کاٹے گا اس کے سبب وہ سری، بلعوم اور ودجین کو کاٹے گا اور ودجان وہ دو شہ رگیں ہیں جو حلقوم اور سری کے دائیں اور بائیں جانب واقع ہیں جن میں خون کا دوران رہتا ہے۔ حدیث ابی امامہ میں ہے کہ ایک باندی اپنے آقا حضرت عقدیہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے حکم سے آنحضرت ﷺ کے پاس آئیں، اس نے ایک پتھر سے بکری کو ذبح کیا تھا اور آنحضرت ﷺ سے اس کے بارے دریافت کیا تو آپ ﷺ نے پوچھا کہ هل افریت الاوداج یعنی کیا تم نے اس کی رگیں کاٹ کر خون نکال دیا تھا؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو چیز بھی رگیں کاٹ دے اس کو کھالو۔

جب عقدہ کے اوپر سے کاٹ ڈالے تو وہ حلال ہوگا کیونکہ اس نے چار میں سے تین کو کاٹ دیا ہے اور اگر عقدہ کے نیچے سے کاٹا اور اس کو سر کے تابع کیا تو اس نے چاروں رگیں کاٹ دیں اور یہ زیادہ مکمل ہے۔

جو رگیں ذبح میں کاٹی جاتی ہیں وہ چار یہ ہیں: حلقوم، سری اور ودجان (دوشہ رگیں) اگر ذبح کرنے والا ان سب کو کاٹ دے تو کھانا حلال ہوگا اور اگر تین رگیں کاٹ دیں تب بھی یہی حکم ہے، ہر اس چیز سے ذبح کرنا جائز ہے جو چیز رگیں کاٹ دے اور خون کو نکال دے لیکن اپنی جگہ لگے ہوئے دانت اور ناخنوں سے ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ آخضور ﷺ کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کل ہمارا دشمن سے ٹکراؤ ہے، ہمارے پاس چھری نہیں ہے تو کیا ہم پتھر اور لاٹھی کے ٹکڑے سے ذبح کر سکتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو چیز خون کو نکال دے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو اسے کھاؤ، جبکہ وہ دانت اور ناخن نہ ہو اور میں تم سے اس کی وجہ بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ دانت تو ایک ہڈی ہے اور ناخن جشیوں کی چھری ہے۔“

آپ ﷺ نے دانت اور ناخن کو اس لیے مستثنیٰ کیا کہ جشی لوگ ان دونوں چیزوں سے جبکہ وہ اپنی جگہ لگے ہوئے ہوں۔ جانور ذبح کیا کرتے تھے نیز اس لیے کہ ان دونوں چیزوں سے جبکہ وہ اپنی جگہ لگے ہوئے ہوں، جانور کو ہلاک کرنا آدمی کی قوت سے ہی ممکن ہے، پس یہ منخفقہ کے مشابہ ہوا جو جانور مانوس ہوں ان کی ذکاۃ ذبح ہے کیونکہ وہ اس کو ذبح کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔

(۲) ذبح اضطراری یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پر زخم لگانا اور ذبح اضطراری اس وقت جائز ہے جب ذبح اختیاری سے عاجز ہو اور یہ شکار اور وحشی اونٹ کے مثل ہے لہذا اگر ایسے جانور کے تیر مارا اور اس تیر نے اس کو ہلاک کر دیا تو اس کا کھانا حلال ہوگا کیونکہ جب ذبح کرنا عجز کی بنا پر دشوار ہو تو اس وقت غیر بوح کو زخمی کرنا ہی ذبح کے قائم مقام ہوتا ہے۔

شہر یا جنگل میں بدک جانے والا اونٹ اور گائے شکار کی مانند ہے، جنگل کی بکری کا بھی یہی حکم ہے، اگر شہر میں بکری وحشی ہوگئی تو اس کو ذبح کیے بغیر کھانا حلال نہیں ہوگا کیونکہ اس کو پکڑنا ممکن ہے لیکن گائے اور اونٹ کا مسئلہ اس کے خلاف ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اونٹ اسے کاٹ لے اور گائے سینگ مار دے، پس اس میں عجز ثابت ہوگا جو جانور کنوئیں میں گر جائے اور

اس کو رگیں کاٹ کر ذبح کرنا ممکن نہ ہو تو وہ بھی شکار کی مثل ہے۔ اس لیے کہ پانی کے سبب اس کی ہلاکت کا وہم نہ کیا جائے گا۔

جو چوپائے وحشی ہوں ان کی ذکاۃ نیزہ مارنا اور زخمی کرنا ہے کیونکہ اس میں عجز کا تحقق ہو چکا ہے۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری کو دانتوں سے کاٹا تو لوگوں نے اس بکری کو پتھر سے ذبح کر دیا، پھر نبی کریم ﷺ نے اس کے کھانے کی اجازت دے دی۔

ذبح کے صحیح ہونے کی شرطیں

(۱) تسمیہ کہنا (۲) ذبح کرنے والے کا مسلمان یا اہل کتاب میں سے ہونا، تسمیہ کی دلیل یہ آیت ہے: فَادْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَّآفَ [الحج: ۳۶] اور تسمیہ بوقت ذبح شرط ہے۔ اس کی دلیل یہ آیت ہے: فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا [الحج: ۳۶] یعنی ذبح کے بعد جب جانور گر جائے۔

نیز آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اور جو تم اپنے معلم کتے کے ساتھ شکار کرو اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لو تو پھر اس کو کھاؤ۔^۱

نیز آنحضرت ﷺ نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

”جب تم اپنے معلم کتوں کو (شکار پر) چھوڑو اور اللہ تعالیٰ کا نام لے لو تو جو وہ تمہارے لیے (شکار) روک لیں اس میں سے کھاؤ۔“^۲

پس اگر عداً تسمیہ ترک کیا تو اس کا کھانا حلال نہ ہوگا، اس کی دلیل یہ فرمان ہے:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا كَمُرُ يَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الانعام: ۱۲۱]

”اور جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو مت کھاؤ وہ گناہ ہے۔“

اس بارے میں صدر اول سے کوئی اختلاف منقول نہیں ہے ہاں البتہ متروک التسمیہ

ناسیاً کے بارے میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عمرؓ کا مذہب یہ ہے کہ وہ حرام ہے اور حضرت علیؓ اور حضرت ابن عباسؓ سے اس کی حلت منقول ہے۔

بنابریں امام ابو یوسف اور دیگر مشائخ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ متروک التسمیہ عامداً کے

بارے میں تو کسی اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر قاضی بھی اس کی بیع کے جواز کا فیصلہ دے دے

۱ [صحیح البخاری ۱۱۸۷] ۲ [صحیح البخاری ۱۱۸۶]

تو وہ نافذ العمل نہ ہوگا کیونکہ یہ اجماع کے خلاف ہے، اس لیے کہ وہ مردار ہے کہ اس پر عمدۃ اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ البتہ ہمارے ہاں تارک التسمیہ ناسیاً کا ذبیحہ حلال ہے کیونکہ اس کو حرام قرار دینے میں حرج عظیم لازم آتا ہے کیونکہ ایسا کوئی انسان بہت ہی کم ہوگا جو نہ بھولتا ہو، پس اس کا اعتبار کرنے میں حرج لازم آئے گا اور حرج والی چیز کو دور کیا جائے گا۔

نیز بھولنے والا مرفوع القلم ہے جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ﴿رفع عن امتی الخطاء والنسان وما استکرھوا علیہ﴾: ”یعنی میری امت سے خطا و نسیان (بھول چوک) اور وہ کام اٹھالیا گیا ہے جس کام پر ان کو مجبور کیا گیا ہو۔“^۱

معلوم ہوا کہ بھولنے والے نے ذبح کرتے وقت کوئی فرض ترک نہیں کیا جبکہ عمداً تسمیہ ترک کرنے والے کا مسئلہ اس کے خلاف ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک قوم نے حضور نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ کیا اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں تو ہم کیا کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ﴿سموا علیہ انتم وکلوه﴾: ”یعنی تم اس پر بسم اللہ پڑھو اور اسے کھا لو۔“^۲

ذبح اختیاری میں ذبح کرتے وقت تسمیہ علی المذبوح شرط ہے، پس اگر کسی نے بکری کو زمین پر لٹایا اور اس پر بسم اللہ پڑھی، پھر اسے کوئی اور کام پیش آ گیا اور اس نے اس کو ذبح نہ کیا، پھر کسی اور بکری کو اسی تسمیہ کے ساتھ ذبح کر دیا تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے اور اگر بکری کو نیچے لٹایا اور تسمیہ پڑھی، پھر ایک چھری سے زخمی کیا اور دوسری چھری سے ذبح کیا تو اس کا کھانا حلال ہوگا کیونکہ یہ تسمیہ، مذبوح پر ہوئی ہے۔ اور شکار میں تسمیہ شکاری جانور چھوڑتے وقت اور تیر چلاتے وقت شرط ہے، پس اگر کسی نے شکار کے تیر مارا اور اس نے تسمیہ بھی کہی اور وہ تیر کسی اور کو لگا تو وہ شکار حلال ہوگا اور اگر ایک تیر کو مارتے وقت تسمیہ کہی پھر کوئی اور تیر شکار پر چلایا تو اس کو نہ کھایا جائے گا۔ اگر اپنے معلم کتے کو چھوڑتے وقت تسمیہ کہی، پھر کوئی دوسرا کتا چھوڑ دیا، پس وہ شکار کو لے آیا تو اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا کیونکہ شکار میں تسمیہ آلہ رمی پر شرط ہے۔ پس اگر ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کا کھانا حلال نہ ہوگا مثلاً یوں کہے کہ اللھم اغفر لی اے اللہ میری مغفرت فرما۔

اگر تسمیہ کے ارادے سے الحمد للہ کہا یا سبحان اللہ کہا تو حلال ہوگا اگر چھینکنے کے بعد

الحمد للہ کہا تو اصح روایت کے مطابق حلال نہ ہوگا۔

جانور ذبح کرتے وقت جو دعا زد عام ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے اور وہ دعا یہ ہے: ”بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اَكْبَرُ، اللّٰهُمَّ مِنْكَ وَالْيَكِ اللّٰهِ کے نام پر کسی اور کے نام کا عطف نہ کرے مثلاً یوں کہے کہ بِاسْمِ اللّٰهِ وَفُلَانِ یَا یوں کہے کہ بِسْمِ اللّٰهِ وَ مُحَمَّدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ کیونکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے: جرد و التسمیة یعنی تسمیہ کو غیر سے خالی کرو۔

دوسری شرط (ذبح کرنے والے کا مسلمان یا اہل کتاب میں سے ہونا) کی دلیل یہ آیت قرآنی ہے:

﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٰلٌ لَّكُمْ﴾ [المائدہ: ۵]: ”اور جن کو کتاب دی گئی ہے ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔“

ذبح کرنے والے شخص کا ذبیحہ اس وقت حلال ہوگا جب وہ تسمیہ اور ذبح کی حقیقت کو سمجھتا ہوں، خواہ وہ بچہ یا مجنوں یا عورت ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ تسمیہ اور ذبح کی حقیقت کو نہیں جانتا تو ذبیحہ حلال نہ ہوگا کیونکہ ذبیحہ پر تسمیہ کی شرط نص سے ثابت ہے اور ذبح پر قدرت ہونا بھی ایک مقصد ہے۔

پس اگر کتابی نے تسمیہ کہتے ہوئے یوں کہا باسم المسیح (مسیح کے نام سے) اور ذبح کر دیا اور مسلمان نے اس کو سنا تو اس کا کھانا درست نہیں ہے اور اگر اس نے باسم اللہ کہا اور اس (اللہ) سے مسیح علیہ السلام مراد لیتا ہے تو ظاہر پر بنا کرتے ہوئے اسے کھایا جائے گا۔

اگر کتابی نے بھول کر تسمیہ چھوڑ دی تو اس کا ذبیحہ بھولنے والے مسلمان پر قیاس کرتے ہوئے حلال ہوگا اور اگر کتابی نے عمدتاً تسمیہ چھوڑ دی تو وہ جانور مردار ہے اسے کھانا حلال نہیں ہوگا۔

کس کا ذبح حرام ہے؟

(۱) مجوسی کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، اس لئے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں جس نے جانور ذبح کیا اور بسم اللہ کہنا بھول گیا، پوچھا گیا تو فرمایا کہ اس کا ذبیحہ کھایا جائے اور مجوسی کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ ذبح کرے اور بسم اللہ کہنا بھول جائے تو فرمایا کہ نہ کھاؤ۔^۱

(۲) مرد کا ذبیحہ حلال نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی مذہب ہی نہیں۔ مسلمان اگر کفر یہ کلمہ کہے، دین و ملت کو گالی دے اور بازاری زبان استعمال کرے، حرام کو حلال جانے تو وہ بھی مرد ہو جاتا ہے، اکثر لوگ اس سے غافل ہیں۔

(۳) بت پرست اور غیر اللہ کے پوجنے والوں کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے۔

(۴) حج یا عمرہ کا محرم (احرام باندھنے والا) کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے یعنی جب وہ حرم کا کوئی جانور شکار کرے تو وہ مردار ہے اور حرم میں مطلق ذبح کرنے کے بارے میں حلال اور حرام یکساں ہے۔

ذبح کے متعلق مستحب امور

(۱) ذبح کرنے والے شخص کے لیے مستحب ہے کہ وہ جانور کو لٹانے سے پہلے اپنی چھری کو تیز کر لے، اس کی دلیل شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان (اچھے طریقہ سے انجام دینا) کو فرض کیا ہے، پس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقہ سے قتل کرو اور جب ذبح کرو تو اچھے طریقہ سے ذبح کرو اور اپنی چھری کو تیز کرو اور اپنے ذبیحہ کو راحت دو۔“^۱

نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے ذبح کے ارادہ سے بکری کو لٹایا اور اپنی چھری تیز کرنے لگا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم اس بکری کو کئی بار مارنا چاہتے ہو؟ تم نے اس کو لٹانے سے پہلے اپنی چھری کو تیز کیوں نہیں کر لیا۔“^۲

(۲) ذبح کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ اس کی چھری جب نخاع (گلے کی ہڈی کا گودا) تک پہنچے تو جانور کے ٹھنڈا ہونے سے قبل اس کا سر نہ کاٹے۔

پس اسے چاہیے کہ نخاع سے تجاوز نہ کرے اور اس کا سر نہ کاٹے کیونکہ اس میں بلا فائدہ جانور کو زیادہ تکلیف پہنچانا ہے اور یہ بات ممنوع ہے البتہ ذبیحہ حلال ہوگا کیونکہ فعل کی کراہت موجب تحریم نہیں ہوتی۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ جانور کو نخاع تک ذبح کیا جائے۔^۳

نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس بات سے منع

۱ [صحیح مسلم ۳/۱۵۴۸] ۲ [المستدرک ۴/۲۳۱] ۳ [سنن البیہقی ۹/۱۲۸۰]

فرمایا کہ دم نکلنے سے پہلے اس کی گردن توڑ دی جائے۔^۱

(۳) اونٹ میں نحر مستحب ہے یعنی لبہ (سینہ کے اوپر کی ہڈی) سے ذبح کرنا کیونکہ اس جگہ اس کی تمام رگیں موجود ہوتی ہیں۔ پس اگر ان کو گردن کے نیچے سے ذبح کیا گیا تو جائز ہے لیکن مخالفت سنت کی وجہ سے مکروہ ہوگا۔

بکری کو گدی کی طرف سے ذبح کرنا

اگر بکری کو گدی کی طرف سے ذبح کیا تو اگر وہ زندہ رہی اتنی دیر کہ اس نے رگیں کاٹ دیں تو جائز ہے کیونکہ اس کی موت ذبح سے ہوئی اور مکروہ ہے کیونکہ اس میں اس کو بلا ضرورت زدہ تکلیف دی گئی ہے اور اگر رگیں کاٹنے سے پہلے مر گئی تو نہیں کھائی جائے گی کیونکہ اس کی موت ذبح سے نہیں ہوئی۔

گائے، اونٹنی یا بکری وغیرہ ذبح کی گئی اور اس کے پیٹ میں مردہ بچہ پایا گیا تو اسے نہ کھایا جائے گا۔ اگرچہ اس کی خلقت پوری ہو چکی ہو۔ یہ امام ابوحنیفہ کے ہاں ہے اور ان کی دلیل یہ آیت ہے۔ حُرْمَتُ عَلَیْكُمْ الْمَیْتَةُ [المائدہ: ۳] میتہ کہتے ہیں اس جانور کو جو طبعی موت مر چکا ہو اور یہ معنی جنین میں موجود ہیں کیونکہ وہ اپنی ماں کے مرینکی وجہ سے نہیں مرا کیونکہ ماں کبھی مر بھی جاتی ہے اور اس کا بچہ اس کے پیٹ میں زندہ ہوتا ہے اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بچہ کی حیات کا اپنی ماں کی حیات سے کوئی تعلق نہیں ہے لہذا ماں کی ذکاۃ بچہ کی ذکاۃ شمار نہیں ہوگی اور وہ مستقل خون دار جانور ہے اور ذبح کا مقصد خون ہی زائل کرنا ہے۔ مقصد ماں کے ذبح ہو جانے سے حاصل نہیں ہوتا، رہی حدیث مبارک کہ ”ذکاۃ الجنین ذکاۃ امہ“^۲

سو وہ تشبیہ پر محمول ہے یعنی ذکاۃ جنین ذکاۃ ام کی مانند ہے وجہ یہ ہے کہ روایت میں لفظ ”ذکاۃ امہ“ مرفوع اور منصوب دونوں طرح مروی ہے۔

صاحبین اور ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی خلقت پوری ہو چکی ہو تو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا کھانا جائز ہے ورنہ نہیں کیونکہ حدیث میں ہے: ذکاۃ الجنین ذکاۃ امہ“^۳ یعنی جنین کی ذکاۃ اس کی ماں کی ذکاۃ ہے۔^۳

ماکول اور غیر ماکول جانوروں کے احکام

کچلیوں والے درندے جو دانتوں سے شکار کر کے کھاتے ہیں اور پنچہ گیر پرندے جو اپنے چنگل سے شکار کرتے ہیں، ان کا کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے کچلی دار درندوں اور پنچہ گیر پرندوں کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔^۱

کچلی دار درندے یہ ہیں: چیتا، بھیریا، لومڑی، ریچھ، ہاتھی، بندر، ہر قسم کی بلی، شیر، چوہا، نیولا وغیرہ۔

اور پنچہ گیر پرندے یہ ہیں: باز، شکرہ، شاہین، گدھ، چیل، عقاب۔

نیز رسول کریم ﷺ نے خطفہ، نہبہ اور مجثمہ کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔

خطفہ وہ پرندہ جو ہوا میں اچکتا ہو جیسے باز۔ اور نہبہ وہ جانور جو زمین پر کسی کو نشانہ بناتا ہو جیسے کتا، بھیریا۔ اور مجثمہ ہر وہ شکار جس کو نشانہ بنا کر مار دیا جائے۔

حنفیہ کے نزدیک بجو کھانا حرام ہے کیونکہ وہ کچلی دار جانور ہے اور رسول اللہ ﷺ نے ہر کچلی دار جانور کے شکار سے منع فرمایا ہے اگرچہ بجو کے شکار ہونے کے بارے میں صحیح حدیث وارد ہوئی ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے بجو کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا وہ شکار ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ، سائل نے پوچھا کہ کیا اس کو کھا سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، پھر پوچھا کہ کیا یہ بات رسول اللہ ﷺ نے فرمائی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔^۲

اسی طرح بجو کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اسے نہ کھایا جائے چنانچہ حضرت خزیمہ بن جزء کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے بجو کے کھانے کے متعلق دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”کیا کوئی بھلا آدمی بجو بھی کھاتا ہے۔“^۳

اب ان دونوں حدیثوں میں تعارض آیا اور قاعدہ ہے کہ اذا تعارضا تساقطا یعنی جب دو چیزیں باہم متعارض ہوں تو دونوں ساقط الحکم ہو جاتی ہیں۔ پس بجو کا ذی ناب (کچلی دار) ہونا باقی رہا اور رسول اللہ ﷺ نے ہر ذی ناب کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن یزید السعدی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب سے دریافت کیا کہ

۱ [صحیح مسلم ۳/۱۵۳۴] ۲ [سنن الترمذی ۳/۱۶۲] ۳ [ایضاً]

میری قوم کے کچھ لوگ بجو کھاتے ہیں! تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔
گھریلو گدھے اور خچروں اور گھوڑوں کا کھانا حلال نہیں ہے، اس کی دلیل یہ آیت ہے:

﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: ۸]

یہ آیت کریمہ احسانات جتانے کے ذیل میں لائی گئی ہے اگر ان کا کھانا جائز ہوتا تو اس (کھانے) کا ذکر ہوتا کیونکہ کھانے کی نعمت سواری کی نعمت سے عظیم تر ہے۔ یہ امام ابوحنیفہ کا مسلک ہے، اس کی دلیل خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے گھوڑوں اور خچروں اور گدھوں کے (گوشت) کھانے سے منع فرمایا۔^۱

امام صاحب کے یہاں گھوڑے کے کھانے کی کراہت، کراہت تحریمیہ ہے۔
صاحبین کہتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے، ان کی دلیل حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ نے ہمیں گھوڑوں کے گوشت کھلانے اور گدھوں کے گوشت (کے کھانے) سے منع فرمایا“^۲

امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک گوہ بھی حلال نہیں ہے ان کی دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا:

”رسول اللہ ﷺ کے دسترخواں پر گوہ کھائی گئی ہے، آپ ﷺ نے کراہت کی وجہ سے اس کو نہیں کھایا۔“

نیز گوہ سے طبیعت میں کراہت پیدا ہوتی ہے۔

”الاختیار“ کے مصنف نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ گوہ بطور ہدیہ کے بارگاہ نبوی ﷺ میں پیش کی گئی مگر آپ ﷺ نے کھانے سے اجتناب کیا، پھر ایک سائلہ آئی، حضرت عائشہ نے اسے کھلانا چاہا تو آپ ﷺ نے ان کو فرمایا کیا تم اسے وہ چیز کھلاتی ہو جو تم خود نہیں کھاتیں؟^۳

گدھ اور گدھ نما سفید و سیاہ دھبوں والا پرندہ، سیاہ کوا اور پہاڑی کوا، یہ سب حرام ہیں کیونکہ یہ سب مردار کھاتے ہیں لہذا خباثت میں داخل ہوں گے۔

تمام حشرات الارض کا کھانا جائز نہیں یعنی خواہ آبی ہوں یا بری جیسے مینڈک، کچھوا، چوہا، کیڑا چھپکلی، سیبہ وغیرہ محرم پران کے مار دینے میں کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔

۱ [سنن ابی داؤد ۳/۳۵۲] ۲ [سنن الترمذی ۳/۱۶۳] ۳ [الاختیار ۴/۱۵]

سیبہ کا کھانا اس لیے حرام ہے کہ عیسیٰ بن نمیلہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا تھا کہ ان سے کسی نے سیبہ (خاردار جانور) کے بارے میں دریافت کیا تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الانعام: ۱۴۵]: ”آپ فرمادیں کہ جو

احکام میری طرف وحی کیے گئے ہیں ان میں کوئی حرام چیز نہیں پاتا۔“

(راوی) کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے سامنے اس (سیبہ) کا ذکر

آیا تھا، آپ نے فرمایا: ”خبیثۃ من الخبائث“ یعنی ”یہ خباثت میں سے ایک خبیثہ ہے“ ابن

عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر واقعی رسول اللہ ﷺ نے یہ بات بیان فرمائی ہے تو ایسا ہی ہوگا۔^۱

چھپکلی اور چوہے کا کھانا اس لیے حرام ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حل و حرم میں اس

کے مار ڈالنے کا حکم دیا ہے اور کیڑا کی حرمت اس روایت سے ثابت ہے جس میں نبی علیہ الصلوٰۃ

السلام نے کیڑے کی بیج سے منع فرمایا۔^۲

مینڈک کی حرمت عبدالرحمن بن عثمان کی روایت سے ثابت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ

ایک طبیب نے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے دوا میں مینڈک کے استعمال کی بابت

دریافت کیا تو آپ ﷺ نے اس کو مینڈک کے مار ڈالنے سے منع فرمایا۔ [سنن البیہقی ۲۵۸/۹]

دریائی جانوروں میں مچھلی کے سوا اور کچھ نہ کھایا جائے یعنی مچھلی کے علاوہ اور کوئی

جانور حلال نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ آیت قرآنی ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ [الاعراف:

۱۵۷] اور مچھلی کے علاوہ دیگر جانوروں کو طبائع سلیمہ مکروہ جانتی ہیں اور ان سے گھن کھاتی ہیں۔

نیز اس لیے کہ دریائی جانور میتہ (مردار) ہے جس کی حرمت نص سے ثابت ہے اور مچھلی کی حلت

نص کی وجہ سے ہے۔ وہ یہ حدیث ہے کہ: يحل من الميتة اثنتان، ومن الدم اثنتان، فاما

الميتة فالسمك والجراد واما الدم فالكدو والطحال ”یعنی مردار میں سے دو چیزیں

حلال ہیں اور خون بھی دو طرح کا حلال ہے مردار تو مچھلی اور ٹڈی ہے اور خون کلجی اور تلی ہے۔“^۳

سمک طافی جو بلا آفت اپنی موت مر کر پانی کی سطح پر آگئی ہو اور اس کا پیٹ آسمان کی

طرف ہو، ہ حلال نہیں ہے اگر اس کی پشت آسمان کی طرف ہو تو وہ اس حکم میں شامل نہیں ہے،

اس کا کھانا حلال ہے، اس کی دلیل حضرت ابوالزبیر کی روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے

۱ سنن ابی داؤد ۳/۳۵۴ ۲ [نصب الرایۃ ۲/۲۰۱] ۳ [نصب الرایۃ ۲/۲۰۲]

تھے کہ جس کو دریا پھینک دے یا اس کا پانی خشک ہو جائے یا اس میں شکار کیا جائے وہ کھاؤ اور جو اس میں مر کر پانی کی سطح پر آجائے اسے مت کھاؤ۔

نیز مروی ہے کہ ”جس مچھلی کو دریا پھینک دے یا اس کا پانی خشک ہو جائے اسے کھاؤ اور جو پانی کی تپش یا ٹھنڈک سے مر جائے یا پانی میں کوئی چیز ڈالنے سے مر جائے اور اس کی موت کسی آفت سے ہے اسے کھایا جائے گا جیسا کہ اگر دریا اس کو پھینک دے تو کھانا حلال ہوتا ہے۔“

اس پر حدیث جابر رضی اللہ عنہ بھی دلیل ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حبشہ خبط میں شریک تھے اور ہمارے امیر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح تھے، ہمیں بہت شدید بھوک لگی، تھوڑی دیر کے بعد دریا نے ایک ایسی مردہ مچھلی پھینکی جس کے مثل دیکھا نہیں گیا تھا، اس کو عنبر کہا جاتا ہے، ہم نے اس مچھلی کو نصف ماہ تک کھایا۔ الحدیث۔

جو کو ادلتے چکنا ہو مردار نہ کھاتا ہو اس کو کھانے میں حرج نہیں ہے۔

خرگوش کا کھانا بھی جائز ہے کیونکہ خرگوش نہ تو درندوں میں سے ہے اور نہ ہی مردار خور جانوروں میں سے ہے، پس وہ ہرن کے مشابہ ہوا، اس کی حلت کی دلیل حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مر الظہران کے مقام پر ہمیں ایک خرگوش ملا، صحابہ اس کے پیچھے دوڑے، میں نے اس کو پکڑ لیا اور اسے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے آیا، انہوں نے اس کو تیز پتھر سے ذبح کیا، پھر مجھے اس خرگوش کی ران یا سرین کا حصہ دے کر آنحضرت ﷺ کے پاس بھیجا، آپ ﷺ نے اسے کھایا (راوی) کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا آنحضرت ﷺ نے اسے کھایا؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ ﷺ نے اسے قبول فرمایا۔

ٹڈی کو کھانا جائز ہے اور اس میں ذبح کی بھی ضرورت نہیں، اس کی دلیل آنحضرت علیہ السلام کا یہ فرمان ذی شان ہے۔ *یحل من المیتة اثنتان ومن الدم اثنتان فاما المیتة فانسمک والجراد* ”یعنی مردار میں سے دو چیزیں اور خون میں سے بھی دو چیزیں حلال ہیں، مردار میں سے تو ایک مچھلی ہے اور دوسری ٹڈی ہے۔“

اضحیہ کے احکام

اضحیہ ہمزہ کے ضمہ اور کسرہ کے ساتھ ہے، اس کی جمع اضاحی آتی ہے، اس کو ضحیہ بھی کہتے ہیں جس کی جمع ضحایا آتی ہے۔ نیز اس کو اضحیٰ بھی کہتے ہیں، ہمزہ کے فتح کے ساتھ اس کی جمع اضحیٰ ہے، عید الاضحیٰ کا لفظ اسی سے ماخوذ ہے۔ اضحیہ دراصل اس جانور کو کہتے ہیں جو وقت ضحیٰ (چاشت کے وقت) ذبح کیا جاتا ہے۔ پھر یہ لفظ اتنا زیادہ استعمال ہوا کہ اس جانور کا نام ہو گیا جو ایام ضحیٰ میں کسی بھی وقت ذبح کیا جائے۔ اصلاح شرع میں وہ مخصوص جانور ہے جو بہ نیت قربت خاص وقت میں ذبح کیا جائے اور چوپاؤں میں سے وہ جانور اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری وغیرہ ہیں۔ ”الواقعات“ میں ہے کہ دس روپے کا قربانی کا جانور خریدنا ہزار روپے صدقہ خیرات کرنے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے کیونکہ وہ قربت جو خون بہا کر حاصل ہوتی ہے اسے صدقہ خیرات سے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔

قربانی کا حکم

قربانی ہر مقیم مالدار مسلمان پر قربانی کے دنوں میں واجب ہے۔ یہ امام ابوحنیفہؒ، امام محمدؒ، حضرت حسنؒ، امام زفرؒ کے ہاں اور امام ابو یوسفؒ کی دو روایتوں میں سے ایک روایت کے مطابق ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”جس کے پاس مال ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عید گاہ میں ہرگز نہ آئے۔“^۱

اس حدیث مبارک میں قربانی نہ کرنے والے پر عید کا ذکر ہے اور عید ترک واجب پر ہی ہوتی ہے۔

امام ابو یوسفؒ اور امام شافعی رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ”جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔“^۲

اس حدیث میں ارادے کے ساتھ حکم کو معلق کیا گیا ہے اور ارادے کے ساتھ معلق کرنا وجوب کے منافی ہے۔ ظاہر الروایۃ میں یہ ہے کہ قربانی ہر آدمی پر اپنی طرف سے واجب ہے اور فتویٰ اس پر ہے۔ صدقہ فطر کا مسئلہ اس کے خلاف ہے کہ صدقہ فطر اس پر بھی واجب ہے اور

اس کی زیر عیال اولاد کی طرف سے بھی واجب ہے۔ امام ترمذی نے عطاء بن یسار کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہر آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر کے افراد کی طرف سے بکری کی قربانی کرتا تھا، پھر وہ خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے۔“^۱

امام صاحب سے حسن بن زیاد کی روایت یہ ہے کہ قربانی اپنی طرف سے بھی اور اپنی چھوٹی اولاد کی طرف سے بھی واجب ہے، پس چھوٹے بچوں میں سے ہر ایک کی طرف سے ایک بکری یا سات کی طرف سے اونٹ یا گائے ذبح کرے گا۔

اگر قربانی کے ارادے سے گائے خریدی، پھر اس کے ساتھ چھ اور افراد شریک ہو گئے اور ان لوگوں کا قربت کا ارادہ ہو تو جائز ہے اور اگر ان میں سے کسی کا بھی گوشت کھانے کا ارادہ ہو یا وہ نصرانی ہو تو جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ ہر ایک کا مقصد قربت و عبادت ہو اور خون ریزی میں تجزی ممکن نہیں کہ اس کا کچھ حصہ تو قربت ہو اور کچھ حصہ قربت نہ ہو لہذا جب اس کا کچھ حصہ قربت نہ رہا تو باقی حصہ بھی قربت سے خارج ہو جائے گا۔

گائے اور اونٹ میں شرکت کے جواز پر دلیل وہ روایت ہے جسے حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ”ہم لوگ حج کا احرام باندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں شریک ہو جائیں، ہم میں سے ہر سات آدمی بدنہ میں شریک ہوں۔“^۲

سات افراد سے کم ہوں تو بطریق اولیٰ جائز ہوگا البتہ سات سے زیادہ جائز نہیں

ہے۔

اگر چھوٹے بچہ کا مال ہو تو واضح یہ ہے کہ اس کے مال میں بالاجماع قربانی واجب نہیں ہے کیونکہ قربانی ایک قربت ہے، پس وہ اس کا مخاطب نہ ہوگا نیز اس کیلئے اراقت دم واجب ہے۔

فقیر اور مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، فقیر پر واجب نہ ہونے کی وجہ تو ظاہر ہے، مسافر پر اس لیے واجب نہیں ہے کہ قربانی کی ادائیگی ایسے اسباب کے ساتھ مخصوص ہے جو اسباب مسافر کے لیے بارگراں ہوں گے اور قربانی وقت کے گزرنے پر فوت ہو جاتی ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ”مسافر پر نہ جمعہ واجب ہے اور نہ ہی قربانی“^۳

۱ [سنن الترمذی ۳/۳۱] ۲ [صحیح مسلم ۲/۹۵۵] ۳ [نصب الرایۃ ۲۱۱]

قربانی کا وقت

قربانی کا وقت یوم نحر کی طلوع فجر سے شروع ہو جاتا ہے لیکن اہل شہر کے لیے قربانی کرنا (ذبح کرنا) جائز نہیں، جب تک کہ امام عید کی نماز نہ پڑھا دے البتہ گاؤں والے طلوع فجر کے بعد قربانی کر سکتے ہیں کیونکہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص ہماری جیسی نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے اور ہماری جیسی قربانی کرے تو وہ قربانی کا جانور ذبح نہ کرے جب تک کہ نماز (عید) نہ ادا کر لے۔“^۱

نیز آنحضور ﷺ نے فرمایا ”جو شخص نماز سے قبل قربانی کرے تو اس نے اپنے لیے اسے ذبح کر لیا ہے اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا تو اس کی قربانی مکمل ہوگئی اور اس نے مسلمانوں کے طریقہ کو پالیا۔“ (ایضاً) پھر اس بارے میں قربانی کی جگہ کا اعتبار کیا گیا ہے لہذا اگر قربانی کا جانور گاؤں میں تھا اور قربانی کرنے والا شہر میں ہے تو طلوع فجر کے بعد قربانی کرنا جائز ہے اگر اس کے برعکس ہو تو نماز عید کے بعد ہی جائز ہوگا۔

قربانی تین دن میں جائز ہے، ایک یوم نحر اور دو دن اس کے بعد کے ہیں، اس کی دلیل حضرت نافع کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قربانی یوم اضحیٰ کے بعد دو دن ہیں۔^۲

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ: ”قربانی، نحر کے بعد دو دن ہیں“^۳

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”قربانی یوم اضحیٰ کے بعد دو دن ہیں۔“^۴

سب سے افضل پہلا دن ہے، اگر قربانی نہیں کی یہاں تک کہ قربانی کے دن گزر گئے تو اگر اس نے اپنے اوپر واجب کی تھی یا فقیر تھا اور اس نے قربانی کا جانور خریدا تھا تو اسے زندہ ہی صدقہ کیا جائے گا اور اگر وہ مالدار ہے تو بکری کی قیمت صدقہ کرے گا خواہ اس نے خریدا ہو یا نہ خریدا ہو۔

۱ [صحیح مسلم ۳/۱۵۵۳] ۲ [الموطا ۱/۳۲۲] ۳ [سنن البیہقی ۹/۲۹۷] ۴ [ایضاً]

قربانی کے جانور کی صفات

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”رسول اللہ ﷺ نے سینگ دار سیاہ و سفید رنگ کے دو مینڈھے قربان کیے“^۱

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ نے سینگ والا طاقتور مینڈھا قربانی میں ذبح کیا۔“^۲

قربانی کے جانور کا ہر عیب سے سالم ہونا ضروری ہے لہذا ایسا جانور جو اندھا ہو اور اس کا اندھا پن ظاہر ہو یا لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو یا بیمار ہو اور اس کا بیمار پن ظاہر ہو یا لاغر اور دبلا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایسے جانور کی قربانی کافی نہ ہوگی جس کا کان یا دم ناقص ہو اور اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں جس کا اکثر کان یا دم کٹی ہوئی ہو۔ اگر اس کا اکثر کان یا دم باقی ہو تو جائز ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ”چار طرح کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، ایسا اندھا جس کا اندھا پن ظاہر ہو، ایسا بیمار کہ اس کی بیماری ظاہر ہو، ایسا لنگڑا کہ اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو اور ایسا دبلا کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔“^۳

نیز حضرت عتبہ بن عبدالمسلمیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مستأصلہ، بخقاء، مشیعہ اور کسراء اور مصفرہ (کی قربانی) سے منع فرمایا۔ مستأصلہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کا سینگ جڑ سے علیحدہ کیا گیا ہو۔ بخقاء اس جانور کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ اندھا ہو، بخق اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے اور آنکھ اپنی جگہ کھلی کی کھلی باقی رہ جائے۔ اور مشیعہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کو ہانکا جائے یہاں تک کہ وہ بھیڑ بکریوں کے ساتھ شامل ہو جائے اور وہ لاغر اور دبلا جانور ہے۔

نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایسے جانور کی قربانی کرنے سے منع فرمایا جس کا کان اور سینگ کٹا ہوا ہو۔^۴

حضرت سعید بن المسیب نے حدیث ہذا میں موجود لفظ ”غضباء“ کی تفسیر اس جانور سے کی ہے جس کا کان نصف اور اس سے زیادہ کٹا ہو، پس جب نصف کان موجود نہ ہوگا تو وہ اکثر شمار ہوگا۔ صاحبین کے قول کے مطابق ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے اور سینگ اگر ٹوٹا

۱ [صحیح مسلم ۳/۱۵۵۶] ۲ [سنن الترمذی ۳/۲۷]

۳ [سنن ابی داؤد ۳/۹۷] ۴ [سنن ابی داؤد ۳/۹۸]

ہوا ہو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایسے جانور کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا ”لا تفکرک“ یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔^۱

جس جانور کے کان پیدائشی طور پر ہی نہ ہوں اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔

ان عیوب سے متصف جانوروں کی قربانی اس وقت ناجائز ہے جب یہ عیوب خریداری کے وقت موجود ہوں لیکن اگر خریداری کے وقت وہ جانور ان عیوب سے پاک تھا پھر بعد میں کوئی مانع عیب اس میں آ گیا تو اگر مالدار ہے تو اس میں دوسری قربانی واجب ہوگی اور اگر فقیر ہو تو یہی کافی ہو جائے گی کیونکہ مالدار پر قربانی کا وجوب ابتداء ہی میں حکم شرع کی بنا پر ہوا ہے۔ خریدنے کی بنا پر نہیں ہوا لہذا اس کی قربانی متعین نہیں ہوگی اور فقیر پر اس کا وجوب بہ نیت قربانی اس کے خریدنے کی وجہ سے ہوا ہے لہذا اس کی قربانی متعین ہوگئی، پس جب قربانی کا جانور مر جائے تو فقیر سے تو وجوب ساقط ہو جائے گا لیکن مالدار سے ساقط نہ ہوگا۔

کن جانوروں کی قربانی جائز ہے؟

جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہوں اس کی قربانی جائز ہے اور خصی کی قربانی بھی جائز ہے۔ خصی اس جانور کو کہتے ہیں جس کے خصیتین نکال دیئے گئے ہوں۔ اس کی دلیل سیدہ عائشہ یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ قربانی کرتے تو ایسے مینڈھے منگواتے جو خوب موٹے موٹے ہوتے جس کے خصیتین نکالے گئے ہوتے اور وہ سیاہ و سفید رنگ کے سینگ دار ہوتے۔ ان میں سے ایک مینڈھا اپنی امت کی طرف سے کرتے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ ﷺ کی رسالت کی گواہی دیتے ہوں اور دوسرا مینڈھا محمد ﷺ اور آل محمد ﷺ کی طرف سے کرتے۔“^۲

دیوانہ جانور جو چارہ کھاتا ہو اس کی قربانی بھی جائز ہے کیونکہ وہ مقصود میں مخل نہیں ہے اگر چارہ نہ کھاتا ہو تو جائز نہیں ہے۔ خارش جانور اگر موٹا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے اور اگر دبلا اور لاغر ہو تو ناجائز ہے جس جانور کے دانت نہ ہوں اس کی قربانی بھی جائز ہے، امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ انہوں نے اس میں کثرت اور قلت کا اعتبار کیا ہے، پس اگر اتنے دانت باقی ہوں جن سے چارہ کھانا اس کے لیے ممکن ہو تو جائز ہے۔ چھوٹے کان والے جانور کی

قربانی جائز ہے، اس کی دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ”حضرت ابن عباس چھوٹے کان والے جانور کی قربانی میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔“^۱

قربانی کے جانور کی عمر

پنج سالہ اونٹ، دو سالہ گائے، بیل بھینس، ایک سالہ بھیڑ بکری کی قربانی درست ہے البتہ بھیڑ دنبہ میں چھ ماہ کا پٹھا بھی جائز ہے بشرطیکہ فرہ اور قد آور ہو کہ اگر سال بھر والوں میں چھوڑ دیا جائے تو تمیز نہ ہو سکے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

﴿لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مَسْنَةَ الْإِنَانِ يَعْسِرُ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذْعَةَ مِنَ الضَّانِ﴾: ”تم منہ ہی ذبح کرو مگر یہ کہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے تو بھیڑ دنبہ میں جذع ذبح کر لو۔“^۲

نیز آنحضرت ﷺ نے فرمایا: بھیڑ دنبہ میں جذع کی قربانی کیا خوب ہے۔^۳

نیز حضرت عقبہ عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں ساتھیوں میں قربانی کے جانور تقسیم کرنے کے لیے بھیڑ بکریاں دیں۔ (تقسیم کے بعد) ایک عتود (بکری کا ایک سالہ بچہ) بچہ گئی رسول کریم سے اس کا ذکر ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا ”ضح بہ انت“ یعنی ”اس کی تم خود قربانی کر لو۔“^۴

قربانی کے گوشت کا حکم

قربانی کے جانور کا گوشت خود کھائے، مالداروں اور ناداروں کو کھلائے اور اس کو ذخیرہ کرے، سب جائز ہے کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے (ابتداء میں) قربانی کا گوشت تین دن کے بعد کھانے سے منع فرمایا، پھر بعد میں فرمایا: ”کلوا وتزودوا وادخروا“ یعنی ”کھاؤ، توشہ بناؤ اور ذخیرہ کرو۔“^۵

رسول کریم ﷺ نے لوگوں کو تین دن سے زیادہ گوشت ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا تھا اور بقیہ گوشت صدقہ کرنے کا حکم دیا تھا تا کہ ناتواں اعرابیوں کے ساتھ غمخواری ہو سکے، پھر یہ فرماتے ہوئے اجازت دے دی کہ ”میں نے تمہیں تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع فرمایا تھا، اب تم جتنا چاہو رکھ لیا کرو۔“^۶

۱. [سنن البیہقی ۹/۲۷۵] ۲. [صحیح مسلم ۳/۱۵۵۵] ۳. [سنن الترمذی ۳/۲۹] ۴. [صحیح مسلم ۳/۱۵۵۶] ۵. [صحیح مسلم ۳/۱۵۶۲] ۶. [صحیح مسلم ۳/۱۵۶۲]

جب مالدار ہوتے ہوئے خود کھانا جائز ہو تو دوسرے مالدار کو کھلانا بھی جائز ہوگا۔
 البتہ مستحب یہ ہے کہ تین حصوں میں تقسیم کرے، ایک حصہ کھانے کا دوسرا ذخیرہ کرنے
 اور تیسرا کھلانے کا کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے: ”وَاطْعَمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ“ [الحج: ۳۶]
 قربانی کے جانور کی کھال صدقہ کر دے کیونکہ وہ کھال بھی اس کا حصہ ہے یا دباغت
 دے کہ گھر میں استعمال کرے اس لیے کہ کھال سے انتفاع حرام نہیں ہے۔ کھال کا بیچنا اگرچہ
 جائز ہے لیکن مکروہ ہے کیونکہ ملکیت موجود ہے اور حوالہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے کیونکہ حضور علیہ
 الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: جس نے قربانی کی کھال کو بیچا اس کی کوئی قربانی نہیں۔^۱
 قصاب کو اس کی اجرت قربانی میں سے نہیں دی جائے گی کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے
 مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے جانور کی دیکھ بھال اور ان کی کھالوں
 اور جھولوں کی تقسیم پر مامور فرمایا اور مجھے حکم دیا کہ میں قصاب کو اس میں سے کچھ نہ دوں اور فرمایا
 کہ ہم اس کو اپنے پاس سے دیں گے۔^۲

پس اگر وہ فقیر ہوگا تو ہم اس میں سے اس کو دیں گے اور اس کو اس کی اجرت دیں

گے۔

اون والے جانور کی اون ذبح کرنے سے پہلے کاٹنا اور اس سے انتفاع کرنا مکروہ
 ہے۔ افضل یہ ہے کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرے جبکہ ذبح کرنے کا طریقہ خوب
 جانتا ہو کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی کریم ﷺ نے دو سینگ
 والے مینڈھے سایہ و سفید کے رنگ کے قربان کیے، ان کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، بسم اللہ اللہ
 اکبر کہہ کر اپنا پاؤں ان کی گردن پر رکھا۔^۳

اگر ذبح کا طریقہ خوب نہ جانتا ہو تو افضل یہ ہے کہ دوسرے سے تعاون حاصل
 کر لے، ایسی صورت میں اسے بذات خود موجود ہونا چاہیے کیونکہ حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
 فرمایا: اے فاطمہ، تم اپنی قربانی کے جانور کی طرف اٹھو اور اس کے پاس موجود رہو تو خون کے
 پہلے قطرہ کے وقت ہی تمہارے ہر گناہ کی مغفرت کر دی جائے گی اور تم یوں کہو۔ ”ان صلاتی
 ونسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت وانا
 اول المسلمین“

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ ﷺ!

۱ [صحیح مسلم ۳/۱۵۵۶]

۲ [سنن البیہقی ۹/۲۹۴] ۳ [ایضاً]

یہ خاص آپ ﷺ کے لیے اور آپ کے اہل بیت کے لیے ہے۔ اس کے اہل آپ ہیں یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔“
کتابی کا قربانی کا جانور ذبح کرنا مکروہ ہے کیونکہ قربانی ایک قربت والا عمل ہے اور وہ اس کا اہل نہیں ہے۔

اگر اس کو کہا اور اس نے ذبح کر دیا تو جائز ہے۔ اس لیے کہ وہ اہل ذکاۃ میں سے ہے۔ جس نے کسی کی بکری غصب کی پھر اس کی قربانی دے دی تو اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اگر بکری امانت رکھوائی، پس اس نے اس کی قربانی کر دی تو اس کا ضامن ہوگا اور اس کی قربانی جائز نہ ہوگی کیونکہ ذبح کرنے کے بعد ہی اس کی ملکیت ثابت ہوگی۔

اگر غلطی سے ایک نے دوسرے کا جانور ذبح کر دیا تو دونوں کی طرف سے کافی ہوگا اور ان دونوں پر ضمان نہ ہوگا کیونکہ ہر ایک جانور قربانی کے لیے متعین تھا اور ہر ایک پر واجب تھا کہ وہ ایام نحر میں ان ہی کی قربانی کرے اور دوسرے کے ساتھ تبدیل کرنا مکروہ ہے، پس اس مسئلہ میں ہر ایک ذبح کروانے میں دوسرے سے تعاون چاہنے والا ہو گیا۔

مضطر کے لیے کیا حلال ہے؟

مضطر (بے تاب آدمی) کے لیے جائز ہے کہ وہ بقدر ضرورت دوسرے کے مال سے منتفع ہو اور اس انتفاع کا ضامن ہوگا کیونکہ دوسرے کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر استعمال کرنا مسلمان پر حرام ہے۔ لیکن اگر وہ اس (انتفاع) کے ثمن کا مالک نہ ہو اور اس کا مہمان نوازی نہ کی جائے تو جائز ہے۔ حضرت عمیر مولیٰ ابی اللحم سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: میں اپنے آقا کے ساتھ ہجرت کے ارادے سے نکلا، جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو لوگ پہلے مدینہ پہنچ گئے، مجھے سخت بھوک لگی، تھوڑی ہی دیر کے بعد کچھ لوگ جو مدینہ سے باہر جا رہے تھے، میرے پاس سے گزرے، انہوں نے کہا کہ تم مدینہ میں کسی باغ میں جا کر اس کے پھل حاصل کر لو تو بہتر ہوگا، پس میں مدینہ کے ایک باغ میں داخل ہوا اور کھجوروں کے دو گچھے توڑ لیے، اتنے میں باغ کا مالک آ گیا اور وہ دو گچھے میرے پاس تھے، وہ مجھے حضور علیہ السلام کے پاس لے گیا، آپ ﷺ نے میرے بارے پوچھا تو میں نے سارا قصہ ذکر کیا، آپ ﷺ نے پوچھا کہ ان میں سے کون سا زیادہ اعلیٰ ہے؟ میں نے ایک گچھے کی اشارہ کر دیا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ لے لو اور باغ

کے مالک کو دوسرا گچھالے لینے کا حکم دیا اور مجھے چھوڑ دیا۔“^۱
 حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: بھوکے کو کھانا کھلاؤ، مریض کی عیادت کرو اور قیدی کو رہائی دلاؤ۔“^۲
 رہا ضمان کا وجوب تو وہ ان دلائل سے مستفاد ہے جن سے دوسرے کا حال اس کی خوش دلی کے بغیر استعمال کرنے کی حرمت معلوم ہوتی ہے۔ ان دلائل میں سے ایک دلیل حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس وقت حضرت عمران رضی اللہ عنہ اور دیگر اصحاب ایک سفر میں آنحضرت ﷺ کے ہم سفر تھے اور انہیں سخت پیاس نے بے تاب کیا تھا اور آپ ﷺ نے اس عورت کو بلا بھیجا تھا جس کے پاس وہ اونٹ تھا جس پر دو توشہ دان لدے ہوئے تھے۔ حتیٰ کہ اس عورت کو لایا گیا اور اصحاب رسول ﷺ نے اس سے پانی لیا، وہ توشہ دان جوں کے توں تھے، بڑھتے ہی جاتے تھے، پھر آپ ﷺ نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کو حکم دیا، پس وہ اپنے توشے لائے، یہاں تک کہ آپ ﷺ نے اس کے کپڑے کو بھر دیا۔“^۳

نجس ادویات کے استعمال کا حکم

آنحضرت ﷺ نے جسمانی صحت کے لیے اہل عربینہ کو اونٹنی کا دودھ اور پیشاب پینے کا حکم دیا تھا، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگوں کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی تو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انہیں حکم دیا کہ اونٹوں کے چرواہے کے پاس چلے جائیں اور ان کے دودھ اور پیشاب استعمال کریں۔ چنانچہ وہ لوگ اونٹوں کے چرواہے کے پاس گئے، وہاں جانوروں کا دودھ اور پیشاب پیا، یہاں تک کہ ان کے جسم تندرست ہو گئے، پھر وہ اس چرواہے کو قتل کر کے اونٹ ساتھ لے گئے۔ حضور علیہ السلام کو جب خبر پہنچی تو آپ ﷺ نے ان کی تلاش میں لوگ بھیجے چنانچہ ان کو پکڑ کر لایا گیا، آپ ﷺ نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلانی پھیری۔“^۴

حضور اقدس ﷺ کو یقینی طور پر معلوم تھا کہ ان لوگوں کی شفا یابی اونٹوں کا پیشاب پینے میں منحصر ہے۔ اس لیے آپ ﷺ نے ان کو اس کی اجازت دی۔

۱ [سنن البیہقی ۳/۱۰] ۲ [صحیح البخاری ۱۱۶۵]

۳ [سنن البیہقی ۳/۱۰] ۴ [صحیح البخاری ۱۲۲۳]

نشہ آور چیز سے علاج معالجہ کی ممانعت

نشہ آور چیز کا کسی بھی صورت میں استعمال جائز نہیں ہے کیونکہ کسی کو بھی اس بات کا یقینی طور پر علم حاصل نہیں کہ شراب باعث شفاء ہے بلکہ جس کو علم یقینی حاصل ہے۔ انہوں نے تو یہ بتایا ہے کہ شراب بیماری ہے، شفاء نہیں چنانچہ وائل حضرمی سے مروی ہے کہ طارق بن سوید رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ شراب کا استعمال کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع فرمایا۔ یا اس کو بنانا مکروہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو دوا و علاج کے لیے بناتا ہوں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب دوا نہیں بلکہ داء (بیماری) ہے۔^۱

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب کے استعمال سے اجتناب کرو کیونکہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے، ایک شخص ان کے سامنے پیش کیا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کتاب اللہ کو نذر آتش کرنے، بچہ کو قتل کرنے، عورت سے زنا کرنے، شراب کا جام پینے اور صلیب کو سجدہ کرنے میں سے کون سا گناہ زیادہ بھاری ہے۔

انہوں نے فرمایا کہ شراب کا جام پینے سے زیادہ بھاری کوئی گناہ نہیں کیونکہ جب شراب پیے گا تو صلیب کو سجدہ بھی کرے گا، بچہ کو قتل بھی کرے گا، عورت سے زنا بھی کرے گا اور کتاب اللہ کو بھی جلائے گا۔^۲

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ”میں نے ایک کوزے میں نبیذ ڈالی، اتنے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نبیذ جوش زن تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میری بیٹی نے فریاد کی تھی اس کے لیے نبیذ بنائی جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری شفاء ان چیزوں میں نہیں رکھی جن چیزوں کو تم پر حرام قرار دیا ہے۔“^۳

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بے شک اللہ تعالیٰ نے بیماری اور علاج (دونوں) کو اتارا ہے اور ہر بیماری کی دوا رکھی ہے، پس تم علاج کیا کرو اور حرام چیز سے علاج نہ کرو۔“^۴

۱ [صحیح مسلم ۳/۱۵۷۳] ۲ [سنن البیہقی ۱۰/۵]

۳ [سنن البیہقی ۱۰/۱۵] ۴ [سنن البیہقی ۱۰/۵]

پنیر کھانا

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ غزوة تبوک میں پنیر کا ٹکڑا بارگاہ نبوی ﷺ میں پیش کیا گیا تو آپ ﷺ نے چھری منگوائی اور بسم اللہ پڑھ کر اس کو کاٹا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب تم پنیر کھانے لگو تو اس پر چھری رکھو بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ۔ کثیر بن شہاب سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پنیر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: پنیر، دودھ اور پیوسی میں سے ہے، پس تم اللہ کا نام اس پر لے کر کھاؤ اور خدا کے دشمن تمہیں دھوکہ نہ دیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک عورت نے پنیر کے بارے میں پوچھا تو حضرت عائشہ نے فرمایا: اگر تم کو پنیر نہیں کھانا تو ہمیں دے دو، ہم کھا لیتے ہیں۔

ثور بن قدامہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا حکم نامہ ہمارے پاس آیا جس میں یہ مرقوم تھا: تم پنیر میں سے نہ کھاؤ مگر اہل کتاب جو تیار کریں۔ حضرت علی الباری نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پنیر کے بارے میں حکم دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مسلمان اور اہل کتاب جو تیار کریں اسے کھاؤ کیونکہ بھیڑ بکری کا بچہ ذبح کیا جاتا ہے، پھر اس کے معدے کے مادے کے ذریعہ دودھ کا پنیر بنایا جاتا ہے اور گرزبجہ مجوسیوں اور بت پرستوں کا ہو تو حلال نہیں ہے، اگر وہ بچہ مر جائے، پھر اس کے دودھ کا پنیر بنایا جائے تو حلال نہیں ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پنیر اور گھی کا حکم پوچھا گیا تو فرمایا ”بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، پھر پوچھا گیا کہ اگر وہ مردار ہو؟ فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو کہ اس میں مردار پن ہے تو اسے نہ کھاؤ۔“ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ ﷺ سے پنیر کے بارے میں دریافت نہیں کرتے تھے کہ وہ اس کے پاک ہونے کو غالب قرار دیتے تھے جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ۔

حضرت انس سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ ﷺ سے عہد مبارک میں بھی اور اس کے بعد بھی پنیر کھایا کرتے تھے، آپ ﷺ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے، البتہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم احتیاطاً پوچھتے تھے۔^۱

کیلچی اور تلی کھانے کا حکم

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ دو مردار اور دو خون ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں، دو مردار تو ٹڈی اور مچھلی ہیں اور دو خون کیلچی اور تلی ہیں۔^۱
ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا میں تلی کھا سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں اس نے کہا کہ اس کا اکثر حصہ تو خون کا ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حرام تو دم مسفوح ہے۔^۲

بکری کے کون سے اجزاء مکروہ ہیں

مجاہد سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ بھیڑ بکری میں سات چیزیں ناپسند فرماتے تھے۔ خون، پتا، اکہ، تناسل، خصیتین، فرج، غدود، مثانہ۔ آپ ﷺ کو بکری کا اگلا حصہ (دستی) پسند تھا، یہاں کراہت (ناپسندیدگی) سے مراد حرمت ہے، دلیل یہ ہے کہ پہلے جس خون کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد دم مسفوح ہے لہذا اس کے معطوفات کا بھی وہی حکم ہوگا جو اس کا حکم ہے۔ واللہ اعلم

بنی اسرائیل نے اپنے اوپر کیا حرام کیا تھا

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام عرق النساء کے مرض میں گرفتار تھے۔ آپ گھر میں رہتے اور چیختے، انہوں نے یہ کیا کہ کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو شفاء بخشی تو وہ ایسا گوشت نہیں کھائیں گے جس گوشت میں رگیں ہوتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہود نے اس کو حرام کر لیا، چنانچہ یہ آیت کریمہ اتری:

﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَاتُوا بِالْتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [آل عمران: ۹۳]

”تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے مگر اسرائیل (یعقوب) نے جو اپنے لیے حرام کیا پہلے اس سے کہ تورات نازل ہو، آپ ﷺ فرمادیں کہ لاؤ تورات، پس اس کو پڑھو اگر تم سچھے ہو۔“

علماء لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اپنے لئے حرام کیا تھا۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے۔ ”فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ“ پس ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہوئے ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال تھیں۔“ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ وہ پاکیزہ (حلال) چیزیں ان کے لیے حلال تھیں اور فرمایا کہ ارشاد خداوندی ہے۔

﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ﴾ [الانعام: ۱۳۶]: ”اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیئے تھے اور گائے اور بکری (کے اجزاء) میں سے ان دونوں کی چربیوں ان پر ہم نے حرام کر دی تھیں مگر وہ جو ان کی پشت پر یا انتڑیوں میں لگی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہو۔“

ناخن والے جانوروں سے مراد اونٹ اور شتر مرغ ہیں۔

مشرکین نے اپنے اوپر کیا چیزیں حرام کی تھیں؟

مشرکین نے بھی کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس امر کی تصریح فرمادی کہ ان کے حرام کرنے سے وہ چیزیں حرام نہیں ہو سکتیں۔ جیسا کہ مشرکین نے بحیرہ، سائبہ، وصیلہ اور حامی کو اپنے لیے حرام کر لیا تھا، ایسے اونٹوں اور بکریوں کے دودھ، گوشت اور ملکیت کو حرام کر دیا تھا۔

بحیرہ وہ جانور ہے جس کا دودھ بتوں کے نام کر دیتے تھے، کوئی اپنے استعمال میں نہ لاتا تھا، سائبہ وہ جانور ہے جس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اس سے کوئی کام نہ لیتے اور وصیلہ وہ ناقہ (اونٹنی) ہے جو پہلے مادہ بچہ جنے، پھر دوسری بار بھی مادہ بچہ دے، درمیان میں بچہ پیدا نہ ہو، اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور حامی نر اونٹ ہے جو ایک خاص تعداد میں جفتی کر چکا ہے اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے یہ سب باطل، کفر اور شرک ہیں۔

﴿قتل کی حرمت﴾

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الانعام: ۱۵۱]

”اور تم اس جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔“

ارشاد خداوندی ہے:

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الفرقان]:

”اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور اس جان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ۳۲]

”یہ کہ جو شخص کوئی جان بغیر کسی جان کے یا بغیر زمین میں فساد مچانے کے بدلے قتل کر دے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ اور جس نے کوئی جان زندہ کی تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ کیا۔“

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا﴾ [النساء: ۹۳]

”اور جو شخص جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے اس میں ہمیشہ رہے گا۔“

ارشاد الہی ہے:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الانعام: ۱۵۱]

”اور تم اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔“

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ [التكوير: ۸-۹]

”اور جب زندہ درگور بچی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس گناہ کی پاداش میں مار دیا گیا۔“

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الانعام: ۱۴۰]
 ”وہ لوگ یقیناً خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو بغیر علم کے نادانی سے قتل کیا۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرو حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس نے پوچھا کہ پھر کونسا؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”پھر یہ کہ تم اپنے اولاد کو اس ڈر سے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہوگی۔“ اس نے کہا کہ پھر کون سا؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”پھر یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔“ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ [الفرقان: ۶۸]:

”اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور اس جان کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ اور وہ زنا نہیں کرتے اور جو شخص ایسا کرے گا اسے سزا سے سابقہ پڑے گا۔“

حضرت ابوامامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب گھر میں محصور کر دیئے گئے تھے۔ (ایک دن) ہم ایک جگہ میں آ کر لوگوں کی باتوں کو سن رہے تھے کہ حضرت عثمان اندر آئے پھر گھر سے باہر نکلے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، کسی نے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین! آپ کو کیا ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ لوگ اب مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، مجھے ان سے اس بات کی توقع نہ تھی، ہم نے کہا کہ اے امیر المؤمنین! اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے شر سے بچائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ آخر وہ مجھے کس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”کسی مسلمان کا خون حلال

نہیں مگر تین باتوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے (حلال ہے) ایک وہ آدمی جو مسلمان ہونے کے بعد کفر اختیار کرے۔ یا محسن ہونے کے بعد زنا کرے۔ یا کسی جان کو بغیر جان کے بدلے قتل کرے۔ پس خدا جانتا ہے کہ میں نے نہ زمانہ جاہلیت میں کبھی زنا کیا اور نہ ہی زمانہ اسلام میں۔ اور جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے میں اپنے دین کے بدلے کوئی دین پسند نہیں کیا۔ اور میں نے کسی جان کو بھی قتل نہیں کیا، پھر کس بنا پر یہ لوگ میرے قتل کے درپے ہیں۔^۱

حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبیلہ جہینہ کے علاقے حرفہ کی طرف (لشکر کشی کے لیے) روانہ کیا، پس ہم نے اس قوم پر صبح ہوتے ہی حملہ کیا اور ان کو شکست سے دوچار کیا۔ (راوی) کہتے ہیں کہ میں نے اور ایک انصاری آدمی نے دشمن کے ایک شخص کو پکڑا، جب ہم اس پر غالب آگئے تو اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، انصاری آدمی نے تو اسے چھوڑ دیا لیکن میں نے اپنا نیزہ اسے مارا اور قتل کر دیا، جب ہم واپس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع ملی تو مجھے فرمایا: ”اے اسامہ رضی اللہ عنہ! کیا تم نے اس کو قتل کر دیا بعد اس کے کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا؟“ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! اس نے تو پناہ پکڑنے کے لیے ایسا کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کیا تم اسے قتل کر دیا بعد اس کے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ جملہ ارشاد فرماتے رہے، یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کہ کاش! میں اس دن سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا۔“^۲

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مومن ہمیشہ اپنے دین کی طرف سے کشادگی اور وسعت میں رہتا ہے جب تک کہ حرام کردہ خون کا ارتکاب نہ کرے۔“^۳

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایسے دشوار گزار امور جن میں مبتلا شخص کے لیے اس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہوتی ان امور میں سے ایک حرام کردہ خون کو بغیر حلال کے بہانا ہے۔“^۴

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ”جو شخص کسی مومن کو قتل کر کے اس پر رشک کرتا ہے تو اس کی نہ فرض عبادت قبول ہوگی نہ نفل“ ایک نے دوسرے سے ”قتل پر رشک کھانے“ کا مطلب پوچھا تو اس نے کہا کہ اس سے مراد ”وہ لوگ ہیں جو کسی فتنہ کے زمانہ میں کسی کو قتل کرتا ہو اور خود کو ہدایت پر سمجھتا ہو، اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی

۱ [سنن البیہقی ۱۸/۱] ۲ [صحیح البخاری ۱۴۴۲] ۳ [صحیح البخاری ۱۴۴۰] ۴ [ایضاً]

کبھی بھی معافی نہ مانگتا ہو۔“^۱

پس ہر وہ شخص جو مسلمانوں اور غیر مسلموں اور ان کے بچوں کو بلا کسی جرم کے قتل کرتا ہو وہ ان لوگوں میں شامل ہے جن کی نہ فرض عبادت قبول ہوگی اور نہ نفل۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ عہد رسالت میں ایک مقتول شخص ملا، اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: ”میری موجودگی میں کوئی شخص قتل کیا جائے اور اس کے قاتل کا علم نہ ہو؟ اگر (بالفرض) آسمان والے اور زمین والے سب ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اچاہیں تو سب کو عذاب میں گرفتار کر دیں۔“ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”اگر ایک مومن آدمی کے قتل پر زمین و آسمان کے رہنے والے جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ضرور عذاب میں گرفتار کر دیں۔“^۲

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مومن کا قتل دنیا کے زوال سے زیادہ بھاری ہے“ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”دنیا کا زوال اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلمان کے قتل سے زیادہ ہلکا ہے۔“^۳

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔“^۴

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: کوئی شخص اپنے بھائی کے سامنے ہتھیار سے اشارہ نہ کرے کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ شیطان اس کے ہاتھ سے کھینچ لے اور جہنم کے گڑھے میں جا کرے۔“^۵

خودکشی پر وعید

مسلمان کا دوسرے کو قتل کرنے کی بہ نسبت اپنے آپ کو قتل کرنا (خودکشی) زیادہ بھاری گناہ ہے چنانچہ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص اسلام کے سوا دوسرے مذہب کی قسم اٹھائے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے کہا۔ اور جس نے کسی چیز کے ذریعہ خودکشی کی تو اسے آتش دوزخ میں اس چیز کا عذاب ہوگا۔ اور مومن کا دوسرے کو لعن طعن کرنا اس کو قتل کرنے کی طرح ہے اور جو شخص کسی مومن پر کفر کی تہمت لگائے تو وہ اس کو قتل کی طرح ہے۔“

۱ [سنن البیہقی ۲۱/۸] ۲ [سنن البیہقی ۲۲/۸] ۳ [ایضاً]

۴ [صحیح البخاری ۱۳۸۵] ۵ [ایضاً] ۶ [صحیح البخاری ۱۳۹۹]

کتاب الجنایات

جنایات، جنایت کی جمع ہے بمعنی جرم اور قصور۔ اور فقہاء کرام کی اصطلاح میں اس فعل ممنوع کا نام ہے جو جان اور اطراف (اعضاء) پر واقع ہو۔ جنایت کا اصل معنی ہے زیادہ کرنا اور یہ زیادتی کبھی اپنی جان پر ہوتی ہے اور کبھی دوسرے پر، کہا جاتا ہے جنی علی نفسہ و جنی علی غیرہ یعنی اس نے اپنی ذات پر زیادتی کی اور اس نے دوسرے پر زیادتی کی، جنایت علی الغیر جان، مال اور عزت و آبرو پر ہوتی ہے اور جنایت علی النفس کو قتل یا صلب یا حرق کہتے ہیں اور جنایت علی الاطراف کا نام قطع یا کسریا شج بھی ہے اور جنایت علی العرض (عزت پر زیادتی) کی دو قسمیں ہیں، ایک قذف (تہمت) جس کا موجب حد ہے، ہم اس کو بیان کر چکے ہیں، دوسری غیبت جس کا موجب گناہ ہے اور وہ احکام آخرت میں سے ہے اور جنایت علی المال کو غصب یا خیانت یا سرقت (چوری) بھی کہتے ہیں، اس کے احکام کتاب السرقت والغصب میں بیان ہو چکے ہیں۔ اس وقت ہمارا موضوع صرف جنایت علی النفس اور جنایت علی الاطراف ہے۔

جنایت علی النفس (قتل) کی اقسام: قتل کی پانچ قسمیں ہیں۔ (۱) قتل عمد (۲) قتل شبہ عمد (۳) قتل خطاء (۴) قتل جاری مجرائے خطاء (۵) قتل بالسبب۔

قتل عمد

قتل عمد وہ ہے جس میں آدمی کو مار ڈالنا مقصود ہو، خواہ ہتھیار سے ہو جیسے تلوار، چھری، خنجر وغیرہ یا کسی ایسی نوک دار چیز سے ہو جو تفریق اجزاء میں ہتھیار کا کام کرتی ہو جیسے نوک دار لکڑی، پتھر، آگ وغیرہ۔ اسی طرح جو چیز ہتھیار کے مشابہ ہو جیسے پیتل، سیسہ، سونا، چاندی، اس کا بھی یہی حکم ہے خواہ دوسرے کو کاٹنے کے ساتھ ہو یا زخمی کرنے کے ساتھ ہو یا کوٹنے کے ساتھ ہو، یہاں تک کہ اگر سیسہ کا ہتھوڑا لے کر مارا اور اس کو قتل کر دیا تو اس پر قصاص واجب ہوگا۔ جو چیز تفریق اجزاء میں ہتھیار کا کام کرتی ہو وہ بھی اس کے حکم میں ہے جیسے بندوق، شیشہ، پستول وغیرہ۔ اور ہر وہ چیز اس کے ساتھ ذکاۃ (ذبح) کا عمل واقع ہو وہ بھی اس کے حکم میں ہے کہ جب اس کے ساتھ قتل کرے گا تو اس میں قصاص واجب ہوگا۔

اگر زراعت کے کسی آلہ سے مارا جیسے بیلچہ، کچھ، چوڑا تختہ وغیرہ تو اگر لکڑی لگنے سے مر گیا تو اس میں دیت ہے اور اگر لوہا لگنے سے مرا تو اس میں قصاص ہوگا اور اگر کسی کو آگ میں

جلایا تو اس پر قصاص ہے۔ اگر پانی میں پھینکا اور وہ غرق ہو کر مر گیا تو امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اس میں قصاص نہیں ہوگا اور عاقلہ پر دیت واجب ہوگی۔ صاحبینؒ کے نزدیک اس پر اس صورت میں قصاص لازم ہوگا جب کہ پانی اتنا ہو کہ عام طور پر اس میں انسان ڈوب جاتا ہو کیونکہ یہ آگ میں ڈال کر قتل کرنے کے مثل ہے۔

اگر کسی آدمی کو باندھا، پھر اسے دریا برد کر دیا جس سے وہ غرق ہو گیا تو امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک دیت واجب ہوگی، اگر وہ ایک ساعت (لحہ) کے لیے تیر کو پھر ڈوب جائے تو دیت واجب نہ ہوگی۔

اگر آزاد آدمی کو گھر میں بند کر دیا، پس وہ بھوک یا پیاس سے مر گیا تو وہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک کچھ بھی ضامن نہ ہوگا کیونکہ یہ ایسا سبب ہے جو ہلاکت تک نہیں پہنچاتا، وہ شخص تو کسی اور سبب سے مرا ہے اور وہ سب کھانے اور پانی کی عدم دستیابی ہے۔ پس ہد کے سوا اور کچھ باقی نہ رہا اور آزاد آدمی ہد کی وجہ سے ضامن نہیں ہوتا۔ صاحبینؒ کہتے ہیں کہ اس پر دیت ہوگی کیونکہ یہ ایک ایسا سبب ہے جو اس کی ہلاکت تک پہنچانے والا ہے، جیسے دوسرے کو زہر پلانا۔

اگر ایک آدمی کو زہر پلایا یا اس کو کھلایا جس سے وہ مر گیا تو اگر میت نے از خود اسے کھایا تو کھلانے والے پر کوئی ضمان نہ ہوگا البتہ اس کو مارا جائے گا اور تعزیر لگائی جائے گی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت زہر آلود بکری کا گوشت آنحضرت ﷺ کے پاس لائی۔ آپ ﷺ نے اس میں سے کچھ کھالیا، پھر اس عورت کو لایا گیا، کسی نے اجازت لی کہ کیا ہم اس کو قتل نہ کر دیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ نہیں۔

اور اگر اس کو زہر کھلایا ہو یا اس کو زہر کھانے پر مجبور کیا ہو تو اس صورت میں اس پر دیت ہوگی۔ کیونکہ جب وہ خود زہر کھائے گا تو وہ اپنی جان کو خود قتل کرنے والا ہے اور جس نے زہر اس کے سامنے پیش کیا ہے اس نے صرف اس کو دھوکہ دیا ہے اور دھوکہ دہی میں جان کا ضمان نہیں ہوتا۔

اور جس یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملایا تھا اس کے قتل کے بارے میں روایات مختلف ہیں، یہاں تک کہ بشر بن براء رضی اللہ عنہ اس وجہ سے فوت ہوئے۔ شاید رسول اللہ ﷺ نے تعزیراً اس عورت کو قتل کیا ہو۔ اگر کسی کو چھت سے یا پہاڑ سے گرایا ہو تو امام صاحبؒ کے نزدیک اس پر قصاص نہیں ہے۔ صاحبینؒ فرماتے ہیں کہ اگر اکثر و بیشتر اس سے بچنا ممکن نہ ہوتا ہو تو اسی

صورت میں قصاص واجب ہوگا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کو اس کے زیور پر پتھر کے ساتھ قتل کیا، پس اس لڑکی کو بارگاہ نبوی ﷺ میں لایا گیا، اس میں ابھی زندگی کی رمت موجود تھی، آپ ﷺ نے اس سے پوچھا کہ ”کیا اس نے تجھے قتل کیا ہے؟“ اس نے سر کے اشارہ سے کہا کہ نہیں، پھر دوسری بار پوچھنے پر اس نے سر سے اشارہ کیا کہ نہیں، پھر تیسری بار پوچھنے پر اس نے سر کے اشارہ سے کہا کہ ہاں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس یہودی کو دو پتھروں کے ساتھ قتل کروایا۔“^۱

وہ صورت بھی قتل عمد میں داخل ہے جس میں دوسرے کو مارنا مقصود ہو۔ قتل کی جگہ مقصود ہو یا نہ ہو۔ چنانچہ اگر جسم کی خاص جگہ کا مارنے میں قصد کرے لیکن غلطی سے دوسری جگہ پر ضرب لگ جائے جس سے وہ مر جائے تو قتل عمد ہے اس پر قصاص واجب ہوگا۔

قتل عمد کا حکم اور قاتل کی وراثت سے محرومی

قتل عمدہ کا حکم گناہ اور قصاص ہے۔ گناہ تو اجماع سے ثابت ہے نیز اس ارشاد باری تعالیٰ سے ثابت ہے:

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ ۖ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ ۖ﴾ [النساء: ۹۳]: ”اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کا بدلہ جہنم ہے اس میں ہمیشہ رہے گا اور اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب اور لعنت ہے۔“

نیز قتل، شرک اور عقوق والدین کے بعد اکبر الكبائر میں سے ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے دوسرے کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جان کو قتل کرنا اور چھوٹ بولنا، کبیرہ گناہ ہیں۔“^۲

قتل نفس کے بارے میں نصوص کثیر ہیں جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اور قصاص کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾ [البقرة ۱۷۸]: ”اور تم پر مقتولین کے

بارے میں قصاص فرض کیا جاتا ہے۔“

اور اس قتل سے قتل عمد مراد ہے کیونکہ قصاص کسی اور قتل میں نہیں ہے نیز آنحضور علیہ

السلام نے فرمایا ”العمد و قود“ یعنی قتل عمد میں قصاص ہے۔“^۱
یعنی قتل عمد کا موجب اور حکم قصاص ہے۔ ہمارے (احناف کے) نزدیک قتل عمد میں کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قتل عمد اور اس کا حکم ان الفاظ سے ذکر کیا ہے:

﴿وَمَنْ يُقْتَلْ مُؤْمِنًا مَّتَعِمِدًا فَجَزَاءُ لَهُ جَهَنَّمُ﴾ [النساء: ۹۳]

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کفارہ کا ذکر نہیں کیا، جبکہ قتل خطاء میں اس کا حکم اور اس میں لزوم کفارہ کا صراحت سے ذکر کیا ہے، معلوم ہوا کہ اگر قتل عمد میں بھی کفارہ واجب ہوتا تو قتل خطاء کی طرح اس کو بھی ضرور بیان فرماتے۔ میراث سے محرومی بھی قتل عمد کے حکم میں سے ہے۔ اس کی دلیل حضرت ابن المسیبؒ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا! ”قاتل، مقتول کی دیت کا وارث نہ ہوگا۔“^۲

البتہ اگر مقتول کے اولیاء معاف کر دیں یا مصالحت کر لیں تو وارث ہوگا کیونکہ حق ان کا ہے۔ پس جب انہوں نے مصالحت کر لی تو ان کا حق قصاص ساقط ہو جائے گا۔ جیسا کہ معاف کر دیں تو ساقط ہو جاتا ہے اگر مقتول کے اولیاء مصالحت نہ کریں لیکن بعض اولیاء معاف کر دیں تو قصاص باطل ہو جائے گا اور معاف نہ کرنے والوں کا حصہ مال سے منقلب ہو جائے گا کیونکہ جب من لہ القصاص کی طرف سے قصاص کا حق پورا پورا وصول کرنا دشوار ہو تو اس کا حصہ مال سے منقلب نہیں ہوتا اور جب من علیہ القصاص کی طرف سے دشوار ہو تو اس کا حصہ مال سے منقلب ہو جائے گا، پھر جس نے معاف کیا ہو اس کا حصہ مال سے منقلب نہ ہوگا کیونکہ اس کی طرف سے قصاص کے حق کا پورا پورا وصول کرنا متعذر ہے۔

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: علی المقتلین ان ینجزوا الاوّل، فالاول، وان کانت امرأة“ اس حدیث کے ایک رواوی نے ”ان ینجزوا“ کا مفہوم کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص مقتول ہو اور اس کے مرد اور عورتیں دونوں ورثاء میں موجود ہوں تو مرد یا عورت ہی سے الاقرب فالاقرب کے طریق پر جو بھی اس کا خون معاف کر دے تو اس کا معاف کرنا جائز ہوگا کیونکہ حدیث میں موجود لفظ ”ان ینجزوا“ کا معنی ہے کہ وہ قصاص لینے سے رک جائیں۔

زید بن وہبؒ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”ایک آدمی نے اپنی بیوی کے پاس کسی غیر شخص کو پایا اور اس کو قتل کر دیا، حضرت عمر بن خطابؓ کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا،

اس عورت (مقتولہ) کے کسی بھائی کو اس پر ناراضگی ہوئی، پس اس نے اپنا حصہ معاف کر دیا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سب کے لیے دیت کا حکم دیا۔^۱

دیت اسی کے مال میں واجب ہوگی، اس کی دلیل مصنف عبدالرزاق میں امام شعی کا قول ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”چار چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں دیت عاقلہ پر نہیں ہوگی بلکہ خاص اسی کے مال میں ہوگی، ایک قتل عمد، دوسرا اعتراف، تیسرا صلح اور چوتھا مملوک“^۲

ابن شہاب سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”سنت یہی جاری ہے کہ عاقلہ قتل عمد کی دیت کو برداشت نہیں کرے گی البتہ عاقلہ خوشدلی سے اس کے ساتھ تعاون کرے تو اور بات ہے۔^۳ ابوالزناد کہتے ہیں کہ فقہاء اہل مدینہ کہتے تھے کہ جو قتل عمد ہو اس کا بار نہ ہوگا اور نہ ہی صلح کا اور نہ اعتراف کا اور نہ ہی مملوک کی جنایت کا عاقلہ پر بار ہوگا۔ مگر یہ کہ عاقلہ ازراہ کرم اس کو پسند کریں تو اور بات ہے۔“^۴

جس قتل عمد میں قصاص کسی شبہ کی بنا پر ساقط ہو جائے، اس میں دیت قاتل کے مال میں ہوگی اور ہر ایسا تاوان جو صلح سے واجب ہو وہ بھی قاتل کے مال پر ہوگا اور ہر ایسی جنایت جس کا جانی (مجرم) اعتراف کرے تو وہ اسی کے مال میں ہوگی اس کے عاقلہ پر نہ ہوگی۔

دیت تین سال میں واجب ہوگی، اس کی دلیل یحییٰ بن سعید کی روایت ہے کہ ”یہ بات سنت میں سے ہے کہ دیت تین سالوں میں قسط وار دی جائے گی۔“^۵

قتل شبہ عمد

امام صاحب کے نزدیک شبہ عمد یہ ہے کہ کسی ایسی چیز سے قتل کیا جائے جو اجزائے بدن کی تفریق نہ کرے۔ یعنی ایسی چیز سے مارنے کا ارادہ کرے جو نہ ہتھیار ہو اور نہ ہی قائم مقام ہتھیار ہو بلکہ ایسی چیز سے مارے جس سے عموماً ہلاکت واقع ہو جاتی ہے مثلاً بڑے پتھریا بڑی لاٹھی یا بڑے تختے سے مارے تو ایسا قتل امام صاحب کے ہاں شبہ عمد ہوگا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ مذکورہ صورت میں قتل عمد ہوگا کیونکہ جب عموماً اس سے قتل کیا جاتا ہو تو وہ اس آکہ قتل کے مثل ہو گیا جو قتل کے لیے ہی بنایا گیا ہے چنانچہ صاحبین اور امام شافعی کے نزدیک شبہ عمد یہ ہے کہ ایسی چیز سے مارنے کا ارادہ کرے جس سے عموماً قتل نہیں کیا جاتا بلکہ اس سے مقصود تادیب

۱ [سنن البیہقی ۵۹/۸] ۲ [نصب الرایۃ ۳۹۹/۴] ۳ [سنن البیہقی ۱۰۵/۸]

۴ [ایضاً] ۵ [سنن البیہقی ۷۰/۸]

ہوتی ہو۔ جب آلہ چھوٹا ہو جس سے عموماً قتل نہیں کیا جاتا جب اس کے سبب مر جائے تو ایسا قتل شبہ عمد ہوگا۔

قتل شبہ عمد کا حکم

قتل شبہ عمد کا حکم یہ ہے کہ ابتدا میں گناہگار ہوگا پھر کفارہ کے ادا کرنے سے گناہ ساقط ہو جاتا ہے۔ گناہگار اس لیے ہوگا کہ وہ قاتل اور قاصد ضرب ہے اور کفارہ کا وجوب شبہ بالخطا کی وجہ سے ہے اور اس قتل میں قود اور قصاص نہیں ہے کیونکہ ایسے قتل میں عمد نہیں پایا گیا اور استعمال شدہ آلہ بھی ایسا ہے جو قتل کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی اس میں استعمال ہوا ہے۔ اس قتل میں عاقلہ پر دیت مغلظہ واجب ہوگی۔

اس بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ دیت جو ابتداء قتل سے واجب ہوئی ہو اور اس میں بعض ورثاء کی طرف سے مصالحت یا معافی کا کوئی عمل نہ ہو ایسی دیت عاقلہ پر واجب ہوا کرتی ہے۔ اسے قتل خطا پر قیاس کیا گیا ہے اور اس قتل سے میراث کی محرومی بھی متعلق ہوتی ہے کیونکہ وہ قتل کا بدلہ ہے اور شبہ قصاص کے سقوط میں اثر انداز ہوتا ہے، وراثت سے محرومی پر اثر انداز نہیں ہوتا۔

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک دیت مغلظہ پچیس بنت مخاض، پچیس بنت لبون، پچیس حقہ اور پچیس جذعہ ہے۔ اونٹوں میں جذعہ اس ناقہ (اونٹنی) کو کہتے ہیں جس کے چار سال پورے ہو چکے ہوں اور پانچویں سال میں لگ چکی ہو۔ اور حقہ اس ناقہ کو کہتے ہیں جس کے تین سال پورے ہو چکے ہوں اور چوتھے سال میں قدم رکھ چکی ہو۔ اور بنت لبون اس ناقہ کو کہتے ہیں جس کے دو سال پورے ہو چکے ہوں اور تیسرے سال میں لگ چکی ہو۔ اور بنت مخاض اس ناقہ کو کہتے ہیں جس کا ایک سال پورا ہو چکا ہو اور دوسرے سال میں شروع ہو چکی ہو۔ امام صاحب کے ہاں دیت سواونٹ ہیں چنانچہ ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ دیتوں کے بارے میں سرور دو عالم ﷺ نے جو مکتوب گرامی (حکم نامہ) حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہما کو لکھا تھا اس کے الفاظ یہ ہیں: ان فی النفس مئة من الابل یعنی جان کے (قتل کرنے) میں سواونٹ ہوں گے۔^۱

امام ابو حنیفہؒ کی اس پردلیل کہ وہ سواونٹ بطریق ارباع ہوں گے، عاصم بن ضمیرہ کی

روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”قتل خطاء میں دیت بطریق ارباع ہوگی، پچیس حقے، پچیس جذعے، پچیس بنت لبون اور پچیس بنت مخاض“۔^۱

اور قتل نفس کی دیت بھی بارہ ہزار درہم ہیں، اس کی دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”ایک آدمی عہد رسالت مآب میں قتل ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دیت بارہ ہزار درہم مقرر فرمائی۔“^۲

حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کے اس صحیفہ میں جسے انہوں نے دیات کے بارے میں رقم کیا تھا یہ ہے: سونا رکھنے والوں پر ایک ہزار دینار ہیں۔ (ایضاً) دراہم کے حساب کی صورت میں دیت کی رقم چار کلوگرام سونا یا چونتیس کلوگرام اور ایک کلو کے دس حصوں میں سے آٹھ حصے کی چاندی کے وزن کو پہنچتی ہے اور قتل شبہ عمد کو ورود دلیل کے سبب قتل خطاء پر قیاس کیا گیا ہے۔

عاقلہ سے مراد عصبہ ہیں، عصبہ وہ ہیں جو باپ کی طرف سے قرابت دار ہوں جو قتل خطاء کی دیت دیتے ہیں۔ عاقلہ کی معرفت کا طریقہ یہ ہے کہ جنایت کرنے والے شخص کے باپ کی طرف کے بھائیوں کو دیکھا جائے گا اور ان پر اس چیز کا بار ڈالا جائے گا جو عاقلہ پر ڈالا جاتا ہے۔ اگر وہ اس ذمہ داری کو برداشت کر لیں تو وہ اس (دیت) کو تین سال میں ادا کریں گے اور اگر اسے برداشت نہ کریں تو پھر اس کے (مجرم کے) چچاؤں کے سامنے اس امر کو پیش کیا جائے گا، اگر وہ بھی اس بار کو نہ اٹھائیں تو پھر اس کے باپ کے چچاؤں کے سامنے اسے پیش کیا جائے گا، اگر وہ بھی اس بار کو نہ اٹھائیں تو پھر اس کے دادا کے والد کے دادا کی اولاد کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا اور جب تک یہ لوگ عاجز نہ ہوں باپ کی اولاد کے سامنے اسے پیش نہیں کیا جائے گا۔ اس دیت کو ”عقل“ بھی کہتے ہیں کیونکہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کے ہاں دیت اونٹوں کی شکل میں ہوتی تھی کیونکہ اونٹ ہی ان کے مال تھے اور اس لیے کہ قاتل کو اس بات پر مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ مقتول کے ورثاء کے گھر کے صحن میں دیت کو لے کر جائے، پس وہ ان اونٹوں کو عقل سے باندھ دیتا تھا اور مقتول کے اولیاء کے حوالہ کر دیتا تھا۔ عقل جمع ہے عقل کی، عقل اصل میں اس رسی کو کہتے ہیں جس سے اونٹ کا پیر باندھتے ہیں۔ اس بات کی دلیل کہ قتل شبہ عمد کی دیت قتل عمد کی طرح دیت مغلطہ ہے اور شبہ عمد میں قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے: عقل شبہ العمد مغلطہ مثل عقل العمد ولا یقتل صاحبہ، وذلك ان ینزو والشیطان بین الناس فیکون رمیا فی عمیا فی غیر ضغینة ولا حمل

سلاح یعنی ”قتل شبہ عمد کی دیت، مغلظہ ہے، قتل عمد کے مثل اور اس کے صاحب کو قتل نہ کیا جائے گا، اس کا سبب یہ ہے کہ شیطان لوگوں کو بھڑکاتا ہے تو کسی بغض و عداوت اور اسلحہ برداری کے بغیر ہی نادانی سے تیر چل جاتا ہے۔“^۱

اور اس امر کی دلیل کہ شبہ عمد میں دیت عاقلہ پر واجب ہے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: قبیلہ ہذیل کی دو عورتیں آپس میں لڑنے لگیں، ایک نے دوسری کو پتھر مارا جس سے وہ اور اس کا جنین مر گیا، مقتولہ کے ورثاء رسول اللہ ﷺ کے پاس مقدمہ لے کر آئے تو آنحضرت ﷺ نے فیصلہ یہ کیا کہ اس کے جنین کی دیت، غرہ یعنی غلام یا لونڈی مقرر فرمائی اور اس عورت کی دیت کا فیصلہ اس کی عاقلہ کے اوپر کیا۔ اور اس کی اولاد وغیرہ کو اس کا وارث قرار دیا۔^۲

قتل خطاء

قتل خطاء کی دو قسمیں ہیں، ایک خطاء فی القصد، وہ یہ ہے کہ ایک شخص کو شکار خیال کر کے اس پر تیر وغیرہ چلائے، پھر معلوم ہو کہ وہ تو مسلمان آدمی ہے۔ دوسری قسم خطاء فی الفعل ہے، وہ یہ ہے کہ شکار کو ہدف بنا کر اس پر تیر چلائے اور وہ غلطی سے کسی انسان کو لگ جائے یا اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل کسی کے ساتھ ٹکرا دے اور دوسرے کو بلا قصد قتل کر دے۔

قتل خطاء کا حکم

قتل خطاء کا حکم یہ ہے کہ قاتل پر اس کا کفارہ اور عاقلہ پر دیت لازم ہوگی۔ کفارہ کے وجوب پر یہ آیت کریمہ دلیل ہے:

﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ..... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ﴾ [النساء: ۹۲]: ”اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو وہ ایک مومن غلام آزاد کرے اور دیت ہوگی جو اس کے گھر کے لوگوں کے حوالہ کی جائے گی..... پس جو شخص مومن غلام نہ پائے وہ لگاتار دو ماہ کے روزے رکھے، اللہ سے توبہ کرتے ہوئے۔“

اور اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: رفع عن امتی الخطاء

والنسیان وما استکرهوا علیہ یعنی ”میری امت سے خطا و نسیان اور جس کام پر ان کو مجبور کیا جائے، یہ سب کچھ اٹھالیا گیا ہے۔“ صرف قتل کے گناہ کی نفی کی گئی ہے لیکن اس سے احتراز نہ کرنے کا گناہ ہوگا، قتل خطا میں بھی قاتل میراث سے محروم ہوگا کیونکہ یہاں ممکن ہے کہ اس نے قتل کا قصد کیا ہو اور خطا کو ظاہر کیا ہو، پس اس پر تہمت کے سبب میراث ساقط ہوگی۔

کونسا قتل مانع میراث ہے اور کونسا نہیں؟

(۱) ہر وہ قتل جس کے ساتھ قصاص یا کفارہ کا تعلق ہو وہ مانع میراث ہے۔ اس کی چند صورتیں یہ ہیں۔ (الف) جس قتل سے قصاص کا تعلق ہوتا ہے وہ قتل عمد ہے اور اس میں اہل قصاص نے قاتل کو معاف نہ کیا ہو اور اس میں کفارہ واجب نہیں ہوتا۔

(ب) جس قتل سے کفارہ کا تعلق ہوتا ہے اور جس میں دھاردار آلہ کے بغیر مارا ہو اور وہ شدت ضرب سے مرگیا ہو وہ قتل شبہ عمد ہے۔ اور شبہ عمد میں کفارہ واجب ہوتا ہے۔ (ج) چوپائے کے ذریعہ قتل کرنا، یعنی اس چوپائے نے کسی کو روند ڈالا جبکہ وہ اس پر سوار تھا۔ (د) نیند کی حالت میں اپنے مورث پر کروٹ بدل کر اس کو مار دیا۔ (ہ) اس پر چھت گری اور مورث مرگیا (و) اس کے ہاتھ سے پتھر گرا اور اس سے اس کا مورث مارا گیا یا اینٹ یا لکڑی یا لوہا گرنے سے وہ مرگیا، یہ تمام چیزیں کفارہ واجب کرتی ہیں اور اگر وہ وارث ہو تو میراث سے محروم کرتی ہیں اور اگر اجنبی ہو تو وصیت سے محروم کرتی ہیں۔

(۲) جن صورتوں میں نہ قصاص متعلق ہوتا ہے اور نہ ہی کفارہ، وہ یہ ہیں۔ (الف) چھوٹے بچے کا اپنے مورث کو قتل کرنا احناف کے ہاں یہ مانع میراث نہیں ہے۔ (ب) دیوانہ کا اپنے مورث کو قتل کرنا، یہ بھی احناف کے ہاں مانع میراث نہیں ہے (ج) مورث کو کسی سبب کے ساتھ قتل کرنا، جسے راستہ میں دیوار بنائی اور اس نے (مورث نے) اس کے ساتھ ٹیک لگائی تو وہ دیوار اس پر گر گئی یا راستہ میں کنواں کھودا تھا اور اس میں اس کا مورث گر گیا اور مر گیا تو یہ بھی مانع میراث نہیں ہے۔ (د) اپنے مورث کو قصاصاً یا رجماً قتل کرنا یا اس کے خلاف زنا کی گواہی دی ہو پھر اسے رحم آ گیا تو یہ بھی مانع میراث نہیں ہے۔ (ہ) اپنا دفاع کرتے ہوئے اپنے باغی (ظالم) مورث کو قتل کر دیا، یہ بھی میراث نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ صورت موجب قصاص نہیں ہے اور ان تمام حالات میں کفارہ نہیں ہے۔

اگر باغی نے عادل کو قتل کیا اور باغی کہتا ہے کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے اور میں باطل

پر تھا اور اب بھی میں باطل پر ہوں تو وہ بالا جماع اس کا وارث نہ ہوگا۔ اور اگر کہے کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے اور میں خود کو حق پر سمجھتا ہوں اور اب بھی میں حق پر ہوں تو امام ابوحنیفہؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک اس کا وارث ہوگا کیونکہ یہ ایسا قتل ہے جو موجب قصاص نہیں ہے اور اس کے لیے کفارہ ہے۔ امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اس صورت میں بھی وہ اس کا وارث نہ ہوگا کیونکہ اس نے اس کو ناحق قتل کیا ہے۔

باپ جب اپنے بیٹے کو عمداً قتل کرے تو اس میں نہ قصاص واجب ہوگا اور نہ ہی کفارہ، قصاص تو اس لیے واجب نہ ہوگا کہ وہ ابتداءً واجب ہوا لیکن شبہ کی بنا پر ساقط ہو گیا اور وہ اس کا وارث نہ ہوگا۔

جاری مجرائے قتل خطا

جب سونے والا شخص دوسرے آدمی پر کروٹ کیلئے اور اس کو مار ڈالے تو اس کا حکم قتل خطا کی طرح ہے، پس قصاص ساقط ہوگا اور دیت عاقلہ پر واجب ہوگی اور میراث سے محروم ہوگا اور کفارہ واجب ہوگا۔ قصاص اس لیے ساقط ہو جائے کہ اس نے اس کو قصداً قتل نہیں کیا اور دیت کا وجوب اس بنا پر ہے کہ دوسرا شخص اس کے فعل سے مراد ہے اور کفارہ کے وجوب کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے بوجھ کی وجہ سے مراد ہے اور میراث سے محرومی کا سبب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کو قتل کرنے کے قصد کیا ہو اور خود کو سوتا ہوا ظاہر کیا ہو، اسے قتل خطا کے قائم مقام قرار دیا گیا گو کہ قتل خطا کا ہی حکم اس سے متعلق ہوتا ہے، اس لیے کہ سونے والے کا کوئی قصد نہیں ہوتا، پس اس کے فعل کو نہ تو عمد (قصد) کے ساتھ متصف کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی خطا کے ساتھ اس وجہ سے اس خطا کے لفظ کا اطلاق نہیں کیا گیا۔

قتل بالسبب

قتل بالسبب کی مثال جیسے کوئی شخص اپنے ملکیت والی جگہ میں کنواں کھودے یا غیر ملکیت والی جگہ میں پتھر رکھ دے یا کسی نے اپنی گاڑی راستہ میں کھڑی کر دی، پس ایک آدمی اس کے ساتھ ٹکرا کر مر گیا یا اوپر سے کوئی آدمی اس پر گرا اور مر گیا تو کنواں کھودنے والا یا پتھر رکھنے والا نہ تو قصداً قتل کرنے والا ہے اور نہ ہی خطا قتل کرنے والا ہے، وہ اس میں صرف سبب کا درجہ رکھتا ہے۔

اس کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس میں گر کر ہلاک ہو جائے تو ویت عاقلہ پر ہوگی اور اس قتل میں کفارہ نہیں ہے کیونکہ وہ بذات خود قتل کے فعل میں ملوث نہیں ہے اور مقتول اس کے بوجھ سے بھی نہیں گرا۔ اور یہ مسئلہ راکب علی الدابہ (چوپائے پر سوار شخص) کے بھی مشابہ نہیں ہے کہ جب وہ چوپایہ کسی آدمی کو روند کر مار ڈالے تو اس میں کفارہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں قتل، راکب (سوار) کے قتل اور جانور کو روندنے کے سبب ہوا۔

ایک شخص چوپائے پر سوار ہے اور اس چوپائے کو ایک شخص ہانکے لے جا رہا ہے، اس چوپائے نے کسی انسان کو روند ڈالا جس سے وہ مر گیا تو ہانکنے والے پر کوئی کفارہ نہیں ہے کیونکہ اس نے قتل کا فعل خود انجام نہیں دیا اور مقتول اس کے قتل کی وجہ سے بھی نہیں مرا۔

کنواں کھودنے، پتھر یا گاڑی یا موٹر سائیکل راستہ میں کھڑی کرنے کے سبب میراث سے محرومی نہ ہوگی کیونکہ یہ سب لوگ اس میں متہم نہیں ہیں، یہ سب صورتیں اس وقت ہیں جب لوگوں کی عام گزرگاہ میں کنواں وغیرہ کھودے لیکن اگر وہ عام گزرگاہ نہ ہو تو اس پر کوئی ضمان (تاوان) نہ ہوگا۔ اگر لوگوں کی عام گزرگاہ پر پتھر رکھا یا لوگوں کے عام راستہ میں گاڑی کھڑی کر دی تو نقصان ہونے پر ضامن ہوگا۔ اگر اپنی ملکیت والی جگہ میں کنواں کھودا ہو یا اپنی ملکیت والی جگہ میں پتھر یا گاڑی کھڑی کی ہو تو پھر اس پر کوئی ضمان نہ ہوگا۔

جو امور موجب قصاص ہیں

آزاد آدمی کو آزاد کے بدلے قتل کیا جائے گا اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ [البقرة: ۱۷۸] یعنی ”آزاد کو آزاد کے بدلے قتل کیا جائے گا“ اور قصاص قاتل پر ہوگا، دوسرے پر نہیں ہوگا چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت مبارکہ: فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ﴿[الاسراء: ۳۳] کی تفسیر یہ کی ہے کہ ایک کے بدلے دو کو قتل نہ کیا جائے گا۔ اور قاتل کے علاوہ کسی دوسرے کو قتل نہ کیا جائے گا اور اس کو مثلہ بھی نہیں کیا جائے گا۔

حضرت قتادہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ذی شان: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ [البقرة: ۱۷۸] کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا: زمانہ جاہلیت میں لوگ زیادتی کیا کرتے تھے اور شیطان کی پیروی

کرتے تھے، ایک قبیلہ کا حال یہ تھا کہ اگر اس کے پاس قوت و شوکت ہوتی اور دوسری قوم کا غلام ان کے غلام کو قتل کر دیتا تو کہتے کہ ہم تو اس (غلام) کے بدلے میں ان کا آزاد آدمی قتل کریں گے۔ تاکہ دوسرے قبیلہ پر ان کی برتری ظاہر ہو۔ اور جب ان کی کسی عورت کو دوسری قوم کی عورت قتل کر دیتی تو کہتے ہیں کہ ہم اس کے بدلے میں مرد ہی کو قتل کریں گے، اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا اور خبر دی کہ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ یعنی غلام کے بدلے میں غلام اور عورت کے بدلے میں عورت ہی قتل کی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ظلم اور زیادتی سے منع فرمایا، پھر سورہ مائدہ نازل فرمائی چنانچہ ارشاد فرمایا: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ﴿۳۵﴾ [المائدة: ۳۵] ”اور ہم نے ان پر فرض کر دیا ہے کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت ہیں اور زخموں میں قصاص ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے ہر مجرم کے جرم کو اسی پر لازم کیا ہے، کسی کے جرم کو دوسرے پر نہیں ڈالا، حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: خبردار! ہر جنایت کرنے والا اپنے اوپر ہی جنایت کرتا ہے، والد اپنی اولاد پر جنایت نہیں کرتا اور نہ ہی بچہ اپنے والد پر جنایت کرتا ہے۔“^۱

محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر محمد بن علیؒ سے پوچھا کہ جو صحیفہ رسول اللہ ﷺ کی تلوار کے نیام میں تھا اس میں کیا احکام مرقوم تھے؟ انہوں نے کہا کہ اس صحیفہ میں تھا: لعن الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه، ومن تولى غير ولى نعمته فقد كفر بما انزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم

آزاد کو غلام کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ۳۵]

پس جب غلام مسلمان ہو تو اس کے بدلے آزاد آدمی کو قتل کیا جائے گا کیونکہ عصمت خون میں دونوں برابر ہیں لہذا قصاص واجب ہوگا۔ نیز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے ”المسلمون تتكافأ دماؤهم“ یعنی تمام مسلمانوں کے خون (جانیں) یکساں ہیں۔^۲

مرد کو عورت کے بدلے اور چھوٹے کو بڑے کے بدلے قتل کیا جائے گا کیونکہ نصوص مطلق ہیں۔ چنانچہ حضرت سعید بن المسیبؒ فرماتے ہیں کہ مرد اگر عورت کو قتل کرے تو اس کو

۱ [سنن البیہقی ۸/۲۷۷] ۲ [لسان العرب ۱/۱۳۰]

عورت کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ ”یعنی ہم نے ان پر فرض کر دیا ہے کہ جان کے بدلے جان ہوگی۔“^۱

نیز عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمان کے خون باہم برابر ہیں اور وہ دوسروں پر ایک قوت رکھتے ہیں۔^۲

اور حدیث علی رضی اللہ عنہ میں یہ الفاظ ہیں: ”تمام مسلمانوں کے خون برابر ہیں اور ان میں ادنیٰ شخص بھی ان کو پناہ دینے کی کوشش کر سکتا ہے اور وہ دوسروں پر ایک قوت رکھتے ہیں۔“^۳

تندرست کو اپنا بچ، اندھے، دیوانے اور ناقص الاطراف کے بدلے قتل کیا جائے گا کیونکہ سابقہ نصوص میں تقسیم ہے۔ حتیٰ کہ اگر ایک آدمی نے ایسے شخص کو قتل کیا جس کے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، دونوں کان اور آکہ تناسل مقطوع تھا اور دونوں آنکھیں بھی مفقود تھیں تو اگر عمداً قتل کیا ہو تو اس میں بھی قصاص واجب ہوگا۔

جب بیٹا اپنے باپ یا ماں یا دادا وغیرہ (اسی طرح اوپر تک) کو قتل کرے تو نفس اور مادون النفس قصاص دونوں میں واجب ہوگا اگر قتل عمداً ہو۔ اور اگر قتل خطا ہو تو عاقلہ پر دیت واجب ہوگی۔

اگر ایک سے زیادہ افراد ایک شخص کے قتل کے قتل عمداً میں شریک ہوں تو اس ایک آدمی کے بدلے سب کو قتل کیا جائے گا چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”صنعاء میں ایک بچہ کو دھوکہ سے قتل کیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس بچہ کے بدلے سات آدمیوں کو قتل کیا اور فرمایا کہ اگر صنعاء کے رہنے والے تمام لوگ بھی اس میں شریک ہوتے تو میں سب کو قتل کرواتا۔“^۴

اگر ایک آدمی ایک جماعت کو قتل کرے تو اسے اس جماعت کے بدلے قتل کیا جائے گا اور جماعت میں سے ہر ایک اپنا پورا حق لینے والا ہوگا۔

جب کوئی شخص کسی کو عمداً زخمی کرے اور وہ زخمی مرجائے تو اس میں قصاص ہوگا جبکہ کوئی اور ایسا عارض (سبب) پیش نہ آئے جس کی طرف اس کی موت کی نسبت ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اس نے اس کو عمداً قتل کیا ہے۔

۱ [سنن البیہقی ۲۸/۸] ۲ [سنن البیہقی ۲۹/۸]

۳ [سنن البیہقی ۲۳۸/۸] ۴ [سنن البیہقی ۳۱/۸]

جب کوئی شخص ایک انسان پر گولی چلائے اور وہ گولی اس سے نکل کر دوسرے کو بھی لگ جائے اور وہ دونوں مرجائیں تو پہلا قتل عمداً ہوگا کیونکہ اس نے اس پر گولی چلانے کا قصد کیا ہے اور اس میں قصاص ہوگا اور دوسرا قتل خطاء ہوگا کیونکہ اس کو مارنا مقصود نہ تھا لہذا وہ خطاء ہوگا۔

جو امور موجب قصاص نہیں ہیں

(الف) باپ کو اپنے بیٹے کے بدلے قتل نہ کیا جائے گا۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے، ”لایقاد الاب من ابنہ“ ”یعنی باپ سے اس کے بیٹے کا قصاص نہیں لیا جائے گا۔“ بیٹے کے قتل کی صورت میں قاتل کے مال میں دیت واجب ہوگی کیونکہ یہ قتل عمد ہے اور عاقلہ قتل عمد کی دیت نہیں دیتی اور یہ دیت تین سال میں ادا کرنا واجب ہوگی۔

یہی حکم ہے جب باپ مادون النفس میں بیٹے پر کوئی جنایت کرے۔ دادنے اور اوپر تک کے آباء کا بھی یہی حکم ہے کہ پوتے کے بدلے دادا کو قتل نہ کیا جائے گا۔ ماں کی طرف سے جو دادا ہو اس کا بھی یہی حکم ہے، اگرچہ اوپر تک دادے کا اور پوتے کا نیچے تک سلسلہ چلا جائے۔ یہی حکم ہے ماں کا اگرچہ اس کا سلسلہ اوپر تک چلا جائے، حقیقی دادیوں کا بھی یہی حکم ہے اگرچہ اوپر تک سلسلہ چلا جائے۔

اس کی دلیل عمرو بن شعیب کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بن العاص فرماتے ہیں: ”میں نے بنو مدجن کے ایک آدمی کو ایک باندی بطور عطیہ دی، اس باندی سے اس کا بیٹا ہوا، وہ اس باندی سے کام لیتا رہا جب بچہ جوان ہوا تو ایک روز اس نے باندی کو بلایا اور کہا کہ تم فلاں فلاں کام کرو (یہ سن کر) اس کے بیٹے نے کہا کہ جب تک تم میری ماں کو باندی بنائے رکھو گے وہ تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ اس پر اس کو خصہ آگیا، اپنی تلوار نکالی اور اس کی ٹانگ پر ماری، اس وار سے لڑکا مر گیا ایک دن وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے پاس اپنی قوم کے ساتھ پیش ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ”اے اپنی جان کے دشمن! تم وہی ہو جس نے اپنے بیٹے کو قتل کیا تھا؟ اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ ”لایقاد الاب من ابنہ“ یعنی باپ سے بیٹے کا قصاص نہیں لیا جائے گا تو میں تجھے ضرور قتل کر دیتا، اس کی دیت لاؤ (راوی) کہتے ہیں کہ وہ پھر ایک سو بیس یا تیس اونٹ لایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے ان میں سے سو اونٹ منتخب کیے اور اس کے ورثہ کو دے دیئے اور اس کے باپ کو چھوڑ دیا۔“

تنبیہ

ایسا کیوں ہے کہ باپ پر تو قصاص نہیں ہے لیکن بیٹے پر قصاص ہے؟ اس میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے اجزاء کے حکم میں ہوتا ہے اور انسان کے اپنے بعض اجزاء میں قصاص واجب نہیں ہوتا لیکن باپ بیٹے کے جزء کے حکم میں نہیں ہے، پس وہ اس کے لیے اجنبی کی طرح ہے۔

(ب) ایک آدمی نے اپنی بیوی کے باپ (خسر) کو قتل کر دیا تو قصاص لینے کی دیت عورت کو حاصل تھی، پھر وہ عورت بھی مرگئی اور اس قاتل سے اس کی اولاد بھی ہے تو وہ اس قصاص کا وارث ہوگا جو (قصاص) اس کے باپ پر واجب تھا، پس جو اپنے باپ پر قصاص کا وارث ہوگا اس کا قصاص باپ کی حرمت کی وجہ سے ساقط ہو جائے گا اور جب قصاص ساقط ہو گیا تو دیت واجب ہوگی۔

(ج) اگر دو آدمی ایک شخص کے قتل میں شریک ہوئے تو ایک پر قصاص واجب ہوگا اگر وہ منفرد تھا اور دوسرا اجنبی یا باپ کی طرح ہے، اس پر قصاص واجب نہ ہوگا۔ یا خطا اور عمداً قتل کرنے والا ہے یا ایک نے تلوار سے اور دوسرے نے لٹھی سے مارا تو دونوں پر قصاص واجب نہ ہوگا اور دیت واجب ہوگی، جس پر قصاص واجب نہ ہو اگر وہ منفرد تھا تو دیت اس کی عاقلہ پر واجب ہوگی جیسا کہ قتل خطا کرنے والے پر دیت ہوتی ہے اور جس پر قصاص واجب ہو اگر وہ منفرد تھا تو اسی کے مال میں دیت واجب ہوگی۔

اگر باپ اور اجنبی دونوں قتل میں شریک ہوئے ہوں تو دونوں کے مال میں دیت واجب ہوگی کیونکہ اگر باپ منفرد ہو تو اس کے مال میں دیت واجب ہوگی۔

تلوار سے قصاص لینا

قصاص تلوار سے لیا جائے گا، خواہ قاتل نے تلوار سے قتل کیا ہو یا کسی اور دھاردار آلہ سے یا آگ میں جلایا ہو، اس کی دلیل حضرت حسنؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "لا قود الا بالسيف" یعنی "قصاص تلوار ہی ہوگا۔"

حضرت حسنؓ سے پوچھا گیا کہ آپ ﷺ یہ روایت کسی سے لی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو اس روایت کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے۔

نیز تلوار سے قتل کرنے میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی تعذیب نہیں ہے کیونکہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا، میں نے نبی کریم ﷺ سے دو باتیں سماعت کی ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان (خوبی سے کرنا) لکھ دیا ہے، پس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقہ سے قتل کرو اور جب ذبح کرو تو اچھے طریقہ سے ذبح کرو اور تمہیں اپنی چھری تیز کرنی چاہیے اور اپنے ذبیحہ کو راست دینی چاہیے۔“

قصاص فی الاطراف کا حکم

جس نے دوسرے کا ہاتھ پہنچے سے عمداً کاٹا، اگرچہ مقطوع کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ بڑا ہو تو ہاتھ ٹھیک ہونے کے بعد اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ٹھیک ہونے سے قبل قصاص نہیں لیا جائے گا، اگر پاؤں یا گھٹنا یا نرمہ بینی یا کان کاٹا تو بھی یہی حکم ہے، اگر اس کی جڑ سے کاٹا تو قصاص واجب ہوگا۔ کیونکہ مماثلت کی رعایت ممکن ہے۔ اگر کچھ حصہ کاٹا اور مماثلت ممکن ہے تو اس کے بقدر تو قصاص واجب ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اگر سارا ناک یا کچھ حصہ کاٹ دیا تو قصاص نہیں ہے کیونکہ ناک ایک ہڈی ہے اور ہڈی میں مماثلت ناممکن ہونے کی وجہ سے قصاص نہیں ہے۔ دانت اس سے مستثنیٰ ہے جس نے کسی آدمی کی آنکھ پر ضرب لگائی جس سے اس کی آنکھ باہر نکل آئی تو قصاص نہیں ہے کیونکہ مماثلت کی رعایت ممکن نہیں ہے اور اس کا معاوضہ دینا واجب ہوگا۔ اگر آنکھ بیٹھی نہیں بلکہ قائم ہے صرف اس کی روشنی جاتی رہی تو قصاص ہوگا بایں طور کہ ضارب کے منہ پر بھیگی ہوئی روٹی رکھ کر اس کی آنکھ کے مقابل گرم آئینہ رکھا جائے یہاں تک کہ اس کی روشنی زائل ہو جائے۔ یہ حکم خلافت عثمانیہ میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی تجویز سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں ہوا تھا۔ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ بائیں آنکھ کے بدلے دائیں آنکھ اور دائیں آنکھ کے بدلے بائیں آنکھ، اسی طرح دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور ان کی انگلیاں قصاص میں ماخوذ نہ ہوں گی، دائیں ہاتھ کا انگوٹھا بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے بدلے اور ایک ہاتھ کی انگشت شہادت دوسرے ہاتھ کی انگشت شہادت کے بدلے اور ایک ہاتھ کی درمیانی انگلی دوسرے ہاتھ کی درمیانی انگلی کے بدلے میں قصاص کے اندر ماخوذ نہ ہوگی۔ دائیں ہاتھ کا عضو اس کے مثل کے بدلے ماخوذ ہوگا اور بائیں ہاتھ کا بھی بائیں ہاتھ ہی کے بدلے میں ماخوذ ہوگا۔

دائیں جانب کے دانت دائیں جانب کے دانت کے بدلے اور سامنے کے دانت سامنے کے دانت کے بدلے، ڈاڑھ، ڈاڑھ کے بدلے قصاص میں ماخوذ ہوں گے۔

اگر دو آدمی کسی کا ہاتھ عمداً کاٹ دیں تو کسی پر بھی قصاص نہ ہوگا اور ان دونوں پر تمام انسان کی نصف دیت ہوگی کیونکہ ہاتھ کی دیت جان کی دیت سے نصف ہوتی ہے اور یہ دیت ان دونوں پر آدھی آدھی ہوگی۔ اگر دو آدمی کسی پر مادون النفس میں جنایت کریں اور وہ جنایت ایسی ہو کہ اس میں ایک پر قصاص واجب ہوتا ہو تو اگر وہ منفرد تھا تو ان دونوں پر قصاص نہیں ہے جیسا کہ اگر دونوں مل کر کسی کا دانت نکال دیں یا ہاتھ یا پاؤں کاٹ دیں تو ان دونوں پر دانت کی دیت لازم ہوگی۔ اس کو ارش بھی کہتے ہیں اگر دو سے زیادہ ہوں تو ان سب پر قصاص نہیں ہوگا اور ان پر برابر طریقہ سے ان کی تعداد کے مطابق ارش (دیت) ہوگی۔

اگر ایک شخص نے دو آدمیوں کے دونوں دائیں ہاتھ کاٹ دیئے اور وہ دونوں حاضر ہوئے تو ان دونوں کو اختیار ہے کہ وہ اس کا بھی دایاں ہاتھ کاٹ دیں اور اس سے نصف دیت لیں جس کو وہ نصف نصف تقسیم کر لیں گے کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک نے اپنا بعض حق لے لیا اور نصف حصہ باقی رہ گیا، پس وہ اس مقدار کے لیے آرش (دیت) کی طرف رجوع کرے گا۔ اگر ان دونوں میں سے ایک حاضر ہو تو وہ اس کا ہاتھ کاٹے گا۔ اور دوسرے کے لیے نصف دیت ہوگی اور دوسرے کی عدم موجودگی کے باوجود اس کے لیے قطع کا حق ثابت ہوگا کیونکہ اس کا حق سارے ہاتھ میں ثابت ہے اور بعض سے اس کے حق کا سقوط مزاحمت کی وجہ سے ہے۔ پس جب دوسرا غائب تھا تو کوئی مزاحمت نہیں ہے لہذا اس کے لیے قصاص لینا جائز ہوگا اور اس پر لازم نہیں کہ وہ غائب کا انتظار کرے کیونکہ غائب شخص مطالبہ بھی کر سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے۔ پس جب غائب شخص حاضر ہوگا تو اس کے ہاتھ کی دیت اس کے لیے تھی، جب ان میں سے ایک نے معاف کر دیا تو اس کا حق باطل ہو گیا اور دوسرے کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کا ہاتھ کاٹے۔ جس پر قصاص واجب تھا وہ مر گیا تو محل فوت ہونے کی بنا پر قصاص ساقط ہو جائے گا۔

اگر تاطع کا ہاتھ آسمانی آفت کی وجہ سے ختم ہو گیا تو اس پر کچھ نہ ہوگا کیونکہ جس محل میں قصاص کا تعین تھا وہ موجود نہیں ہے۔ جس نے دوسرے کا ہاتھ قصداً کاٹ کر اس کو عمداً قتل بھی کر دیا حالانکہ مقطوع کا ہاتھ ابھی ٹھیک نہیں ہوا تھا تو حاکم چاہے تو حکم دے دے کہ اس کا بھی ہاتھ کاٹ دو، پھر اس کو بھی قتل کر دو اور اگر چاہے تو حکم دے کہ اس کو قتل کر دو۔ یہ امام ابوحنیفہ کا قول ہے۔ صاحبین کے نزدیک ہاتھ کا حکم ساقط ہوگا اور اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگر قاطع کا ہاتھ

شل ہو یا وہ ناقص الاصابع ہو تو مقطوع اگر چاہے تو اسی عیب زدہ ہاتھ کو کٹوالے اور اگر چاہے تو اپنے ہاتھ کی دیت لے لے کیونکہ پورا حق لینا ناممکن ہے۔ اگر اس کا عیب زدہ ہاتھ گر گیا یا ظلماً کاٹ دیا گیا تو اس پر کچھ نہ ہوگا۔ کیونکہ اس کا حق قصاص میں متعین ہے اور وہ اس کے اختیار سے مال بن گیا ہے۔ لہذا فوات محل کی وجہ سے قصاص ساقط ہوگا۔ اگر ایک آدمی نے دوسرے کے سر پر کاری ضرب لگائی اور اسے زخمی کر دیا اور زخمی کرنے والے کا سر چھوٹا ہے تو اس کا حکم بھی مسئلہ سابقہ کی طرح ہوگا اور اگر اس کا سر اس سے بڑا ہے تو زخمی آدمی چاہے تو اپنے زخم کے بقدر کچھ لے لے اور اگر چاہے اس کی ارش (دیت) لے لے۔ اگر زخم نے پیشانی سے اس کی گدی تک کے حصے کو گھیر لیا اور زخمی کرنے والے کی گدی کو نہیں پہنچا تو اسے اختیار ہوگا۔ جو شخص دوسرے کے ہاتھ کو کاٹ دے پھر مقطوع نے قطع یہ معاف کر دیا پھر مقطوع مر جائے تو کاٹنے والے پر اسی کے مال میں دیت لازم ہوگی۔ اگر اس نے قطع ید اور اس سے پیش آنے والی صورت حال کو معاف کیا ہو تو وہ جان کی معافی ہوگی اور زخمی کرنے کا حکم وہی ہے جو کاٹنے کا ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ ان دونوں مسکوں میں عضو عن النفس ہوگا کیونکہ قطع سے معاف کرنا یا زخم سے معاف کرنا اصل میں اس کے حکم سے معاف کرنا ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر ٹھیک ہو جائے تو ہاتھ کاٹا جائے اور اگر سرایت کرے تو قتل کیا جائے، دونوں میں سے جو بھی متحقق ہوگا معافی اس سے ہوگی۔ اور یہ ایسا ہوگا جیسے اگر وہ جنایت کو معاف کر دے تو وہ جنایت مقتصرہ کو شامل ہوگا اور جنایت ساریہ کا حکم بھی یہی ہے۔

امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ اس نے معصوم جان کو عمداً قتل کیا ہے لہذا قیاساً قصاص واجب ہوگا۔ اور معافی قطع سے ہوئی ہے نہ کہ قتل سے۔ البتہ ہم یہ کہیں گے کہ اسی کے مال میں استحساناً دیت واجب ہوگی کیونکہ معافی کی صورت پائی گئی ہے اور یہ چیز ایسے شبہ کا موجب ہے جو قصاص کو ساقط کرنے والا ہے اور اگر اس نے جنایت کو ہی معاف کر دیا ہو تو اس کا حکم اس کے خلاف ہے کہ یہ قتل کی معافی ہوگی۔ اسی طرح اگر اس نے اس قطع کے نتیجے میں پیدا ہونے والی حالت کو معاف کر دیا ہو تو یہ بھی اس کے خلاف ہے کیونکہ یہ عفو عن القتل میں صریح ہے۔ زبان اور ذکر کے کاٹنے میں قصاص نہیں ہوگا، اگرچہ ان کو جڑ سے کاٹ دے کیونکہ زبان سکڑتی اور پھیلتی ہے اس لیے اس میں مساوات کی رعایت ممکن نہیں ہے لیکن اگر ذکر حشفہ (سپاری) کاٹ دی ہو تو قصاص ہوگا کیونکہ قطع کی جگہ مفصل (پہنچا) کی طرح متعین ہے۔ اگر ذکر یا حشفہ کا بعض حصہ کاٹا تو قصاص نہیں ہوگا کیونکہ بعض کی مقدار متعین نہیں ہے۔

اگر ہونٹ کا کچھ حصہ کاٹ دیا تو اس میں قصاص نہ ہوگا کیونکہ اس کا اعتبار کرنا ناممکن ہے لیکن اگر کاٹنے والے نے پورا ہونٹ کاٹ دیا تو قصاص واجب ہوگا۔

اسلحہ تاننے کا حکم

اگر کوئی شخص قتل کے ارادے سے مسلمانوں پر تلوار یا بندوق یا کوئی اور آگہ حرب سونتے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کو قتل کر دیں کیونکہ وہ آدمی باغی (ظالم) ہے اور اپنے سے ضرر کا دفعیہ واجب ہے اور وہ آدمی زیادتی کی وجہ سے معصوم الدم نہ رہا کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: من سل السیف فلیس منا یعنی ”جو (ہم پر) تلوار سونتے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“^۱

نیز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا من حمل علينا السلام فلیس منا یعنی جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“^۲

نیز آپ ﷺ نے فرمایا: من شہر سیفہ ثم وضعه قدمه ہدر یعنی ”جو شخص اپنی تلوار نکالے پھر اس کو چلائے تو اس کا خون رائیگاں ہے۔“^۳

نیز حضرت علقمہ بن ابی علقمہ اپنی والدہ سے نقل کرتے ہیں کہ فلاں شخص میرے باپ کا غلام تھا اور میرے والد بعض کاموں پر اس کو مارتے اور سزا دیا کرتے تھے۔ اور وہ غلام اپنے آقا سے عداوت رکھتا تھا، پس میرے والد نے اس کو بیچ دیا، ایک دن اس غلام سے ان کی ملاقات ہوئی، اس وقت غلام کے پاس تلوار تھی اور سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کے دور امارت کی بات ہے چنانچہ اس غلام نے میرے والد پر تلوار سونتی اور ان پر حملہ کیا تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، میرے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے اور غلام کی حرکت کی ان کو خبر دی تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ”من أشار بحدیۃ الی أحد من المسلمین یرید قتله فقد وجب دمہ یعنی ”جو شخص کسی مسلمان پر ہتھیار تانے اور اس کا ارادہ اس کو قتل کرنے کا ہو تو اس کا خون واجب ہو جاتا ہے۔“ (راویہ) کہتی ہیں کہ اس کے بعد میرے والد وہاں سے نکلے اور غلام کے اس آقا کے پاس گئے جس کے ہاتھ اس کو بیچا تھا، اس سے بیع فسخ کی اور غلام واپس لیا پھر اس کو پکڑا اور قتل کر دیا۔“^۴

۱ [صحیح مسلم ۱/۸] ۲ [صحیح البخاری ۱۳۴۲] ۳ [المستدرک ۲/۱۵۹]

۴ [المستدرک ۲/۱۵۸] [حدیث صحیح علی شرط الشیخین رواہ الحاکم وخرجہ الذہبی]

اگر کوئی شخص رات کو یا دن کو کسی پر اسلحہ (ہتھیار) تانے یا شہر میں رات کے وقت کسی پر لٹھی اٹھائے یا شہر سے سوار راستہ عام میں دن کو ایسا کام کیا اور دوسرے (جس پر اسلحہ تانا گیا) نے اس کو عمداً قتل کر دیا تو اس پر کچھ لازم نہ ہوگا کیونکہ اسلحہ و ہتھیار میں مضروب کو قتل کرنے کیلئے کوئی مدت درکار نہیں ہوتی، پس دوسرے کے لیے جائز ہوگا کہ وہ قتل کے ساتھ اس کو دفع کرے اور لٹھی میں اگرچہ مضروب کو قتل کرنے کیلئے کچھ مدت درکار ہوتی ہے، پس اگر ایسا واقعہ شہر سے باہر یا رات کے وقت پیش آئے تو مضروب کسی سے فریاد کرنے کی استطاعت کا متحمل نہ ہوگا اور کوئی مددگار اسے مل نہ پائے گا، پس وہ (مضروب) اس امر پر مجبور ہوگا کہ وہ ضارب کو قتل کر کے ہی اس سے نجات حاصل کرے۔

اگر کسی دیوانے نے دوسرے پر ہتھیار اٹھایا اور دوسرے (جس پر ہتھیار اٹھایا گیا) نے اس کو عمداً قتل کر دیا تو اس پر دیت ہوگی جو اس کے مال میں واجب ہوگی۔ جس نے دوسرے پر شہر میں ہتھیار اٹھایا اور دوسرے نے اس کو مارا پیٹا پھر کسی دوسرے نے اس کو قتل کر دیا تو دوسرے قاتل پر قصاص ہوگا۔

رات کے وقت کوئی شخص (گھر کے) اندر آیا اور اس نے سامان چرایا اور ساتھ لے گیا، پس وہ (گھر کا مالک) اس کے پیچھے گیا اور اس کو قتل کر دیا تو اس پر کچھ بھی لازم نہ ہوگا۔ اس کی دلیل فہد بن مطرف کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”ایک آدمی بارگاہ نبوی ﷺ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر کوئی شخص میرا مال لوٹنے کیلئے آئے تو آپ ﷺ کیا فرماتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اسے خدا اور دین اسلام کا واسطہ دو“ اس آدمی نے کہا کہ اگر میں واسطہ بھی دے دوں تو کیا حکم ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اپنے مال کے دفاع میں اس کے ساتھ قتال کرو۔“ اس آدمی نے دریافت کیا کہ اگر میں قتل ہو جاؤں تو؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”فی الجنۃ“ یعنی اس صورت میں تم جنت میں جاؤ گے، اس نے عرض کیا کہ اگر میں نے اس کو قتل کر دیا تو؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”فی النار“ یعنی وہ جہنم میں جائے گا“۔

دوسرے کے لیے قتل کا یہ جواز اس صورت میں ہے جبکہ قتل کے سوا اس کو ہٹانا اور دور کرنا ممکن نہ ہو۔

کتاب الدیات

دیت کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) دیت مغلظہ (۲) دیت غیر مغلظہ۔ دیت مغلظہ کی ادائیگی صرف اونٹوں کے ساتھ ہوتی ہے اور جس دیت میں اونٹ نہ دیئے جائیں وہ غیر مغلظہ ہوتی ہے۔

قتل شبہ عمد میں عاقلہ پر دیت مغلظہ واجب ہے۔ اور دیت مغلظہ شیخین کے نزدیک سو اونٹ ہیں جن میں ایک چوتھائی دو سالہ ایک چوتھائی تین سالہ ایک چوتھائی چار سالہ اور ایک چوتھائی پانچ سالہ ہوں گے۔ جبکہ امام محمدؒ کے نزدیک تیس اونٹ پانچ سالہ، تیس چار سالہ اور چالیس حاملہ اونٹیاں ہونی چاہئیں۔ اس مسئلہ میں امام صاحبؒ کا قول ہی مفتی بہ ہے اور قاتل پر کفارہ ہے کہ وہ ایک مومن غلام آزاد کرے اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو مسلسل دو مہینے روزے رکھے۔

قتل خطاء میں عاقلہ پر دیت غیر مغلظہ واجب ہے اور قاتل پر کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ دیت غیر مغلظہ سو اونٹ ہیں جو پانچ اقسام پر مشتمل ہوں گے۔ (۱) بیس عدد دو سالہ اونٹیاں (۲) بیس عدد دو سالہ اونٹ (۳) بیس عدد تین سالہ اونٹیاں (۴) بیس چار سالہ اونٹیاں (۵) بیس پانچ سالہ اونٹیاں۔

دیت میں سونے کی مقدار ایک ہزار دینار ہیں جو چار کلوگرام سونے کے برابر ہیں اور چاندی کی مقدار دس ہزار درہم یا بارہ ہزار درہم ہے جو ۳۴ کلوگرام اور آٹھ سوگرام چاندی کے برابر ہے۔

حضرت امام صاحبؒ کے نزدیک دیت کی ادائیگی صرف اونٹ، سونے اور چاندی کی صورت میں ہی ہو سکتی ہے اور یہی قول صحیح ہے۔ صاحبینؒ کے نزدیک سو گایوں، ایک ہزار بکریوں اور دو سو کپڑوں کے جوڑوں سے بھی دیت ادا ہو سکتی ہے جبکہ ہر جوڑے میں دو کپڑے ہوں۔

دیت کی قسطوں میں ادائیگی

سنت یہی ہے کہ دیت کو تین سالہ قسطوں میں ادا کیا جائے۔

عورت کی دیت

حضرت شعیبؓ سے مروی ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ عورتوں کے زخموں کی دیت مردوں سے نصف ہے۔ وہ زخم خواہ ہلکا ہو یا گہرا۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قتل اور زخم وغیرہ میں عورت کی دیت سے مراد سے آدمی ہے۔ یہ حدیث منقطع ہے مگر امام شعیبؓ کی روایت کیلئے مؤکد ہے۔

قتل کے علاوہ میں دیت

قتل نفس میں دیت واجب ہے اور اس میں چھوٹا، بڑا، رذیل، شریف، مسلم اور ذی سب برابر ہیں کیونکہ ان کی ذات حرمت اور حفاظت کے اعتبار سے برابر ہے۔ ناک کی نرم ہڈی توڑنے پر دیت واجب ہے کیونکہ اس کے ٹوٹنے سے خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے اور عضو کے جس حصے کے سبب، جنس منفعت فوت ہو جائے اس میں پوری دیت واجب ہوتی ہے کیونکہ اس سے جسم کیلئے استفادہ ممکن نہیں رہتا اور بدن اس عضو کے اعتبار سے بیکار اور ہلاک شدہ ہی متصور ہوگا۔ اگر ناک کا بانسہ (نتھنا) کاٹ دیا جائے تو اس کے ایک عضو ہونے کی وجہ سے ایک دیت واجب ہوگی۔

حضرت عبداللہ ابن ابی بکرؓ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے حضرت عمرو بن حرمؓ کو خط لکھا جس میں درج تھا کہ ناک کاٹنے کی دیت سواونٹ ہے۔^۱ بولنے والے کی زبان کو اگر کاٹ دیا جائے اور اس سے وہ بولنے یا اکثر حروف ادا کرنے سے عاجز آجائے تو اس صورت میں زبان کاٹنے والے پر کامل دیت واجب ہوگی جبکہ گونگے کی زبان کاٹنے پر ایک عادل آدمی کا فیصلہ معتبر ہوگا۔ حضرت عاصم بن ضمرہؓ سے مروی ہے کہ حضرت علیؓ نے ارشاد فرمایا: زبان میں دیت واجب ہے۔^۲

دونوں آنکھیں ضائع ہونے میں دیت واجب ہے اور دونوں آنکھوں کی پلکیں اور بھنویں ضائع ہونے کی صورت میں بھی دیت واجب ہے۔ حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ایک آنکھ ضائع ہونے میں پچاس اونٹ ہیں۔^۳ حضرت زید ابن ثابتؓ فرماتے ہیں کہ ایک آنکھ پلکوں میں ربع دیت واجب ہے۔^۴

۱ [بیہقی: ۱۸۷/۸] ۲ [بیہقی: ۱۸۷/۸]

۳ [بیہقی: ۱۸۷/۸] ۴ [بیہقی: ۱۸۷/۸]

ہونٹوں میں بھی دیت واجب ہے۔ حضرت ابو بکر بن محمدؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اہل یمن کو خط لکھا جس میں مذکور تھا کہ ہونٹوں کے ضائع ہونے میں دیت واجب ہے۔^۱ کانوں میں بھی دیت واجب ہے۔ نبی کریم ﷺ نے حضرت عمرو بن خرم کو خط لکھا جس میں مذکور تھا کہ ایک کان میں پچاس اونٹ دیت ہے۔ ہاتھ اور پاؤں میں بھی دیت واجب ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے حضرت عمرو بن خرم کو خط لکھا جس میں مذکور تھا کہ ہاتھ میں پچاس اونٹ دیت ہے اور پاؤں میں پچاس اونٹ دیت ہے اور ہاتھ پاؤں کی ہر انگلی کی دیت دس اونٹ ہیں۔^۲ تمام انگلیاں خواہ ہاتھ کی ہوں یا پاؤں کی منفعت میں برابر ہونے کی وجہ سے دیت میں بھی برابر ہیں۔ تین جوڑوں والی انگلی کے ایک جوڑے میں انگلی کی دیت کا تیسرا حصہ ہے اور دو جوڑوں والی انگلی کے ایک جوڑے میں انگلی کی نصف دیت ہے۔

کمر میں بھی دیت واجب ہے۔ نبی کریم ﷺ نے حضرت عمرو بن خرم کو خط لکھا جس میں مرقوم تھا کہ کمر میں دیت واجب ہے۔^۳

ہر دانت میں پانچ اونٹ دیت ہیں۔ حضرت عاصم بن ضمیرہؓ حضرت علیؓ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ دانت میں پانچ اونٹ دیت ہے۔ کھانت اور داڑھیں دیت میں برابر ہیں۔ البتہ اگر نکلے ہوئے دانت کی جگہ نیا اگر آگ آیا تو دیت ساقط ہو جائے گی۔

عورت کے پستان میں نصف دیت واجب ہے۔ حضرت ابن شہابؓ حضرت سعید ابن مسیبؓ سے روایت کرتے ہیں کہ عورت کے ایک پستان میں نصف دیت ہے اور دونوں پستانوں میں پوری دیت واجب ہے۔

سر، داڑھی اور بھنوں کے بابوں میں اگر دوبارہ نہ آگیں تو دیت واجب ہے۔ حضرت مکحولؓ حضرت زید بن ثابتؓ سے روایت کرتے ہیں کہ بالوں میں اگر وہ دوبارہ نہ آگیں تو دیت واجب ہے۔^۴

اگر کسی آدمی کے کسی عضو پر چوٹ لگائی جائے جس سے اس کی افادیت ختم ہو جائے خواہ وہ عضو باقی ہی ہو تو عضو کی کامل دیت واجب ہوگی۔ یہ عضو مقطوع ہی متصور ہوگا۔ جیسے ضرب لگنے سے ہاتھ شل ہو جائے یا آنکھ کا نور چلا جائے کیونکہ عضو کی منفعت کا سلب ہونا خود عضو کے ختم ہونے کی مانند ہے۔

[۳: بیہقی: ۹۵/۸]

[بیہقی: ۹۱/۸]

۲

[بیہقی: ۸۸/۸]

۱

[بیہقی: ۸۹/۸]

۵

[بیہقی: ۸۹/۸]

۳

مونچھوں اور ٹھوڑی کے بالوں، مرد کے پستان، خسی اور عینین کے ذکر، گونگے کی زبان، شل ہاتھ، کانی آنکھ، لنگڑے پاؤں، سیاہ دانت اور زائد انگلی میں عادل آدمی کے فیصلے موافق دیت واجب ہوگی۔ بچے کے اعضاء کی ظاہری درستگی کو دیکھتے ہوئے ان کے صحیح ہونے کا حکم لگا کر دوسرے پر دیت لازم کرنا درست نہیں۔ بچے کا چیخنا چلانا اور آوازیں نکالنا کلام نہیں ہے بلکہ محض آواز ہے۔ زبان کا صحیح ہونا بات چیت سے ذکر کی درستگی حرکت سے اور آنکھ کی صحت بینائی سے معلوم کی جاسکتی ہے۔ جب ان اعضاء کا صحیح اور تندرست ہونا معلوم ہو جائے تو بچہ بھی قتل عمد اور خطا میں بالغ کا حکم رکھتا ہے۔

انسانی جسم کے بالوں کی دیت عادل آدمی کے فیصلے کے مطابق ہوگی۔ اگر کان چوٹ لگنے کی وجہ سے بہرے ہو جائیں تو اس میں ایک عادل آدمی کا فیصلہ معتبر ہوگا۔ اسی طرح ناخنوں کے اکھاڑنے میں جب وہ دوبارہ نہ اگیں عادل آدمی کے فیصلے کے موافق دیت ہوگی۔

اگر آدمی کلانی سے ہاتھ کاٹا جائے تو ہتھیلی میں نصف دیت واجب ہوگی جبکہ زائد حصے میں عادل آدمی کے فیصلے کے مطابق دیت واجب ہوگی کیونکہ اس زائد حصے میں نہ تو خوبصورتی ہے اور نہ کوئی فائدہ ہی ہے اگر ہاتھ کہنی سے کاٹا جائے تب بھی یہی حکم ہے۔

اگر کسی آدمی کی ایک انگلی کاٹی گئی اور اس کے سبب دوسری انگلی شل ہوگئی یا کسی کا ایک ہاتھ گیا اور اس کے سبب دوسرا ہاتھ شل ہوگیا تو کاٹنے والے پر قصاص نہیں بلکہ دیت واجب ہوگی کیونکہ اس کا جرم ایک فعل سے متجاوز ہے۔ تو قصاص لینا اس صورت میں ممکن نہیں کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹا جائے اور دوسرا لازمی طور پر ناکام ہو جائے۔ لہذا اس صورت میں جان پر مال کی ادائیگی لاگو ہوگی۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ پہلے مسئلہ میں اس پر قصاص واجب ہوگا اور دوسرے مسئلہ میں دیت کیونکہ عمل جرم متعدد ہیں اور ایک میں سقوط قصاص سے ضروری نہیں کہ دوسرے میں بھی قصاص ساقط ہو جائے۔ اس کی مثال ایسے ہی کہ کوئی شخص ایک عضو کو عمداً اور دوسرے کو خطا نقصان پہنچائے۔

اگر کسی نے ایک یا دو انگلیوں والی ہتھیلی (ہاتھ) کاٹ دی تو اس پر انگلیوں کی دیت واجب ہوگی اور ہتھیلی کے بدلے میں کچھ بھی واجب نہیں ہوگا کیونکہ ہتھیلی انگلیوں کے تابع ہے اور گرفت انگلیوں کی مدد سے کی جاتی ہے اور انگلیوں کی کٹائی پر پوری دیت لاگو ہوتی ہے۔ امام صاحب کے نزدیک اصل کا اعتبار کیا جاتا ہے اگر وہ قلیل ہو۔

اگر کسی نے تین انگلیوں والی ہتھیلی کو کاٹ دیا تو اس پر بالا جماع پوری انگلیوں کی دیت

واجب ہوگی کیونکہ امام صاحب کے نزدیک اصول یہی ہے کہ اکثر پر کل کا حکم لگتا ہے۔
 مجنوں اور بچے کا جان بوجھ کر کوئی کام کرنا بھی غلطی سے کرنے کے حکم میں ہے۔
 حضرت علیؓ کا ارشاد ہے کہ مجنوں اور بچے کا عمداً کوئی کام کرنا بھی خطا کے حکم میں ہے۔ لہذا جب ان
 کا فعل خطا کے حکم میں ہے تو ان کی عاقلہ پر صرف دیت واجب ہوگی ان پر قصاص واجب نہیں
 ہوتا جیسا کہ حدود میں ان پر حد جاری نہیں ہوتی اسی طرح قصاص بھی واجب نہیں ہوتا کیونکہ
 قصاص سزا ہے اور یہ سزا سے بری ہیں۔ قتل عمد میں قاتل گناہ گار ہوتا ہے لیکن دونوں گناہ گار نہیں
 ہوتے۔

سر اور جسم کے زخموں کی دیت

”شجعة“ ہر ایسے زخم کو کہتے ہیں جو سر اور چہرے پر لگے جبکہ باقی بدن کے زخموں کو
 ”جراحة“ کہا جاتا ہے اور یہ کل دس ہیں۔

- (۱) الحارصة: ایسا زخم جسمیں جلد چھل کر ہلکی سی پھٹ جائے اور خون نہ نکلے۔
- (۲) الدامعة: جس میں خون ظاہر ہو جائے لیکن بہے نہ۔
- (۳) الدامية: جس میں خون رسنے لگے۔
- (۴) الباضعة: جو کھال کو کاٹ دے۔
- (۵) المتلاحمة: جو زخم گوشت تک پہنچ جائے۔
- (۶) السمحاق: وہ زخم جو سمحاق تک پہنچ جائے اور سمحاق اس پتلی جھلی کو کہتے ہیں جو سر کی
 ہڈی اور گوشت کے درمیان ہوتی ہے۔
- (۷) الموضحة: وہ زخم جو ہڈی کو ظاہر کر دے۔
- (۸) الهاشمة: جو ہڈی کو توڑ دے لیکن ہڈی کا گودا ظاہر نہ ہو۔
- (۹) المنقلة: جو ہڈی کو توڑ دے اور گودا ظاہر ہو جائے۔
- (۱۰) الامة: وہ زخم جو دماغ تک پہنچ جائے ”امة“ اس جھلی کو کہتے ہیں جو دماغ کے اندر ہوتی ہے۔

دانتہ سر پر زخم لگانے کا حکم

موضحة اگر عمداً ہو تو اس میں قصاص ہے۔ نبی کریم ﷺ نے موضحة میں قصاص کا حکم

فرمایا تھا۔ کیونکہ جب چھری (وغیرہ) ہڈی تک پہنچ جائے تو اسے روکا جاسکتا ہے لہذا اس میں مساوات ممکن ہے جس کا اعتبار قصاص میں ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَالْبُرُوحِ قِصَاصٌ“ (اور زخموں میں بھی قصاص ہے) ۱

موضح سے کم زخم میں عادل آدمی کے فیصلے کے مطابق دیت واجب ہوگی کیونکہ ان میں نہ تو کوئی دیت مقرر ہے اور نہ ہی جان کو بغیر سزا کے چھوڑا جاسکتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ اور حضرات ابراہیمؒ سے روایت ہے کہ موضح سے زخم میں عادل آدمی کے فیصلے کے مطابق دیت واجب ہوگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے موضح سے کم زخم میں کسی چیز کو واجب قرار نہیں دیا۔ ۲ اور موضح کے بعد یعنی ہڈی ٹوٹنے میں بھی قصاص نہیں ہے۔ یہی امام اعظم ابوحنیفہؒ کی روایت ہے۔

خطا سر پر زخم لگانے کا حکم

موضح جب خطا ہو تو اس میں دیت کا بیسواں حصہ واجب ہے ہاشمہ میں دسواں جبکہ منقلج میں دیت کا دسواں اور بیسواں دونوں واجب ہیں اور اہمہ میں اور جائفہ میں دیت کا ثلث واجب ہے۔ بشرطیکہ وہ پیٹ کے پہلوؤں میں سے کسی کی طرف متجاوز نہ ہو اور اگر متجاوز ہو تو اس میں دو ثلث واجب ہے۔ حضرت عمرو بن شعیبؒ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”فی الواضح خمس خمس“ ۳ یعنی موضح میں پانچ اونٹ دیت ہے۔

حضرت عمرو بن شعیبؒ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے موضح میں پانچ اونٹ یا ان کے برابر سونا چاندی یا بکریاں اور منقلج میں پندرہ اونٹ یا ان کے برابر سونا، چاندی، بکریاں یا گائے دیت میں دینے کا فیصلہ فرمایا تھا۔ ۴ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ جائفہ اور آم میں ثلث دیت واجب ہے۔ ۵ حضرت سعد ابن مسیبؒ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے جائفہ میں دو ثلث دیت ادا کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ ۶ حضرت قبیصہ بن ذویبؒ سے روایت ہے کہ حضرت زید ابن حارثہؓ نے فرمایا: دامیہ میں ایک اونٹ، باضعہ میں دو اونٹ، متلامیہ میں تین اونٹ، سحاق میں چار اونٹ، موضح میں پانچ اونٹ، ہاشمہ میں دس اونٹ اور منقلج میں پندرہ اونٹ دیت واجب

۱ [نصب الراية: ۳/۳۷۳] ۲ [البقرہ] ۳ [نصب الراية: ۳/۳۷۴] ۴ [ترندی: ۲/۴۲۴]

۵ [نصب الراية: ۳/۳۷۵] ۶ [بیہقی: ۸/۸۵] ۷ [بیہقی: ۸/۸۵]

ہے۔ مامومہ میں ثلث دیت واجب ہے اور جس آدمی کی ضرب کی وجہ سے عقل چلی جائے تو اس میں پوری دیت واجب ہے۔ آنکھ کے پوٹے میں چوتھائی دیت واجب ہے اور پستان کے سرے میں بھی چوتھائی دیت واجب ہے۔ لیہ روایت موقوف ہے۔

زخم اگر کسی عضو کے نقصان کا سبب بن جائے۔ زخم موضح لگنے کی وجہ سے اگر کسی کی عقل چلی گئی یا سر کے بال ختم ہونے کے بعد دوبارہ نہ اگے تو موضح کی جنایت دیت میں داخل ہو جائے گی۔ اور زخم لگانے والے فقط دیت واجب ہوگی اور اگر بال دوبارہ اگ آئے تو دیت ساقط ہو جائے گی۔

اور اگر موضح کی وجہ سے کسی کی بینائی، شنوائی یا گویائی سلب ہوگئی تو زخم لگانے والے پر دیت اور موضح کی جنایت واجب ہوگی۔ یہ حکم جب ہوگا جب جنایت کی وجہ سے موت واقع نہ ہو۔ اگر موت واقع ہوگئی تو پھر جنایت ساقط ہو جائے گی اور جان پر صرف دیت واجب ہوگی۔ اگر جنایت خطا ہو تو دیت عاقلہ پر ہوگی اور اگر عمداً ہو تو اس کے مال میں سے ہوگی اور یہ احکام اس وقت جاری ہوں گے جب مضروب جراثیم کے بعد تین سال کے اندر مر جائے۔

اگر موضح میں کسی کی بصارت زائل ہوگئی تو اس صورت میں قصاص واجب نہیں ہوگا اور مناسب یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں صرف دیت ہی واجب ہو۔

زخموں وغیرہ کا قصاص کب لیا جائے گا

موضح کا قصاص زخم کے مندمل ہونے تک نہیں لیا جائے گا کیونکہ زخم کی آخری حالت معتبر ہوتی ہے بسا اوقات زخم کی وجہ سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے اور اس پر قتل کے احکام لاگو ہوتے ہیں لہذا زخم ٹھیک ہونے پر ہی حتمی فیصلہ ہو سکتا ہے۔

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کے گھٹنے میں سینگ دے مارا وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور قصاص کا مطالبہ کیا۔ نبی کریم ﷺ نے اسے زخم کے ٹھیک ہونے تک انتظار کرنے کا فرمایا لیکن اس نے انکار کیا اور قصاص لینے میں جلدی کی جب وہ قصاص لے چکا تو اس کی ہڈی ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ ٹوٹ گئی اور وہ لنگڑا ہو گیا اور جس سے قصاص لیا تھا اس کی ٹانگ ٹھیک ہوگئی وہ نبی کریم ﷺ کے پاس دوبارہ آیا تو آپ ﷺ نے فرمایا یہ تیری جلدی کا نتیجہ ہے۔ اب تیرے لیے کچھ نہیں پھر آپ ﷺ نے حکم فرمایا کہ جس کو

زخم لگے تو وہ اس کے ٹھیک ہونے سے پہلے بدلہ نہ لے بلکہ ٹھیک ہونے کے بعد بدلہ لے۔

جنابت کب ساقط ہوگی

سریا چہرے پر زخم لگنے کے بعد اگر گوشت مل جائے اور بال اگ آئیں تو دیت ساقط ہو جاتی ہے کیونکہ دیت کا موجب وہ عیب تھا اور وہ ختم ہو گیا۔ امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ اس پر تکلیف کی دیت لازم ہوگی۔ اگر چہ عیب بھی ہو جائے لیکن اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف باقی ہے لہذا تکلیف کے بدلے میں دیت واجب ہوگی۔

امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ اس پر طبیب کی اجرت واجب ہوگی کیونکہ اس کے فعل کی وجہ سے اسے اپنے مال میں سے طبیب کو ادائیگی کرنی پڑی گویا اس نے اس کا مال لیا ہے۔ اگر کسی آدمی نے دوسرے کا دانت نکال دیا اب اس کی جگہ اگر دوسرا آگ آئے تو امام صاحب کے نزدیک دیت ساقط ہو جائے گی اور صاحبین کے نزدیک پوری دیت واجب ہوگی۔

بچے کی جنابت

اگر پیٹ پر ضرب لگنے کی وجہ سے عورت نے مردہ بچہ جنا تو اس میں غرہ ہے۔ اور غرہ کی مقدار دیت کا بیسواں حصہ یا پچاس دینار ہیں جو عاقلہ پر واجب ہیں خواہ مرنے والا بچہ ہو یا بچی۔

قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس میں کچھ واجب نہ ہو کیونکہ اس کا زندہ ہونا معلوم نہیں ہے اور ظاہر کو دیکھ کر کسی پر کوئی شے لازم قرار دینا لیکن ہم نے مذکورہ ذیل نص کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں ایک عورت نے اپنی حاملہ سوکن کو خیمے کی چوب مار کر قتل کیا تو نبی کریم ﷺ نے عاقلہ پر اس عورت کی دیت کو واجب قرار دیا اور اس کے پیٹ میں موجود بچے کے بدلہ غرہ ادا کرنے کا حکم دیا۔

نبی کریم ﷺ نے مذکورہ مونث کی تفصیل بیان نہیں فرمائی کیونکہ جنین میں مذکورہ مونث کی تمیز متعذر ہوتی ہے اس لیے دفع حرج کے سبب اس کا اعتبار نہیں کیا گیا۔

غرہ کی قیمت پانچ سو درہم ہے۔ حضرت شجی فرماتے ہیں کہ غرہ کی قیمت پانچ سو درہم ہے اور حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ غرہ کی قیمت پچاس دینار ہیں۔

جنین میں قاتل پر کفارہ نہیں کیونکہ اس کا قتل غیر متحقق ہے اگر بچہ زندہ پیدا ہونے کے بعد مر گیا تو اس صورت میں عاقلہ پر دیت واجب ہوگی۔ اور ضارب پر کفارہ ہوگا۔ کیونکہ اب وہ قاتل بن چکا ہے۔

اگر عورت نے مردہ بچہ جنا اور پھر خود بھی مر گئی تو اس صورت میں دیت اور غرہ دونوں واجب ہوں گے۔

اگر عورت نے مرنے کے بعد مردہ بچہ جنا تو اس صورت میں صرف عورت کی دیت واجب ہوگی اور بچے کے بدلے میں کچھ واجب نہیں ہوگا کیونکہ عورت کی موت بچے کی موت کا سبب ہے۔ بچہ عورت کے سانس لینے کی وجہ سے سانس لیتا ہے اور ماں کے مرنے کے بعد بچے کا زندہ رہنا محال ہوتا ہے اب یہ بات محض احتمال کے درجے میں ہے کہ اس کی موت ضرب کی وجہ سے ہوئی ہو اور شک کی بنا پر غرہ واجب نہیں ہوگا۔

اگر عورت مر گئی اور بچہ زندہ پیدا ہوا لیکن بعد میں مر گیا تو اس آدمی پر دو دیتیں واجب ہوں گی کیونکہ وہ دو انسانوں کے قتل کا سبب بنا ہے۔

اگر عورت نے دو مردہ بچے جنے تو اس صورت میں دو غرے واجب ہوں گے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے ایک جنین میں ایک غرہ واجب قرار دیا تھا۔ تو دو جنین میں دو غرے ہوں گے کیونکہ جو شخص ایک ضرب میں دو جانیں لے لے تو اس پر بھی دو دیتیں واجب ہوتی ہیں۔

اگر عورت نے ایک مردہ بچہ جنا اور دوسرا زندہ لیکن بعد ازاں وہ بھی مر گیا تو مردہ کے بدلے میں غرہ اور زندہ کے بدلے میں پوری دیت واجب ہوگی۔

اگر بچہ ایک سال کی مدت کے دوران مرا تو غرہ واجب ہوگا ورنہ نہیں۔

راستے سے متعلق کچھ مسائل

اگر کوئی آدمی شارع عام کو اپنے استعمال میں لاتا ہے تو معمولی آدمی کو بھی اعتراض کا اور اس کے تجاوزات ہٹانے کا حق حاصل ہے کیونکہ ہر آدمی خود گزرنے اور اپنی سواری گزارنے کا حق رکھتا ہے۔ تو جیسے ملک مشترک میں تجاوز سے روکنے کا ہر مالک کو حق حاصل ہوتا ہے اسی طرح یہاں بھی ہر شخص کو حق حاصل ہوتا ہے۔

جو آدمی راستے کو استعمال میں لاتا ہے یا راستے میں کوئی کام کر رہا ہے تو جب تک مسلمانوں کو اس سے نقصان نہ پہنچے وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ کیونکہ ممانعت نقصان کے پہنچنے کی وجہ

سے ہے اور اگر مسلمانوں کو نقصان پہنچے تو مکروہ ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے ”لا ضرر ولا ضرار“ (نہ کسی نے نقصان اٹھاؤ اور نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ)۔

اگر کسی آدمی نے رستے میں گڑھا کھودا یا روشن دان، کنگرہ یا پرنالہ بنایا اور وہ کسی انسان پر گر گیا جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا تو یہ چیزیں بنانے والی کی عاقلہ پر دیت واجب ہوگی کیونکہ مقتول کی موت کا سبب یہی بنا ہے۔ اور اس نے راستے کی فضا کو استعمال کر کے تعدی کی ہے اور قاعدے کے مطابق یہ اسباب ضمان میں سے ہے۔

اگر کوئی شخص گڑھے کے اندر گر جائے تو ضمان اس پر ہوگی جس نے گڑھا کھودا ہے یا کھدوایا ہے۔ اگر پرنالہ کسی آدمی پر گرا اور اس کی وجہ سے وہ مر گیا تو اگر تو پرنالے کا چھت کے باہر والا حصہ اس پر گرا ہے تو پھر اس کے مالک پر ضمان ہوگی۔ اگر چھت کے اندر والا حصہ جس کا وہ مالک ہے وہ اس پر گرا ہے تو پھر اس پر ضمان نہیں ہوگی کیونکہ اس نے پرنالہ اپنی ملک میں لگایا تھا اور اس میں اس نے کوئی تعدی نہیں کی ہے لہذا اگر وہ آدمی مر گیا تو اس پر کفارہ بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی میراث سے محروم ہوگا کیونکہ حقیقتاً یہ قاتل نہیں ہے۔

اور اگر اس پر پرنالے کی دونوں اطراف اکٹھی گریں تو نصف دیت واجب ہوگی اور نصف ضائع چلی جائے گی۔

اگر کسی آدمی نے راستے کی طرف پرنالہ یا اس جیسی کوئی اور چیز بنائی یا کنگرہ بنایا اپنی ملک سے زائد جگہ پر تعمیر کی اور اس کے بعد مکان بیچ دیا پھر وہ کنگرہ یا زائد چیز کسی شخص پر گری اور وہ مر گیا تو ضمان بائع پر ہوگی کیونکہ اس ملک زائل ہونے کے ساتھ اس کا زائد عمارت بنانے کا فعل ختم نہیں ہوا۔

اگر کسی آدمی نے راستے میں آگ بھڑکائی اور اس نے کسی چیز کو جلا دیا تو یہ شخص ضامن ہوگا کیونکہ اس کام میں اس نے حد سے تجاوز کیا ہے۔ اگر ہوا آگ کو کسی دوسرے مقام پر لے گئی اور پھر آگ نے کسی چیز کو جلا دیا تو یہ ضامن نہیں ہوگا کیونکہ ہوانے اس کے فعل کو ختم کر دیا ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر اس دن ہوا چل رہی تھی تو وہ ضامن ہوگا کیونکہ اس کو اس کام کے انجام کا پتہ تھا لیکن اس کے باوجود اس نے یہ کیا تو گویا اس نے خود اس چیز کو جلا دیا۔

اگر مالک مکان کو گرانے یا ملبہ اٹھانے کیلئے مزدوروں کو لایا اور عمارت گرنے کی وجہ سے کوئی آدمی مر گیا تو اس کی ضمان مزدوروں پر آئے گی کیونکہ یہ ہلاکت ان کے فعل کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اور جب تک وہ کام سے فائز نہیں ہوتے اس وقت تک مالک ان کے کسی بھی

فعل کا ذمہ دار نہیں ہے اور ان کا فعل قتل میں بدل جانے کی بناء پر ان پر کفارہ ہوگا کیونکہ قتل عقد میں داخل نہیں ہے۔

اور اگر مزدوروں کے فارغ ہونے کے بعد مکان گرا تو مالک استحساناً ضامن ہوگا۔ کیونکہ انہوں نے اپنا کام درست طریقے سے انجام دے کر مکان اس کے حوالے کر دیا ہے۔ اب اگر کسی پر مکان گرتا ہے تو یہ مالک کا فعل شمار ہوگا لہذا وہ ضامن ہوگا۔

اگر کسی آدمی نے راستے میں پانی بہایا اور وہ جم گیا، پھر اگر اس کی وجہ سے کوئی آدمی ہلاک ہو گیا تو اس کی ضمان پانی بہانے والے پر ہوگا کیونکہ اس نے گزرنے والوں کو نقصان پہنچانے کی تعدی کی ہے۔ لیکن یہ حکم اس وقت ہوگا جب پانی زیادہ ہو۔ اگر اس نے عادت کے موافق تھوڑا پانی ڈالا ہو جس سے عام طور پر آدمی نہیں پھسلتا تو وہ ضامن نہیں ہوگا۔

اگر آدمی جان بوجھ کر اس جگہ سے گزرا جہاں پانی پھیلا ہوا تھا تو پانی گرانے والے ضامن نہیں ہوگا۔ یہ حکم اس وقت ہوگا جب راستے کے کچھ حصے میں پانی ڈالا گیا ہو اور گزرنے والے کیلئے خشک راستے موجود ہو۔ اور اگر سارے راستے میں پانی ڈالا گیا ہو تو ضامن ہوگا کیونکہ رستے سے گزرنا تو مجبوری ہے۔

اگر کسی آدمی نے راستے میں پتھر، مٹی یا ملبہ پھینکا اور اس وجہ سے کوئی آدمی ہلاک ہو گیا تو یہ شخص ضامن ہوگا کیونکہ اس نے تعدی کی ہے۔

ایک آدمی نے راستے کے ایک طرف پتھر پھینکا اور دوسرے آدمی نے اسے اس کی جگہ سے ہٹا دیا پھر اس پتھر کی وجہ سے کوئی آدمی ہلاک ہوا تو ضمان دوسرے شخص پر ہوگی۔ کیونکہ پہلے کے اپنے کام سے فارغ ہونے کی وجہ سے اس کے فعل کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ ویسے بھی دوسرے شخص کے فعل کی وجہ سے ہلاک ہوا ہے۔

اگر کسی آدمی نے اپنی ملک میں گڑھا کھودا اور اس میں کوئی آدمی گر گیا تو مالک ضامن نہیں ہوگا کیونکہ اس نے کوئی تعدی نہیں کی۔ اسی طرح اس نے اگر اپنے مملوکہ مکان میں گڑھا کھودا تو بھی یہی حکم ہوگا لیکن اگر اس نے مسلمانوں کی زمین یا تنگ گلی میں مشترکہ زمین میں گڑھا کھودا تو وہ ضامن ہوگا کیونکہ وہ اس کی ہلاکت کا سبب بننے والا اور تعدی کرنے والا ہے۔

اگر مزدوروں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اس آدمی کا مکان ہے کسی دوسرے کے مکان میں گڑھا کھود دیا تو ان کے نہ جاننے کی وجہ سے یہ اجارہ ظاہر درست ہے۔ اگر اس گڑھے میں کوئی آدمی گر کر ہلاک ہو گیا تو ضمان جس آدمی نے گڑھا کھدوایا ہے اس پہ ہوگی اور مزدوروں پہ

کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ اگر مزدوروں کو یہ معلوم ہو کہ کھدائی اس آدمی کے مکان میں نہیں ہو رہی تو یہ اجارہ صحیح نہیں ہوگا کیونکہ کام اس آدمی کی مملوکہ زمین میں نہیں ہو رہا۔ اب اگر اس گڑھے میں گر کر کوئی ہلاک ہو گیا اس کی ضمان مزدور پہ ہوگی۔

اگر مالک نے مزدوروں سے کہا کہ یہ میرا مکان ہے لیکن مجھے اس میں کھدائی کا حق نہیں۔ مزدوروں نے وہ کنواں کھود دیا پھر اس میں کوئی آدمی گر کر مر گیا تو قیاساً ضمان مزدوروں پر اور استحساناً مالک پہ ہوگی۔

اگر کوئی آدمی راستے میں سامان اٹھائے جا رہا ہو اور وہ سامان کسی شخص پہ گر جائے جس کی وجہ سے وہ مر جائے تو سامان اٹھانے والا ضامن ہوگا۔ اگر وہ شخص خود کسی پہ گر گیا اور دوسرا شخص ہلاک ہو گیا تو بھی اس شخص پر ضمان واجب ہوگی۔ اگر کسی آدمی نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور وہ اس پر اس سے گر گئی جس کی وجہ سے کوئی شخص مر گیا تو اس پر ضمان نہیں ہوگی۔

باب القسامۃ

قسامہ، قسم یقسم قسامہ کا مصدر ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ قتل کے بارہ میں قسمیں اٹھانا۔

مقتول ہر ایسی میت کو کہتے ہیں جس پر نشان قتل موجود ہو۔ اگر اس پر نشان قتل موجود نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی طبعی موت مرا ہے۔ قتل کا نشان زخم، چوٹ، گلا گھٹنا، یا آنکھوں یا کانوں سے خون نکلنا ہے۔ کیونکہ ان سے عادتاً خون نہیں نکلتا بلکہ کسی کے فعل کے ساتھ نکلتا ہے۔ اور اگر خون اس کے منہ، دبر یا ذکر سے نکلتے تو وہ مقتول نہیں ہوگا کیونکہ ان مقامات سے بغیر کسی فعل کے عادتاً خون نکل سکتا ہے اور اگر وہ آدمی مقتول نہ ہو تو اس میں قسامہ اور دیت نہیں ہوگی۔ اگر مقتول یا اس کا نصف بدن سے زائد یا نصف بدن اور اس کا صرف سر کسی محلہ میں پایا گیا اور اس کا قاتل معلوم نہیں اور اس کا ولی تمام اہل محلہ یا بعض پر عداً یا خطاً قتل کا دعویٰ کرے لیکن اس کے پاس کوئی بینہ موجود نہ ہو۔ تو اس محلے میں سے پچاس آدمی چنے جائیں گے جو ان الفاظ کے ساتھ قسم کھائیں گے۔ اللہ کی قسم نہ ہم نے اسے قتل کیا ہے اور نہ ہم اس کے قاتل کو جانتے ہیں۔

ولی اپنے حق کی وجہ سے دعویٰ ضرور دائر کرے گا اور اگر اس کے پاس بینہ موجود ہوں تو پھر قسم کی ضرورت نہیں جب اہل محلہ پچاس قسمیں اٹھالیں تو مدعی علیہم کی عاقلہ پر دیت ادا کرنا لازم قرار دے دیا جائے گا۔ حضرت اہل بن ابی حنمہ سے روایت ہے حضرت ابن مسعود اور

حضرت عبداللہ بن سہل خیبر گئے اور کھجوروں کے باغ میں دونوں جدا جدا ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن سہل کو اس باغ میں قتل کر دیا گیا۔ ان کے ورثاء نے یہود پہ قتل کا الزام لگایا۔ ان کے بھائی حضرت عبدالرحمنؓ اور ان کے دو چچا زاد حضرت حویصہؓ اور حضرت محیصہؓ نبی کریم ﷺ کے پاس آئے۔ حضرت عبدالرحمنؓ نے جوان میں سب سے چھوٹے تھے۔ نبی کریم ﷺ سے اپنے بھائی کے قتل کے معاملے میں گفتگو کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا بڑوں کی تعظیم کرو۔ یا آپ ﷺ نے فرمایا بڑا آدمی بات شروع کرے۔ پھر ان دونوں نے آپ ﷺ سے اپنے بھائی کے بارے میں گفتگو کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا تم میں سے پچاس آدمی ان کے کسی ایک آدمی پر قسم کھائیں تو اس کی دیت اس پر لازم ہو جائے گی۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ جس کام میں ہم موجود نہیں تھے اس پہ قسم کیسے اٹھائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا پھر یہود اپنے پچاس آدمیوں کی قسموں کے ساتھ قسم سے بری ہو جائیں گے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ وہ تو کافر ہیں پھر آپ ﷺ نے اپنی طرف سے اس کی دیت ادا کی۔

اگر کوئی شخص جنگل یا دریا میں مقتول پایا جائے تو اس کا خون ضائع ہے۔ اگر اسے کسی دریا یا سمندر کے کنارے قید کیا گیا تو اس کی قسامت و دیت وہاں سے قریبی بستی پہ ہوگی اگر وہاں تک اس کی آواز پہنچ سکتی ہو۔

اگر مقتول کسی گھر میں پایا گیا تو قسامت اس گھر کے مالک اور اس کی عاقلہ پر ہوگی۔ اگر عاقلہ موجود ہو کیونکہ ان پر بھی مالک کی طرح مدد ضروری تھی اس لیے وہ قسامت میں شریک ہوں گے اور اگر عاقلہ موجود نہ ہو تو اسی گھر کے مالک پر قسمیں لوٹائی جائیں گی اور دیت عاقلہ پر لازم ہوگی۔

اگر مقتول کو بستیوں یا دو محلوں کے درمیان پایا گیا تو ان میں سے قریبی بستی یا محلے پر قسامت ہوگی اگر وہاں تک اس کی آواز پہنچ سکتی ہو۔

اگر مقتول بحری جہاز میں پایا گیا تو قسامت ملاحوں اور سواروں پہ ہوگی۔

اگر مقتول محلے کی مسجد میں پایا گیا تو قسامت اہل محلہ پر ہوگی۔

اگر مقتول جامع مسجد یا بڑی سڑک پر پایا گیا تو اس کی دیت بیت المال میں سے ادا کی جائے گی۔ اور قسامت نہیں ہوگی۔

اگر کسی انتہائی زخمی آدمی کو جو زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا کسی آدمی نے اس کے گھر پہنچا دیا اور وہ اپنے گھر ایک دو دن بعد مر گیا تو امام ابو یوسف کے نزدیک اسے گھر

پہنچانے والا ضامن نہیں ہوگا۔ امام ابوحنیفہؒ کے قیاس کے مطابق وہ ضامن ہوگا کیونکہ وہ آدمی بمنزلہ محلے کا ہے اور اس کا اس کے پاس زخمی حالت میں موجود ہونا محلے میں زخمی حالت میں پائے جانے کے مترادف ہے۔ کسی کے گھر صرف دو آدمی تھے تیسرا کوئی نہیں تھا ان میں سے ایک کو ذبح کر دیا گیا تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک دوسرا ضامن ہوگا۔

اگر اہل محلہ میں سے دو آدمی اپنے محلے کے علاوہ کسی اور شخص کے خلاف قتل کی گواہی دے دیں تو امام صاحب کے نزدیک ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ذمے سے قتل کے الزام کو ساقط کرنے کیلئے جھوٹ بول رہے ہوں۔

اگر کوئی شخص ایک جگہ زخمی ہوا پھر اسے اس کے گھر منتقل کر دیا گیا بعد میں انہیں زخموں کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا تو امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک قسامت و دیت جہاں وہ زخمی ہوا تھا اس جگہ والوں پر ہوگی۔

قسم کی ابتداء کس سے ہوگی؟

حدیث سابق کے ظاہری الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ قسموں کی ابتداء ولی سے ہوگی۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”یقسم خمسون منکم علی رجل منهم“۔ جب ظاہر حالات سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مقتول کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے۔ جیسے مقتول کے ساتھ محلے والوں کی دشمنی اور ان کے درمیان اس کا قتل ہونا تو قسم کی ابتداء ولی سے ہوگی۔ اس کے بعد وہ لوگ ولی کے جواب میں قسمیں اٹھائیں گے اور کہیں گے اللہ کی قسم نہ ہم نے اسے قتل کیا ہے اور نہ ہم اس کے قاتل کو جانتے ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک مدعی علیہ قسم اٹھانے کی وجہ سے بری ہو جائے گا اور اس پر دیت واجب نہیں ہوگی۔ ہماری دلیل نبی کریم ﷺ کا یہ قول ہے: ”البینۃ علی المدعی والیمن علی المدعی علیہ“۔ گواہ مدعی کے ذمے ہے اور قسم مدعی علیہ کے ذمے ہے۔ اس حدیث کا نصف حضرت ابن عباس سے مسلم شریف میں مروی ہے۔ نبی کریم نے مدعی علیہ پر قسم کھانے کو لازم قرار دیا۔^۱

حضرت سعید بن مسیبؒ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے قسامت کی ابتداء یہود سے کی اور مقتول کی ان کے درمیان موجودگی کی وجہ سے ان پر دیت کو لازم قرار دیا۔ اس طرح آپ ﷺ نے قسامت اور دیت دونوں کو جمع کیا۔ قسامت کو اس وجہ سے شروع کیا گیا ہے تاکہ

لوگ جھوٹی قسم سے بچنے کیلئے قتل کا اقرار کر لیں اور ان سے قصاص لیا جاسکے نہ کہ اس وجہ سے کہ جب وہ انکار کریں تو ان پر دیت کو واجب قرار دے دیا جائے۔ جب وہ قسم اٹھالیں گے تو وہ قصاص سے بری ہو جائیں گے اور دیت ان پر واجب ہوگی کیونکہ ظاہری طور پر قاتل انہیں میں سے کوئی ہے کیونکہ مقتول ان کے درمیان پایا گیا ہے۔ یا اس وجہ سے کہ انہوں نے اس مقتول کی حفاظت میں کوتاہی کی ہے جیسے قتل خطا میں ہوتا ہے۔ یہ دیت ان کے انکار کی وجہ سے ان پر واجب نہیں ہوگی۔

اور ولی کی طرف سے قسم کی ابتداء نبی کریم ﷺ کے قول ”البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ“ کے خلاف ہے اور آپ ﷺ کے انصاری صحابہ کو فرماتے ہوئے اس قول ”تحلفون خمسین یمیناً وتستحقون قاتلکم“ کا مطلب یہ ہے کہ یہ علی سبیل الاقرار تھا۔ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کافروں کی قسمیں کیسے قبول کر لیں؟ اس وجہ سے اس کلام میں ”نون“ مذکور ہے اور اگر یہ امر ہوتا تو آپ ﷺ فرماتے ”احلفوا تسحقوا دم صاحبکم“ اور اس پر نبی کریم ﷺ کا یہ قول بھی شاہد ہے۔ ”الخلفون خمسین عینا فتسحقون صاحبکم“^۱ جس آدمی کے خلاف تم قسم کھاؤ گے اس پہ تمہارا حق ثابت ہو جائے گا۔

قسم کس سے لی جائے گی

قسم اٹھانے کیلئے پچاس آدمیوں کو چننے کا اختیار ولی کو حاصل ہے کیونکہ یمین اس کا حق ہے۔ اور وہ اس کو چننے کا جس پہ قتل کا الزام ہے یا ایسے نیک اہل محلہ کو چننے کا جن کے بارے میں اسے معلوم ہو کہ وہ جھوٹی قسم سے احتراز کرتے ہیں۔ اور قسم اس لیے لی جاتی ہے تاکہ قاتل معلوم ہو جائے۔ جب اہل محلہ قسم اٹھالیں گے تو قاضی ان پہ دیت لازم قرار دے گا اور نبی کریم ﷺ نے بھی قسامت اور دیت کو جمع فرمایا ہے۔ جیسا کہ حدیث سابق میں گزر چکا ہے۔ اہل محلہ میں سے اگر کوئی قسم اٹھانے سے انکار کر دے تو اسے قید کر لیا جائے گا۔ کیونکہ قسامت میں یمین نفس حق ہے اور جب وہ اس کے ادا کرنے پہ قادر ہے تو دیت ادا کرنے سے یمین اس سے ساقط نہیں ہوگی کیونکہ ولی کا حق یمین ابھی باقی ہے۔ اور دیت اہل محلہ پر ان کے انکار کی وجہ سے نہیں بلکہ مقتول کی ان کے درمیان موجودگی کی وجہ سے لازم ہوتی ہے۔ بچے، مجنوں اور عورتیں قسامت

میں داخل نہیں ہوں گے۔ پہلے دو تو اس وجہ سے کہ وہ قسم اٹھانے کے اہل ہی نہیں اور عورتیں اس وجہ سے کہ وہ اہل نصرت میں سے نہیں۔ جو آدمی قسامت کیلئے چنے گئے ہیں اگر ولی ان کے علاوہ کسی کے اوپر دعویٰ قتل کر دے تو ان سے قسامت ساقط ہو جائے گی۔ اور اگر یہ افراد پچاس سے کم ہوں تو پچاس کا عدد پورا کرنے کیلئے ان افراد پر قسم کو لوٹایا جائے گا۔

ولی سے نہ تو قسم لی جائے گی اور نہ ہی اس کی قسم سے دیت کا فیصلہ لیا جائے گا کیونکہ شریعت میں قسم دفع ضرر کیلئے مشروع ہوتی ہے نہ کہ کسی چیز کے استحقاق کیلئے۔ اور نبی کریم ﷺ نے منکر پہ قسم کو اس سے ضرر دور کرنے کیلئے واجب قرار دیا ہے اور آپ ﷺ نے مدعی علیہ پر یمین کو لازم قرار دیا ہے ولی چونکہ محتاج استحقاق ہے اس لیے اس کے حق میں قسم مشروع نہیں کی گئی۔

المعاقل

المعاقل: معقلہ کی جمع ہے یعنی دیات۔ اور دیت کا نام اس وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ وہ خون بہانے سے روکتی ہے۔ اور عاقلہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو قاتل کیلئے معین و مددگار ہوں۔ ان کی تعریف گزر چکی ہے اور اگر مجرم کیلئے عاقلہ نہ ہو تو دیت اسی کے مال میں سے ادا نہیں کی جائے گی اور خون ضائع چلا جائے گا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے اگر اس کی عاقلہ بالکل موجود نہ ہوں تو دیت بیت المال سے ادا کی جائے گی اور مقتول کا خون ضائع نہیں جائے گا۔ اور فقہاء یہ بھی فرماتے ہیں کہ آج کل اگر کچھ لوگ ایک ہی پیشے سے منسلک ہوں تو قاتل کے ہم پیشہ افراد اس کی عاقلہ ہوں گے۔

اگر موجودہ زمانے میں کوئی کسی تنظیم کا رکن ہو اور وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوں تو وہ ان کی عاقلہ ہوں گے۔ دیت تین سالہ قسطوں میں ادا کی جائے گی۔ کسی شخص سے چار درہم سے زائد نہیں لیے جائیں گے اور ہر شخص سے ہر سال درہم وصول کیا جائے گا۔ اگر اس کے ہم پیشہ افراد یا مرد پوری دیت ادا نہ کر سکیں تو ان کے ساتھ عصبیات کی تربیت سے قریبی لوگوں کو ملا لیا جائیگا۔ سب سے پہلے قاتل کے علاقائی بھائیوں کو ساتھ ملایا جائے گا اگر وہ تین سال میں دیت ادا کر سکتے ہیں تو پھر دادا کی اولاد اس میں شریک ہوگی۔ اور اگر وہ بھی ادا نہ کر سکیں تو پھر دادا کے دادا کی اولاد شریک ہوگی حتیٰ کہ اس طرح چلتا رہے گا۔ یہ دیت کسی بھی باپ کی اولاد سے ساقط نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عاجز نہ آجائے۔ چار درہم آج کل ایک گرام سونے کے برابر ہیں۔

جو تین سالہ قسطوں میں ادا کیا جائے گا۔ قاتل بھی عاقلہ میں موجود ہوگا اور عاقلہ کے ایک مرد کے برابر وہ دیت دے گا۔ عورتوں اور بچوں پر دیت واجب نہیں ہوگی کیونکہ وہ اہل نصرت میں سے نہیں ہیں۔ مسلمان کافر کی اور کافر مسلمان کی عاقلہ میں داخل نہیں۔ عاقلہ دیت کے بیسویں حصے سے کم کی ادائیگی میں شریک نہیں ہوگی اور اس کی مقدار پچاس دینار کے برابر ہے اور یہی مقدار غرہ کی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے عاقلہ کو غرہ ادا کرنے کا حکم تو فرمایا ہے لیکن اس سے کم کا ذکر روایات میں نہیں ملتا۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے ایک عورت نے اپنی سوکن اور اس کے پیٹ میں موجود بچے کو قتل کر دیا تو نبی کریم ﷺ نے بچے کے بدلہ میں اس عاقلہ کو غرہ ادا کرنے کا حکم فرمایا۔^۱

حضرت شعبی فرماتے ہیں غرہ کی مقدار پانچ سو درہم ہے۔ امام ابو داؤد نے حضرت ربیعہ سے نقل کیا ہے غرہ کی مقدار پچاس دینار ہے۔^۲

عاقلہ دیت کا بیسواں حصہ یا اس سے زائد ہو تو ادا کرے گی۔

اگر دیت کے بیسویں حصے سے کم جنایت ہو تو وہ مجرم کے مال سے ادا کی جائے گی۔

﴿ کتاب الوصایا ﴾

وصایا وصیہ کی جمع ہے۔ وصیت موصلی الیہ سے وہ کام کا چاہتا ہے جس کا فائدہ موصلی کو ہو۔ اور موصلی الیہ یہ کام موہبی کی غیر موجودگی یا اس کی وفات کے بعد کرے گا۔ جیسے اس کا قرض ادا کرنا یا اس کی ضروریات پوری کرنا اور اس کے بعد اس کے ورثاء کے مصالح کا خیال رکھنا اور اس کی وصیتوں کو نافذ کرنا۔

”استیصاء“ وصیت کے قبول کرنے کو کہتے ہیں جب کوئی آدمی کسی کی وصیت کو قبول کرے تو کہا جاتا ہے فلان استوصی من فلان نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”استوصوا بالنساء.....“ (یعنی عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو)۔^۱

وصیت کرنا سنت ہے اس کا مشروع ہونا کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا اَوْ دِيْنٍ“

یہ اس کے مشروع ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ میں مکہ میں بیمار تھا نبی کریم ﷺ میری عیادت کیلئے تشریف لائے اور آپ ﷺ اس کو ناپسند فرماتے تھے کہ آدمی کی موت وہاں آئے جہاں سے وہ ہجرت کر چکا ہو۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اللہ ابن عفراء پر رحم فرما۔ میں نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں اپنے تمام مال کی وصیت کر دوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں، پھر میں نے عرض کیا میں آدھے مال کی وصیت کر دوں، آپ ﷺ نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا میں اپنے تہائی مال کی وصیت کر دوں، آپ ﷺ نے فرمایا تہائی مال کی وصیت کرنا بہت ہے۔ تو اپنے ورثاء کو غنی چھوڑ جائے یہ اس سے بہتر ہے کہ تو انہیں محتاج چھوڑ جائے اور لوگ ان کی ہتھیلیوں پر خیرات رکھتے پھریں۔ تو جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ جو لقمہ تو اپنی بیوی کہ منہ میں رکھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ اور قریب ہے کہ تجھے موت آجائے اور کچھ لوگوں کو تجھ سے نفع پہنچے اور کچھ لوگ تیری وجہ سے نقصان اٹھائیں اور اس وقت ان کی صرف ایک ہی بیٹھی تھی۔^۲

نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”ان الله عزوجل حد تصدق عليكم بثلاث

اموالكم عند وفاتكم زيارة في حسناتكم ليجعلها لكم زكوة في اعمالكم“

”اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کی زکوٰۃ کیلئے تمہیں وفات کے وقت ثلث مال کی وصیت کی اجازت دے دی ہے۔“ یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن سابقہ روایت اس کی تائید کرتی ہے۔

اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ما حق اری مسلم یبیت لیلین ولہ ما یوحی فیہ الا وصیۃ مکتوبۃ عنده“^۱ ”کسی مسلمان کیلئے یہ درست نہیں کہ وہ دو راتیں اس حال میں گزارے کے اس کے پاس قابل وصیت چیز موجود ہو اور وہ اس میں وصیت نہ کرے۔“ یہ تمام روایات وصیت کے مستحب و پسندیدہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔

قرض و وصیت پر مقدم ہوتا ہے

دین میراث اور وصیت پر مقدم ہوگا کیونکہ دین واجب ہے اور وصیت مستحب ہے اور واجب مستحب پر مقدم ہوتا ہے پھر وصیت اور دین میراث سے مقدم ہوں گے کیونکہ قرآن میں میراث کا ذکر ان دونوں کے بعد ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ“ ”وصیت کے بعد جو کر کے مرد یا ادائے قرض کے بعد“ [النساء: ۱۱] اگر اعتراض ہو کہ یہاں پر وصیت کا ذکر دین سے پہلے ہوا ہے لیکن وصیت دین سے مقدم نہیں ہوگی۔ اس کا جواب ہے کہ کلمہ ”او“ ترتیب کو ضروری قرار نہیں دیتا بلکہ اس آیت میں اور کے ذریعہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب یہ دونوں الگ الگ ہوں تو میراث کو ان میں سے ہر ایک کے بعد تقسیم کیا جائے گا اور جب یہ دونوں اکٹھے ہوں تو دونوں کے بعد میراث کو تقسیم کیا جائے گا۔

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے وصیت پوری کرنے سے پہلے دین ادا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وارث کیلئے وصیت نہیں ہے۔^۲

وصیت بہتر ہے یا ترک وصیت

اگر ورثاء فقیر ہوں اور میراث کی ان کو ضرورت ہو تو وصیت نہ کرنا ادنیٰ ہے۔ اور اگر ورثاء غنی ہوں یا اپنے حصے کی میراث کی انہیں ضرورت نہ ہے تو وصیت کرنا ادنیٰ نہیں ہے۔ امام ابو یوسف سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس کے بچے چھوٹے ہوں آیا وہ وصیت کرے یا نہ کرے۔ آپ نے فرمایا اس کا ورثاء کیلئے مال چھوڑنا افضل ہے۔

وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جاسکتی

وارث کیلئے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن مثنم عمرو بن خارجه سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر خطبہ دیا اور میں اس کی گردن کے نیچے کھڑا تھا وہ جگالی کر رہی تھی اور اس کا لعاب میرے دونوں کندھوں کے درمیان گر رہا تھا میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے سنا: ”ان الله عزوجل اعطى كل ذي حق حصة فلا وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر“

”اللہ پاک نے ہر حق دار کو اس کا حق دے دیا ہے اور وارث کیلئے وصیت کرنا جائز نہیں اور بچہ خاوند کا ہے اور زانی کیلئے پتھر ہیں۔“

وصیت میں کسی کو ضرر پہنچانا کبیرہ گناہ ہے۔ اس کی تشریح کی گئی ہے کہ وارث کیلئے وصیت کرنا یا ثلث مال سے زیادہ میں وصیت کرنا کسی کو ضرر پہنچانا ہے۔ وارث کا وصیت کے وقت وارث ہونا معتبر نہیں بلکہ مورث کی موت کے وقت وارث ہونا معتبر مانا جائے گا جو آدمی وصیت کے وقت غیر وارث تھا اور موت کے وقت وارث بن گیا تو اس کیلئے وصیت صحیح نہیں ہوگی۔

جیسے ایک آدمی نے اپنی بیوی کیلئے وصیت کی پھر اسے طلاق دے دی جس سے بائنا ہوگئی تو اس کیلئے وصیت درست ہوگی اور اگر اس نے کسی اجنبیہ کیلئے وصیت کی اور پھر اس کے ساتھ شادی کی اور اس کے ساتھ حالت میں ہی خاوند فوت ہو گیا تو وہ وارث نہیں ہوگی۔

اگر مورث کی موت کے بعد وراثت اجازت دے دیں تو وارث کیلئے وصیت صحیح ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ وارث بالغ اور صحیح العقول ہوں۔ اگر کوئی شخص ایک وارث اور ایک اجنبی کیلئے وصیت کرے تو اجنبی کو اس وصیت کردہ مال میں سے آدھا ملے گا اور وارث کیلئے وصیت باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح ہے اگر کوئی شخص کسی اجنبی اور قاتل وارث کیلئے وصیت کرے۔

ایک تہائی مال سے زیادہ کے بارہ میں وصیت کا حکم

اگر مورث کی موت کے بعد وراثت اجازت دے دیں تو ثلث مال سے زائد میں بھی وصیت درست ہوگی بشرطیکہ وراثت بالغ اور کامل العقل ہوں۔

اگر وراثت میں سے بعض نے بعض کیلئے یا موصی لہ کیلئے اجازت دے دی اور بعض نے

نہیں دی تو جس نے اجازت دی ہے اس کے حصے کی بقدر وصیت نافذ ہو جائے گی اور جس نے اجازت نہیں دی اس کے حق میں یہ وصیت باطل ہوگی اور جس نے اجازت دے دی ہے اس کے حق میں ایسا سمجھا جائے گا گویا سب نے اجازت دے دی ہے اور جس نے اجازت نہیں دی اس کے حق میں یہ سمجھا جائے گا گویا سب نے اجازت نہیں دی۔

صورت مسئلہ: مورث نے دو بیٹے چھوڑے اور اپنے آدھے مال کی وصیت کی۔ اب اگر سب نے اجازت دے دی تو مال ان کے درمیان ارباعاً تقسیم ہوگا۔ دو رابع موصی لہ کیلئے ہوں گے اور دو رابع دونوں بیٹوں کیلئے ہوں گے اور اگر دونوں نے اجازت نہ دی تو مال ان کے درمیان اثلاثاً تقسیم ہوگا۔ ایک ثلث موصی لہ کیلئے ہوگا اور دو ثلث دونوں بیٹوں کیلئے ہوں گے۔ اگر ایک نے اجازت دے دی اور دوسرے نے اجازت نہیں دی تو جس نے اجازت دے دی ہے تو اس کے حق میں یہ سمجھا جائے گا گویا سب نے اجازت دے دی ہے اور مجیز کو رابع مال ملے گا اور جس نے اجازت نہیں دی ہے اس کے حق میں یہ سمجھا جائے گا گویا سب نے اجازت نہیں دی ہے اور اس کو ثلث مال ملے گا اور باقی موصی لہ کیلئے ہوگا۔ گویا لڑکے میں ۳/۱۲ مجیز کیلئے ہوگا اور ۴/۱۲ غیر مجیز کیلئے اور ۵/۱۲ موصی لہ کیلئے ہوگا۔

اگر کوئی وارث ایسا ہو جو جمیع میراث کا مستحق ہو تو اس وقت ثلث سے زائد مال میں وصیت کرنا بالکل جائز نہیں۔

اگر وارث ایسا ہو جو جمیع میراث کا مستحق نہ ہو جیسے میاں بیوی تو پھر مورث کو ثلث مال سے زائد میں وصیت کرنا بھی جائز ہے کیونکہ ان کیلئے میراث میں ایک حصہ مقرر ہے اور وہ کسی مال میں بھی اس سے زائد کے حق دار نہیں ہو سکتے اور جو اس سے زائد مال ہے وہ موصی کا ہے اور اس میں کسی کا حق نہیں ہے لہذا اس کیلئے اس میں وصیت کرنا جائز ہے۔ اسی وجہ سے امام محمدؒ فرماتے ہیں اگر بیوی نے ورثاء میں صرف خاوند چھوڑا اور کسی اجنبی کیلئے اپنے نصف مال کی وصیت کر دی تو یہ وصیت جائز ہے۔ اور زوج کیلئے ثلث مال ہوگا۔ اور موصی لہ کیلئے نصف مال ہوگا اور باقی سدس بیت المال کا ہوگا۔ زوج ثلث کا حق دار اس لیے ہوگا کیونکہ وہ اخراج وصیت کے بعد مستحق میراث ہوتا ہے تو پہلے موصی لہ کیلئے ثلث مال نکالا جائے گا کیونکہ وہ ہر حال میں اس کا مستحق ہے۔ اس کے بعد دو ثلث باقی بچیں گے ان میں نصف کا زوج اور ثلث کا نصف مال کو پورا کرنے کیلئے موصی لہ اور باقی سدس جس کا کوئی مستحق نہیں بیت المال مالک ہوگا۔

کیا بیوی خاوند کیلئے وصیت کر سکتی ہے

اگر بیوی کا وارث صرف خاوند ہو تو بیوی اس کیلئے وصیت کر سکتی ہے۔ اگر بیوی نے خاوند کیلئے آدھے مال کی وصیت کی تو سارا مال خاوند کا ہوگا آدھا بطور میراث اور آدھا بطور وصیت کیونکہ خاوند میراث سے پہلے وصیت کا مستحق نہیں۔ بخلاف اجنبی کے کیونکہ خاوند وارث ہے۔ خاوند کیلئے وصیت اس لیے جائز ہے کیونکہ اور کوئی ایسا وارث موجود نہیں جس کی اجازت پہ صحت وصیت موقوف ہو۔

اگر خاوند کی وارث صرف بیوی اور خاوند کسی دوسرے شخص کیلئے اپنے جمع مال کی وصیت کر دے تو بیوی کیلئے سدس ہوگا اور باقی پانچ سدس موصی لہ کیلئے ہوں گے کیونکہ عورت کو وصیت کردہ ثلث مال نکالنے کے بعد باقی میراث میں سے حصہ ملے گا اور ثلث نکالنے کے بعد باقی مال کے ربع کی مالک بیوی ہوگی اور باقی موصی لہ کیلئے ہوگا۔

کافر اور ذمی کیلئے وصیت

مسلمان کا ذمی کیلئے اور ذمی کا مسلمان کیلئے وصیت کرنا جائز ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: "لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ" [الممتحنة: ۸] "اللہ تم کو منع نہیں کرتا ان لوگوں سے جوڑتے نہیں تم سے دین میں اور نکالا نہیں تم کو تمہارے گھروں سے کہ ان سے کرو بھلائی۔"

موت کے بعد قبول وصیت

وصیت موصی لہ کے قبول کرنے پر موقوف ہوتی ہے۔ اور وصیت کہتے ہیں کہ عقد کے ذریعے مالک بنانا ہے اس لیے یہ بھی ہبہ اور بیع کے ذریعے مالک بنانے کی طرح قبول پر موقوف ہوگی۔ اگر قبول کرنا موت کے بعد پایا گیا تو وصیت پوری ہو جائے گی اور اگر قبول کرنا موت سے پہلے پایا گیا تو اس کے ساتھ کوئی حکم متعلق نہیں ہوگا۔ جب موصی فوت ہو جائے تو موصی لہ سے اس کی ملک زائل ہو جائے گی کیونکہ موت کی وجہ سے ملک ختم ہو جاتی ہے اور یہ موصی بہ موصی لہ کی ملک میں بھی داخل نہیں ہوگی کیونکہ یہ اس کے قبول کرنے پر موقوف ہے اور ورثاء بھی موصی لہ کا اس میں حق ہونے کی وجہ سے اس کے مالک نہیں ہوں گے۔ اور اگر موصی لہ نے موصی کی حیات میں وصیت کو قبول کر لیا یا رد کر دیا تو یہ باطل ہے کیونکہ اس کی ملکیت تو اس میں موت کے

بعد ثابت ہوئی ہے۔ پھر اگر اس نے موصلی کی موت کے بعد وصیت کو قبول کیا تو اس کی ملک اس میں ثابت ہو جائے گی خواہ وہ وصیت پر قبضہ کرے یا نہ کرے۔

وصیت کو قبول کرنا اور رد کرنا

اگر موصلی نے کسی کیلئے وصیت کی موصلی لہ نے موصلی کے سامنے تو اسے قبول کر لیا لیکن اس کی غیر موجودگی میں رد کر دیا تو اس رد کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے سامنے رد کر دے تو وصیت باطل ہو جائے گی اور اگر وہ نہ قبول کرے اور نہ ہی رد کرے حتیٰ کہ موصلی مر جائے تو اسے اختیار ہے۔ اگر چاہے تو قبول کرے اور اگر چاہے تو رد کر دے۔

موصلی لہ موصلی بہ کا کب مالک بنتا ہے

موصلی لہ موصلی بہ کا قبول کے بعد مالک بن جاتا ہے سوائے ایک مسئلہ کے کہ اس میں موصلی لہ بغیر قبول کیے بھی مالک بن جاتا ہے۔

وہ مسئلہ یہ ہے کہ موصلی فوت ہو جائے اور موصلی لہ بھی قبول اور رد سے پہلے فوت ہو جائے تو موصلی بہ موصلی لہ کے وراثت کی ملک میں چلا جائے گا کیونکہ موصلی کی موت کی وجہ سے اس کی طرف سے تو وصیت تمام ہو گئی۔ اب موصلی لہ کے قبول و رد پر موقوف تھی لیکن اس کی موت کی وجہ سے اس کی ملک میں داخل ہو گئی۔

کیا موصلی وصیت سے رجوع کر سکتا ہے

موصلی اپنے قول و فعل کے ذریعے وصیت سے رجوع کر سکتا ہے۔ اور جواز رجوع اس وجہ سے ہے کہ یہ تبرع ہے جو موصلی کی موت اور موصلی لہ کے قبول پر تام ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے تام ہونے سے پہلے رجوع جائز ہے اور اگر اس کو اس کے تام ہونے سے پہلے لازم قرار دے دیا جائے تو پھر یہ تبرع نہ ہو اگر موصلی نے رجوع کرنا ہو تو یہ کہہ کر رجوع کرے کہ میں نے اپنی وصیت سے رجوع کیا یا میں نے اسے باطل کیا یا ایسے اور الفاظ استعمال کرے۔ فعل کے ذریعے رجوع ایسے ہو سکتا ہے کہ موصلی کوئی ایسا فعل کرے جس کے ذریعے موصلی بہ سے اس کی ملک زائل ہو جائے جیسے بیع اور ہبہ وغیرہ اور جب اس کی ملک زائل ہوگی تو وصیت باطل ہو جائے گی۔

امام محمدؒ کے ہاں جس نے وصیت سے انکار کر دیا تو اس کا انکار رجوع نہیں ہوگا۔ امام

ابو یوسفؒ کے ہاں انکار رجوع شمار ہوگا لیکن امام محمدؒ کے قول کو امام ابو یوسفؒ کے قول پر ترجیح دی گئی ہے۔

دو افراد کے بارے میں وصیت کا حکم

طرفین کے نزدیک وصیین میں سے ایک کو دوسرے کی اجازت کے بغیر تصرف کا حق حاصل نہیں جبکہ امام ابو یوسف کے نزدیک دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کی اجازت کے بغیر تصرف کر سکتا ہے۔ امام ابو یوسفؒ کی دلیل یہ ہے کہ وصی بنانا ولایت ہے اور یہ ایک وصف شرعی ہے جو تقسیم نہیں ہو سکتا اس وجہ سے ان دونوں میں ہر ایک کیلئے ولایت کاملہ ثابت ہوگی جیسے نکاح کرانے میں دونوں بھائیوں کو برابر کی ولایت کاملہ حاصل ہوتی ہے۔ طرفین کی دلیل یہ ہے کہ یہ ولایت تفویض کے ساتھ ثابت ہوئی ہے اور اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے ان دونوں کو تفویض کس وجہ سے کی ہے؟ اس نے تفویض اس وجہ سے کی ہے کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ دونوں مل کر اکٹھے تمام تصرفات کریں اور ایک آدمی کا تصرف دو کا تصرف نہیں ہو سکتا۔ بخلاف ولایت نکاح بالاخوین کے کیونکہ وہاں سبب قرابت ہے جو کامل طریقے سے ہر ایک کے ساتھ قائم ہے۔ اس میں سے اشیاء ضروریہ جو ولایت سے تعلق نہیں رکھتی مستثنیٰ ہوں گی جیسے میت کی تجہیز و تکفین کا سامان خریدنا کیونکہ اس کی تاخیر سے میت کے خراب ہونے کا خدشہ ہے اور بچوں کے نقصان سے بچاؤ کیلئے ان کا کھانا اور کپڑے خریدنا اور دیعت کا بیعہ لوثانا اور مغضوب شدہ شے اور شراء فاسد کے ذریعے خریدی ہوئی چیز کو لوثانا اور موصلی کے مال کی حفاظت کرنا اور اس کے قرض کو ادا کرنا اور اس کی کسی معینہ وصیت کو نافذ کرنا اور میت کے حقوق کیلئے جھگڑنا اور میت کے بکھرے ہوئے اموال کو جمع کرنا کیونکہ تاخیر سے ان کے ناملنے کا خدشہ ہے کیونکہ جس کے ہاتھ بھی آئیں گے وہ ان کا مالک بن جائے گا۔ ان ذکر کردہ اشیاء میں چونکہ اجتماع متعذر ہے اس لیے وصیین میں سے ہر ایک الگ سے تصرف کر سکتا ہے۔

متفرق مسائل

موصلی نے پہلے ایک آدمی کیلئے ثلث مال کی وصیت کی اور پھر ایک دوسرے شخص کیلئے بھی ثلث مال کی وصیت کی لیکن وراثت نے اس کی اس وصیت کو جائز نہ رکھا تو ان دونوں کے درمیان ایک ثلث آدھا آدھا تقسیم ہوگا۔

موصی نے ایک شخص کیلئے ثلث مال اور دوسرے کیلئے سدس مال کی وصیت کی لیکن وراثت نے اس کی وصیت کو جائز نہ رکھا تو ثلث ان دونوں کے درمیان اثلاثاً تقسیم ہوگا پہلے کو دو حصے اور دوسرے کو ایک حصہ ملے گا۔

موصی نے ایک شخص کیلئے اپنے جمیع مال اور دوسرے کیلئے ثلث مال کی وصیت کی لیکن وراثت نے اس کی وصیت کو جائز نہ رکھا تو صاحبین کے نزدیک ثلث ان دونوں کے درمیان چار حصوں میں تقسیم ہوگا۔ پہلے کیلئے تین حصے ہوں گے اور دوسرے کیلئے ایک حصہ ہوگا۔

کیونکہ اس نے اول کیلئے کل مال کی وصیت کی اور وہ تین اثلاث ہیں اور دوسرے کیلئے ثلث کی وصیت کی تو کل مجموعہ چار اثلاث ہو گئے۔ جب وراثت نے اس کی وصیت کو جائز نہ رکھا تو میت کیلئے صرف ثلث مال میں تصرف باقی رہا تو ہم نے اس ثلث کو چار حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصہ دوسرے کو دے دیا اور تین حصے پہلے کو دے دیئے۔

امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ثلث ان دونوں کے درمیان نصف نصف تقسیم ہوگا کیونکہ عدم اجازت کی وجہ سے اس نے غیر مشروع وصیت کی لہذا یہ وصیت بالکل باطل ہو جائے گی اور ان میں سے ہر ایک کیلئے ثلث مال کی وصیت رہ جائے گی۔

موصی پر قرض اس قدر تھا جو اس کے جمیع مال کا احاطہ کیے ہوئے تھا تو اس کی وصیت جائز نہیں ہوگی کیونکہ قرض وصیت پر مقدم ہے اور قرض کا ادا کرنا فرض ہے اور وصیت پر عمل کرنا تبرع ہے لیکن اگر قرض خواہ اپنا قرض معاف کر دیں تو پھر قرض باقی نہ رہنے کی وجہ سے اس کی وصیت نافذ ہو جائے گی۔

موصی نے اپنے بیٹے کے حصے کی وصیت کی تو اس وصیت مال غیر میں ہونے کی وجہ سے باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے اپنے بیٹے کے حصے کے مثل مال کی وصیت کی تو یہ وصیت جائز ہوگی۔ اگر موصی کے دو بیٹے ہوں تو موصی لہ کیلئے ثلث ہوگا اگر ایک بیٹا ہو اور وہ اجازت دے دے تو موصی کیلئے نصف مال ہوگا وگرنہ اس کیلئے ثلث مال ہوگا۔ حضرت ایاس بن معاویہ فرماتے ہیں سہم کلام عرب میں سدس کو کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب بن قعقاع نے امام حسن سے روایت کیا ہے جس جس شخص کیلئے ایک سہم کی وصیت کی جائے اس کیلئے ہر حال میں سدس ہوگا۔

اور یہی قول امام ابو حنیفہ کا ہے اور یہی اصح ہے۔ صاحبین کے نزدیک اس کے کم از کم

حصہ ہوگا لیکن اگر وہ ثلث سے بڑھ جائے تو اسے ثلث دیا جائے گا۔

موصی نے اگر کسی کیلئے اپنے مال میں سے ایک جز کی وصیت کی تو وراثت جو چاہیں موصی لہ کیلئے دے سکتے ہیں۔ یہ ایسے بھی ہوگا کہ موصی نے جز کے مقرر کرنے کو وراثت پر چھوڑ دیا ہے اور یہ قلیل و کثیر سب کو شامل ہوگا اور اس میں جہالت صحت و وصیت سے مانع نہیں ہے۔ موصی نے حقوق اللہ ادا کرنے کی وصیت کی لیکن ثلث مال سے ان کی ادائیگی نہ ہو سکی تو فرائض کو غیر فرائض پر مقدم کیا جائے گا خواہ موصی نے ان کو مقدم کیا ہو یا مؤخر کیا ہو کیونکہ ان کا ادا کرنا اہم ہے۔ جیسے حج، زکوٰۃ کفارات وغیرہ اور اگر یہ سب برابر ہوں یعنی سب فرائض یا واجبات ہوں تو اسے شروع کیا جائے گا جس کو موصی نے مقدم کیا ہے اور اگر حقوق غیر واجبہ ہوں تو جس کو موصی نے مقدم کیا ہے اسے مقدم کیا جائے گا۔

موصی نے حج کرانے کی وصیت کی تو اس کے شہر میں سے ایک شخص اس کی طرف سے حج کرے گا کیونکہ موصی پر اسی شہر سے حج کرنا واجب ہے اور وصیت خود پر واجب شدہ چیز کو ادا کرنے کیلئے کی جاتی ہے۔ لہذا اس کے مال سے اتنے کا اعتبار کیا جائے گا جو اس کے شہر سے حج کرنے کیلئے کافی ہو جائے۔

اگر اس کے شہر سے اس کے ثلث مال میں حج نہ ہو سکے تو امرکافی حد تک وصیت نافذ کرنے کیلئے جہاں سے ثلث مال کافی ہو وہیں سے کسی کو حج کرادیا جائے۔

جو آدمی اپنے گھر سے حج کرنے کیلئے نکلا لیکن مناسک حج ادا کرنے سے پہلے فوت ہو گیا اور اس نے اپنی طرف سے حج کرنے کی وصیت کی تو امام صاحب کے نزدیک اس کی طرف سے اس کے شہر سے حج ادا کیا جائے گا۔ اور اس کی وصیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے شہر سے کسی کو حج کرایا جائے۔ صاحبین کے نزدیک جہاں وہ فوت ہوا ہے وہیں سے کسی کو حج کرایا جائے لیکن صحیح قول امام صاحب کا ہے۔

اگر کسی نے اپنے پڑوسیوں کیلئے وصیت کی تو امام صاحب کے نزدیک یہ صرف ان کیلئے ہوگی جن کے گھر ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں کیونکہ جو ارکا معنی قریبی لوگ ہیں اور حقیقت میں قریبی لوگ وہی ہیں جن کے گھر متصل ہوں۔ اور صاحبین کے نزدیک جو لوگ محلہ کی مسجد میں جمع ہوتے ہیں وہ سارے اس میں شریک ہوں گے خواہ ان کے گھر ساتھ ملے ہوئے ہوں یا نہ ملے ہوئے ہوں اور صحیح قول امام صاحب کا ہی ہے۔

جس شخص نے اپنے سرالیوں کیلئے وصیت کی تو اس کی وصیت اس کی بیوی کے ہر ذی

رحم محرم باپ، چچا، ماموں اور خالہ وغیرہ کیلئے ہوگی۔

جس شخص نے اپنے داماد کیلئے وصیت کی تو اس کی وصیت اس کی ہر ذی رحم محرم عورت کے خاوند کے لئے ہوگی یعنی اس کی بیٹیوں، بہنوں، پھوپھیوں اور خالاؤں کے خاوندوں کیلئے۔
امام قہستانی فرماتے ہیں مناسب یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں سسرال کیلئے کی گئی وصیت کو سسر کے ساتھ اور داماد کیلئے کی گئی وصیت کو بیٹی کے خاوند کے لئے خاص کر دیا جائے کیونکہ ہمارے ہاں یہی مشہور ہے۔

جس شخص نے اپنے اقارب اور ارحام کیلئے وصیت کی تو اس شخص کی وصیت ہر ذی رحم محرم کیلئے الاقرب فالاقرب کے اعتبار سے نافذ ہوگی۔ اور اس میں اس کے والدین اور اولاد شامل نہیں ہوگی کیونکہ ان کو اقارب نہیں کہتے۔ جو شخص والد کو اقارب میں شمار کرتا ہے تو یہ اس کی طرف نافرمانی سمجھی جائے گی کیونکہ اقارب ان کو کہتے ہیں جو آدمی کے کسی واسطہ کے ساتھ قریب ہوں اور والد اور اولاد بندے کے بغیر کسی واسطے کے از خود قریب ہوتے ہیں۔

اور اس صورت میں اس کی وصیت دو یا زیادہ افراد کیلئے ہوگی کیونکہ اس نے لفظ جمع ذکر کیا ہے اور وصیت میں میراث کی طرح اقل جمع دو افراد ہوتے ہیں۔

اگر موصی نے اپنے اقرباء کیلئے وصیت کی اور اس کے دو چچا اور دو ماموں ہوں تو امام صاحب کے نزدیک اس کی تمام وصیت چچاؤں کیلئے ہوگی۔ اقرب کا اعتبار کرتے ہوئے جیسے کہ میراث میں کیا جاتا ہے۔ اگر اس کا ایک چچا اور دو ماموں ہیں تو پھر چچا کیلئے نصف وصیت اور نصف وصیت ماموں کیلئے ہوگی۔ چچا کو باوجود زیادہ حق دار ہونے کی وجہ سے ساری وصیت نہیں دی جائے گی کیونکہ کم از کم دو افراد کا ہونا ضروری ہے۔

اور اگر اکیلا اس کا چچا ہو تو امام صاحب کے نزدیک اس کو نصف ثلث ملے گا اور صاحبین کے نزدیک اس کو پورا ثلث ملے گا۔ اگر اس کا چچا چچی اور ماموں ہوں تو چچا اور چچی کیلئے وصیت برابر برابر ہوگی کیونکہ وہ قرابت میں برابر ہیں اور یہ قرابت ننھیالی قرابت سے قوی ہے چچی اگرچہ وارث نہیں ہوتی لیکن وہ میت کے قریبی ہونے کی وجہ سے وصیت کی مستحق ہوگی۔

اگر اس نے اپنے ذی قرابت یا ذی نسب کیلئے وصیت کی تو پھر بھی تقسیم کی صورت یہی ہوگی۔ مگر اس صورت میں اکیلا شخص بھی بالا جماع کل وصیت کا مستحق ہو سکتا ہے کیونکہ لفظ ”ذی“ مفرد ہے۔ جب اس نے اپنے رشتہ داروں کیلئے **الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ** کے اعتبار سے وصیت کی تو ایک شخص اکیلا ہونے کی وجہ سے جمیع وصیت کا مستحق ہوگا کیونکہ اس کا قول الاقرب فالاقرب اسم

مفرد ہے اس لیے اس میں اس کے ذی رحم محرم اور غیر محرم شامل ہو جائیں گے۔ اگر اس کا کوئی ذی رحم محرم نہ ہو تو امام صاحب کے نزدیک وصیت باطل ہو جائے گی اور صاحبین کے نزدیک باطل نہیں ہوگی۔

موصی نے اگر کسی کی اولاد کیلئے وصیت کی تو اس میں اس کے بچے اور بچیاں دونوں شامل ہیں اور اس میں فقیر اور غنی برابر ہوں گے کیونکہ اولاد کا لفظ مذکر اور مؤنث دونوں پر برابر بولا جاتا ہے۔

موصی نے اگر کسی کے ورثاء کیلئے وصیت کی تو وصیت ان کے درمیان لِّلَّذِکْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِیِّنِ کے اعتبار سے تقسیم ہوگی کیونکہ لفظ میراث کا استعمال یہاں تفصیل کا تقاضا کرتا ہے۔

موصی نے اگر کسی کے یتیموں اور بیواؤں کیلئے وصیت کی تو وہ ان کے فقیروں اغنیاء مردوں اور عورتوں کیلئے ہوگی۔ یتیم ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس کا باپ اس کے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو چکا ہو۔

ارملہ ہر اس بالغہ فقیرہ عورت کو کہتے ہیں جس کے خاوند نے اسے چھوڑ دیا ہو یا فوت ہو گیا ہو اس نے دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو اور مرد کو بھی مجازاً ارمِل کہتے ہیں۔
اشم: ہر اس عورت کو کہتے ہیں جس کا خاوند نہ ہو لیکن اس کے ساتھ جماع ہو چکا ہو وہ بالغہ ہو یا غیر بالغہ فقیر ہو یا غنی۔

الشاب والفتی: پندرہ سال کی عمر سے لے کر تیس سال تک کی عمر کے جوان کو شاب اور فتی کہتے ہیں اور غلام اس کو کہتے ہیں جو نابالغ نہ ہو اور بالغ نہ ہو۔
کھل: تیس سال کی عمر سے لے کر سفید بالوں کے آجانے تک کی عمر کو کہتے ہیں اور صاحبین فرماتے ہیں کھل چالیس سے پچاس سال تک کی عمر کو کہتے ہیں اور جب سفید بال غالب آجائیں تو پھر اس کو شیخ کہتے ہیں۔

شیخ پچاس سال کی عمر سے لے کر آخر عمر تک والے کو کہتے ہیں۔

مسائل

موصی نے کسی کو وصیت کی کہ میرا ثلث مال جہاں چاہو خرچ کر دو۔ وہ اس مال کو خود پر بھی خرچ کر سکتا ہے کیونکہ اس صورت میں بھی موصی کا امتثال امر پایا جا رہا ہے۔ موصی نے اگر

کسی کو وصیت کی کہ میرا ثلث مال جسے چاہو دے دو تو وہ یہ مال خود کو نہیں دے سکتا کیونکہ اعطاء (دینا) کسی دوسرے کو دینے سے بھی متحقق ہوگا۔ لینا اور دینا کسی ایک آدمی سے متحقق نہیں ہو سکتے بخلاف خرچ کرنے کے کہ وہ ایک آدمی سے بھی متحقق ہو سکتا ہے۔

اگر موصی نے کہا میری طرف سے دس مسکینوں پر ہزار درہم خرچ کر دو لیکن اس ایک مسکین پر ہزار درہم خرچ کر دئیے تو امام ابوحنیفہؒ سے اس مسئلہ میں دو قول مروی ہیں۔ قول اول یہ ہے کہ یہ جائز ہے کیونکہ صدقہ کہتے ہیں اللہ کیلئے نیکی کرنا اور زکوٰۃ کی طرح مساکین اس کے مصارف نہیں اور ایک میں اگرچہ لفظ جمع استعمال ہوا ہے لیکن وہ جنس فقیر اور مسکین کو بھی شامل ہے۔

اس لیے اگر اس نے اپنی ساری زکوٰۃ ایک فقیر کو دے دی تو بھی جائز ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ایک ہی مسکین پر خرچ کرنا جائز نہیں۔ دل اسی قول کی طرف راغب ہے۔

اگر موصی نے کہا کہ میری طرف سے ہزار روپیہ صدقہ کر دو یا یہ کپڑا صدقہ کر دو تو موصی اس کی قیمت صدقہ نہیں کر سکتا۔ لیکن قول مختار میں وہ قیمت بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ لیکن دفن کرنے کی یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی وصیت باطل ہے۔

﴿ کتاب الفرائض ﴾

فرائض فریضہ کی جمع ہے بمعنی مقرر کرنا اور بیان کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ" [البقرہ: ۲۳۷] "آدھا اس کا کہ تم مقرر کر چکے تھے۔" نیز ارشاد ہے: "سُورَةٌ أَنْزَلْنَاَهَا وَفَرَضْنَاهَا" [النور: ۱] "یہ ایک سورت ہے کہ ہم نے اتاری اور ذمہ پر لازم کی۔"

فرض کا شرعی معنی ہے کہ جو دلیل قطعی کتاب سنت متواترہ اور اجماع وغیرہ سے ثابت ہو۔ فقہ کے اس حصہ کو فرائض اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مقررہ حصص ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہیں۔

یہ نام دو وجہ سے رکھا گیا ایک تو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تقسیم کے بعد فرمایا: "فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ" [النساء: ۱۱] "حصہ مقرر کیا ہوا اللہ کا ہے۔" نیز آنحضرت ﷺ نے بھی فرمایا "تعلّموا الفرائض وعلّموا الناس فانی امرأ مقبوض الی آخرۃ" "فرائض کا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ میں تو اس دنیا سے جانے والا ہوں۔"

دوسرا اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز و روزہ وغیرہ کا اجمالاً ذکر فرمایا ہے ان کی مقادیر کو ذکر نہیں فرمایا لیکن فرائض کو ذکر کرنے کے بعد اس کے حصص اور مقادیر بھی بیان فرما دیا اس لیے اس علم کا نام علم الفرائض رکھ دیا گیا۔

ارث کا لغوی معنی ہے بقاء اور وارث کا لغوی معنی باقی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفتی نام بھی وارث ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کے فنا ہونے کے بعد باقی رہیں گے اس لیے انہیں وارث کہتے ہیں۔

اور ارث کا شرعی معنی ہے کہ ایک کا مال نیابت کے سبب دوسرے کی طرف منتقل ہونا یعنی وارث کے باقی ہونے کی وجہ سے دوسرے کا مال اس کی طرف منتقل ہو گیا۔

اس علم کی بڑی شرافت ہے کیونکہ اللہ پاک نے اسے خود بیان فرمایا ہے اور خود تقسیم کیا ہے اور خوب روز روشن کی طرح واضح کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي"

أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ [النساء: ۱۱] ”حکم کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے حق میں کہ ایک مرد کا حصہ ہے برابر دو عورتوں کے۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرائض کے اہم حصوں کو بیان فرما دیا ہے اور باقی حصے آدمی اس میں غور و فکر کر کے مستطب کر سکتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرائض کی تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کی رغبت دلائی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”یا ابا ہریرہ تعلموا الفرائض و علموه فانہ نصف العلم و انہ ینسی و هو اول ما ینزع من امتی“

”اے ابو ہریرہ علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ کیونکہ یہ نصف علم ہے اور یہ بھلا دیا جائے گا اور میری امت میں سب سے پہلے یہ علم اٹھایا جائے گا۔“
یہ حدیث ضعیف ہے لیکن ماقبل کی حدیث صحیح اس کی تائید کرتی ہے۔

میت کے ترکہ میں سب سے پہلے کیا کیا جائے

میت کے ترکہ میں سب سے پہلے اس کی رہن کو چھڑایا جائے گا۔ پھر اس کے حالات کے مطابق اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی کیونکہ لباس اور ستر عورت لازمی اور ضروری ہے اور جس طرح یہ دیون نفقات اور جمیع واجبات سے اس کی زندگی میں مقدم تھے۔ اسی طرح اس کے مرنے کے بعد بھی مقدم ہوں گے۔ اور اس کو جیسے حلال کپڑے وہ اپنی زندگی میں پہنتا تھا اسی جیسا کفن اس کے ترکہ میں سے بغیر کنجوسی اور فضول خرچی کے دیا جائے گا۔

پھر اس کے باقی بچے ہوئے جمیع مال میں سے اس کا فرض ادا کیا جائے گا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ“ [النساء: ۱۱] ”وصیت کے بعد جو کر کے مرایا بعد ادائے قرض کے۔“

حضرت علی سے مروی ہے نبی کریم ﷺ نے وصیت پورا کرنے سے پہلے دین ادا کرنے کا حکم دیا اور آپ ہی سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية“ دین ادا کرنا وصیت سے مقدم ہے اور وارث کیلئے کوئی وصیت نہیں۔“^۱

حضرت ابن عباس سے لوگوں نے پوچھا آپ حج سے پہلے عمرہ کا حکم کیسے دیتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”وَأَتُّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ“ [البقرة: ۱۹۶] ”اور پورا کرو حج اور

عمرہ اللہ کے واسطے۔“

حضرت ابن عباس نے ان سے فرمایا تم کیسے پڑھتے ہو دین کو وصیت سے پہلے پڑھتے ہو یا وصیت کو دین سے پہلے پڑھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا وصیت کو دین سے پہلے پڑھتے ہیں پھر ان سے پوچھا تم کس چیز سے ابتداء کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم دین سے ابتداء کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمرہ حج سے پہلے کرنا بھی ایسے ہی ہے۔^۱

الغرض دین وصیت پر مقدم ہوگا کیونکہ یہ میت پر لوگوں کا حق ہے اور وصیت کا مطلب ہے کہ میت کی طرف سے لوگوں کو حق دار بنانا۔

بہر حال سب سے پہلے اس کے رہن کو چھڑایا جائے گا پھر اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی پھر اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ پھر اس کے ثلث مال سے اس کی وصیتوں کو نافذ کیا جائے گا۔ اگر اس نے وصیت بالمال کی ہو یا کسی معین چیز کی کی ہو تو اس میں ثلث مال کا اعتبار کر کے اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔

اگر اس نے وصیت مشترک حصہ جیسے ثلث ربع میں کی ہو تو موصلیہ و رثاء کے ساتھ شریک ہوگا۔ ترکہ کے بڑھنے سے اس کا حصہ بھی بڑھ جائے گا اور ترکہ کے کم ہونے سے اس کا حصہ بھی کم ہو جائے گا۔ اس لیے مال کا حساب لگایا جائے گا اور اس میں وارث کی طرح وصیت کا حصہ نکالا جائے گا اور وصیت کو وراثت میں ترکہ تقسیم کرنے پر مقدم کیا جائے گا۔ پھر باقی ترکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تین آیتوں میں مقرر کردہ حصوں کے مطابق وراثت میں تقسیم کر دیا جائے گا۔

انسان وراثت کا کب مستحق ہوگا

آدمی رشتہ داروں اور نکاح کی وجہ مستحق میراث ہوتا ہے اور اس پر آیات منصوصہ دال ہیں اسی طرح آدمی ولاء سے بھی مستحق میراث ہوتا ہے لیکن آج کل ولاء کے نہ پائے جانے کی وجہ سے اس کتاب میں اس سے بحث نہیں کی گئی۔

موانع ارث

موانع ارث چار ہیں۔ (۱) قتل، (۲) غلامی (۳) اختلاف مذاہب (۴) اختلاف

دارین۔

مستحق وراثت

نمبر دو ذوالسہام، انہیں اصحاب الفروض بھی کہتے ہیں۔ اور اصحاب الفروض وہ ہیں جن کیلئے کتاب و سنت یا اجماع کے ذریعے حصہ مقرر کر دیا گیا ہو۔ میراث کی تقسیم کی ابتداء انہیں سے کی جائے گی۔

ارشاد نبوی ہے: ”الْحَقُّوْا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ مِمَّا الْقَتَّ الْفَرَائِضُ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ أَحِلِّ ذَكَرٌ“^۱ ”سب سے پہلے مال اصحاب الفروض میں تقسیم کرو جو ان سے بچ جائے وہ میت کے سب سے قریبی مرد کا ہے۔“

اصحاب الفرائض بارہ ہیں دس نسبی اور دو نسبی۔

نسبی دو الفروض میں ہیں جن میں تین مرد اور سات عورتیں ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے متوفی کا والد ہے۔ اگر اس کے ساتھ میراث میں متوفی کے بیٹے اور پوتے بھی شریک ہوں تو والد کو صرف فرض حصہ یعنی سدس ملے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَلَا بَوَّيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ“ [النساء: ۱۱] ”اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کیلئے دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے اس مال سے جو کہ چھوڑا اگر میت سے اولاد ہے۔“

اگر والد کے ساتھ بیٹے اور پوتے نہ ہوں تو پھر یہ عصبہ محض ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ“ [النساء: ۱۱] ”اور اگر اس کے اولاد نہیں اور وارث ہیں اس کے ماں باپ تو اس کی ماں کا ہے تہائی۔“ اس آیت سے معلوم ہوا کہ باقی مال ماں باپ کا ہوگا۔

متوفی کے والد کے ساتھ متوفی کی بیٹیاں یا پوتیاں بھی میراث میں شریک ہوں تو والد کو سدس بطور فرض کے ملے گا اور بیٹی اگر ایک ہے تو اس کیلئے نصف ہے اور اگر دو یا زیادہ ہیں تو پھر ان کیلئے دوثلث ہیں اور باقی مال عصبہ ہونے کی وجہ سے والد کو ملے گا۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے: ”مِمَّا الْقَتَّ الْفَرَائِضُ وَلَا وَلِيَّ رَجُلٍ ذَكَرٌ“ ”جو اصحاب الفروض سے بچے وہ میت کے سب سے قریبی مرد کیلئے ہے۔“ اب متوفی کے والد کی تین حالتیں ہوں گی (۱)۔ صرف مقرر کردہ سدس اس ملے گا۔ اگر متوفی کے بیٹے یا پوتے ہوں۔ (۲)۔ صرف عصبہ ہوگا جب متوفی کے بیٹے یا پوتے نہ ہوں۔ (۳) مقرر کردہ سدس بھی ملے گا اور عصبہ بھی ہوگا جب متوفی کی بیٹیاں یا

پوتیاں ہوں۔

اصحاب فروض میں دوسرا مرد متوفی کا دادا ہے۔ اور اس سے مراد جد صحیح ہے۔ جد صحیح اس کہتے ہیں جس کے میت کے ساتھ رشتے میں عورت کا واسطہ نہ ہو اس میں میت کا دادا اور میت کا پردادا بھی شامل ہے اور والد کی عدم موجودگی میں یہ بمنزلہ والد کے ہے۔ اس کے حالات ابھی آگے آئیں گے اور لفظ اب کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے۔

یوسف علیہ السلام کے قصہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي اِبْرَاهِيمَ وَاِسْحٰقَ“ [یوسف: ۳۸] ”اور پکڑا میں نے دین اپنے باپ دادوں کا ابراہیم اور اسحاق کا۔“

حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یوسف کے دادا تھے اور حضرت ابراہیم ان کے پردادا تھے۔

اصحاب فروض میں تیسرا مرد اخیانی بھائی ہے اگر متوفی کا ایک اخیانی بھائی یا بہن ہو تو اسے سدس ملے گا اور اگر وہ دو بھائی ہوں یا دو سے زیادہ ہوں خواہ بہنیں ہوں یا بھائی ہوں تو اسے ثلث ملے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَكَانَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُوْسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ“ [النساء: ۱۲] ”اور اگر وہ مرد کہ جس کی میراث ہے باپ بیٹا کچھ نہیں رکھتا یا عورت ہو ایسی ہی اور اس میت کے ایک بھائی ہے یا بہن ہے تو دونوں میں سے ہر ایک چھٹا حصہ ہے اور اگر زیادہ ہوں اس سے تو سب شریک ہیں ایک تہائی میں۔“

حضرت ابی اور سعد بن ابی وقاص نے ”وله اخ او اخت لام“ پڑھا ہے ان دونوں کی قرأت کو نبی کریم ﷺ سے نقل کردہ روایت کی طرح ہیں سمجھا جائے گا اور انہیں بطور تفسیر ہی کے لیا جائے گا۔ اسی پر صحابہ کا اجماع ہے۔

ب: اصحاب فروض جن میں سب سے پہلی عورت میت کی بیٹی ہے اگر میت کی اکیلی بیٹی ہو تو اسے نصف ملے گا۔ اگر میت کی بیٹیاں یا دو سے زیادہ ہوں لیکن بیٹا نہ ہو تو بیٹیوں کو دو ثلث ملیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ“ [النساء: ۱۱] ”تو ان کیلئے دو تہائی اس مال میں سے جو چھوڑا اور اگر ایک ہی ہو تو اس کیلئے آدھا ہے۔“

اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ”فَوْقَ اثْنَيْنِ“ ہے مراد دو یا دو سے

زیادہ بیٹیاں ہیں اور اس آیت میں تقدیم و تاخیر ہے اس کی تقدیری عبارت یہ ہے ”وَإِنْ كُنَّ نِسَاءً اِثْنَيْنِ مِمَّا فَوْقَهَا“ اس کی مثال ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”فَاضْرِبُوهُ فَوْقَ الْاَعْنَاقِ“ [الانفال: ۱۳] ”سو مارو گردنوں پر“

یعنی اضر بوالا، عناق مما فوقها ان کی گردنوں اور گردنوں کے اوپر کے حصے پر مارو اور فوق دونوں میں آیتوں میں زیادہ ہے یہی اکثر علماء کا مذہب ہے لیکن حضرت ابن عباس ظاہر الفاظ پر عمل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ایک بیٹی کیلئے نصف ہے اور دو کیلئے بھی نصف ہے اور دو سے زائد کیلئے ثلثان ہے۔

اور بیٹی جب بیٹے کی موجودگی میں جو اس سے حالاً قوی ہے ثلث کی مستحق ہوتی ہے تو بیٹی جو قوت اور استحقاق میں اس کے برابر ہے اس کی موجودگی میں تو وہ بدرجہ اولیٰ ثلث کی مستحق ہوگی اور جب دو بہنیں ثلثین کی مستحق ہوتی ہیں تو بیٹیاں جو ان سے زیادہ میت کے قریب ہیں بدرجہ اولیٰ ثلثین کی مستحق ہوں گی۔

عورتوں میں دوسری متوفی کی پوتی ہے وہ اگر اکیلی ہو تو اس کے لئے نصف ہے اور اگر وہ دو یا دو سے زیادہ ہیں تو ان کیلئے ثلثین ہے۔ اور وہ حقیقی بیٹے کی عدم موجودگی میں حقیقی بیٹیوں کی طرح ہوں گی۔ کیونکہ ولد کا اطلاق ان پر بھی حقیقتاً اور شرعاً ہوتا ہے مگر پوتے پوتیوں کی میت سے رشتہ داری بیٹے کی وجہ سے قائم ہوتی ہے اور اسی کے سبب وہ وارث بنتی ہیں اور اس کی موجودگی میں وراثت سے محروم ہو جاتی ہیں۔ جیسے باپ کی موجودگی میں دادا اور ماں کی موجودگی میں جدت محرم ہو جاتی ہیں لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ماں کی موجودگی میں متوفی کے بھائی محروم ہو جائیں اگرچہ ان کی میت سے رشتہ داری ماں کی وجہ سے قائم ہوتی ہے لیکن یہاں وارث بننے کا سبب مختلف ہے۔ ماں امومت کی وجہ سے وارث بن رہی ہے اور بھائی اخوت کی وجہ سے وارث بن رہے ہیں۔ متوفی کی پوتی کیلئے بیٹی کی موجودگی میں سدس ہے اور متوفی کی بیٹی کیلئے نصف ہے اور باقی متوفی کی بہن کا ہوگا۔ پوتی کیلئے یہ حصہ ثلثین کی تکمیل کیلئے ہوگا اگر متوفی کی دو حقیقی بیٹیاں ہوں تو ان کی موجودگی میں میت کی پوتیاں اور بہنیں محروم ہو جائیں گی کیونکہ متوفی کی بیٹیوں کا ثلثین میں حق نص کتاب سے ثابت ہے اور پوتیاں بیٹیوں کی غیر موجودگی میں وارث ہوتی ہیں۔ جب بیٹیوں نے ہی پورے دو ثلث لے لیے تو اب تبعیت کی وجہ سے کوئی باقی نہ رہا اس وجہ سے پوتیاں محروم ہو جائیں گی مگر ان کے برابر درجہ میں یا ان سے نیچے کوئی لڑکا ہو تو وہ ان کو عصبہ بنا دے گا اور باقی مال ان کے درمیان للذکر مثل حظ الاثین کے اعتبار

سے تقسیم ہوگا۔

مثال: میت نے دو بیٹیاں اور ایک پوتی چھوڑی تو بیٹیوں کیلئے دو ثلث ہوں گے اور پوتی کیلئے کچھ نہیں ہوگا۔

مثال: میت نے دو بیٹیاں ایک پوتی اور ایک اس کا چچا زاد بھائی چھوڑا تو بیٹیوں کیلئے دو ثلث ہوں گے اور باقی مال ان دونوں میں للذکر مثل حظ الاثین کے اعتبار سے تقسیم ہوگا۔

مثال: میت نے دو بیٹیاں ایک پوتی اور ایک پڑپوتی اور ایک پڑپوتا چھوڑا تو بیٹیوں کیلئے دو ثلث ہوں گے اور باقی مال پوتی اور اس سے نیچے والوں کے درمیان للذکر مثل حظ الاثین کے اعتبار سے تقسیم ہوگا۔

تیسری عورت متوفی کی والدہ ہے اور اس کے تین احوال ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ متوفی اگر ماں، بیٹا، پوتا، یا دو اخیانی، علاتی یا حقیقی بھائی یا بہنیں چھوڑیں تو متوفی کی والدہ کو سدس ملے گا۔ ”وَلَا بَوَّيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ“ [النساء: ۱۱] ”اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کیلئے دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے اس مال سے جو کہ چھوڑا اگر میت سے اولاد ہے۔“

والدہ کی دوسری حالت یہ ہے کہ متوفی اگر صرف والدہ چھوڑے تو اسے ثلث ملے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ“ [النساء: ۱۱] ”اور اگر اس کے اولاد نہیں اور وارث ہیں اس کے ماں باپ تو اس کی ماں کا ہے تہائی پھر اگر میت کے کئی بھائی ہیں تو اس کی ماں کا ہے چھٹا حصہ۔“ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں والدہ ثلث سے سدس کی طرف اس وقت جائے گی جب متوفی کے بھائی تین یا تین سے زیادہ ہوں۔ کیونکہ قرآن پاک نے ”اخوة“ لفظ جمع ذکر کیا ہے ان کے استدلال کا جواب یہ ہے کہ یہاں لفظ جمع تشبیہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور جمع اجتماع سے ماخوذ ہے اور وہ دو بھائیوں کے اجتماع سے بھی متحقق ہو جاتا ہے۔ مروی ہے کہ حضرت ابن عباس نے حضرت عثمانؓ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے اخوة (جمع) کے ساتھ ماں کو محبوب کیا ہے اور دو کیلئے عربی لغت میں اخوة نہیں ہیں۔ تو حضرت عثمان نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ بات مجھ سے پہلے سے چلی آرہی ہے اور میں اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان کا یہ ارشاد اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس بات پر تمام حضرات کا اجماع تھا۔

الثالث: متوفی کی بیوی اور والدین وارث ہیں تو بیوی کو ربع ملے گا اور والدہ کو ثلث مابقی ملے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ“ [النساء: ۱۱] ”اور وارث ہیں اس کے مال باپ تو اس کی ماں کا ہے تہائی۔“ بیوی کو مقرر حصہ ملنے کے بعد باقی تمام کے والدین وارث تھے لہذا والد کو مابقی کا ثلث دیا جائے گا۔

ب: بیوی فوت ہوگئی اور اس نے ورثاء میں خاوند اور والدین ہیں تو اس کے خاوند کو نصف ملے گا اور والدہ کو خاوند کا حصہ نکالنے کے بعد مابقی کا ثلث ملے گا اور والدہ کو ثلث کل نہیں دیا جائے گا کیونکہ اگر اسے ثلث کل دیا جائے تو اس کے اور خاوند کے سبب استحقاق اور ضرب میں برابر ہونے کے باوجود یہ لازم آئے گا کہ اسے افضل قرار دیا جا رہا ہے جو کہ خلاف اصول ہے اگر دونوں صورتوں میں باپ کی جگہ دادا ہو تو والدہ کو کامل ثلث ملے گا۔

متوفی کے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے کیونکہ والدہ کی میت سے رشتہ داری بغیر واسطہ کے اور دادا کی باپ کے واسطہ سے ہے اور اختلاف قرب کے وقت کمی زیادتی جائز ہے جیسے متوفی نے بیوی، سگی بہن اور علاقائی بھائی وارث چھوڑے تو زوجہ کو ربع بہن کو نصف اور بھائی کو مابقی ملے گا۔

چوتھی جدہ صحیحہ ہے جسے سدس ملے گا۔ جدہ صحیحہ اسے کہتے ہیں کہ متوفی کے ساتھ اس کے رشتے میں دو ماؤں کے درمیان باپ کا رشتہ نہ ہو۔ اگر باپ کا رشتہ شامل ہو تو وہ جدہ فاسدہ ہے اگر متوفی نے ورثاء میں نانی کو چھوڑا جیسے اس کو ماں کی ماں اگر چہ وہ اوپر تک ہو یا دادی کو چھوڑا والد کی ماں اگر چہ وہ اوپر تک ہو تو جدہ کیلئے سدس ہوگا۔

حضرت قبیعہ بن ذویب سے روایت ہے ایک جدہ حضرت ابوبکر کے پاس آئی اور ان سے اپنے میراث کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا میں تیرے لیے کتاب و سنت میں کوئی حصہ نہیں پاتا تو لوٹ جا میں لوگوں سے پوچھ کر تجھے اس بارے میں بتاؤں گا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا میں نبی کریم ﷺ کے پاس موجود تھا آپ نے جدہ کو سدس دیا تھا۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا تیرے ساتھ کوئی بھی تھا تو محمد بن سلمہ کھڑے ہوئے اور کہا واقعہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت مغیرہ نے بیان کیا ہے۔

حضرت ابوبکر نے اس عورت کیلئے سدس مقرر فرما دیا پھر ایک اور جدہ حضرت عمر کے پاس آئی اور اپنی میراث مانگی آپ نے فرمایا تیرے لیے کتاب اللہ میں کوئی حصہ نہیں اور جو میراث کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے وہ دوسری کیلئے تھا جس فرائض میں کسی قسم کی زیادتی نہیں کر سکتا۔

ہاں اس سدس میں اگر تم دونوں اکٹھی ہو جائیں تو تم اسے آپس میں تقسیم کر لیتیں اور تم دونوں میں اگر کسی ایک نے اسے لے لیا ہے تو وہ اسی کا ہے۔

پانچویں: ماں باپ شریک (سگی) بہن ہے۔ سگی بہن اگر اکیلی ہو تو اسے نصف ملے گا اگر دو یا زیادہ ہوں تو انہیں ثلثان ملیں گے۔ چھٹی علانی نہیں ہیں اور وہ سگی بہن کی عدم موجودگی میں ان کی طرح ہیں کیونکہ آیت میں لفظ اخت تمام بہنوں کو شامل ہے مگر سگے بہن بھائیوں کو قوت قرابت کی وجہ سے مقدم کیا جائے گا کیونکہ وہ دو جہتوں سے میت کے قریب ہیں۔

سگے بہن بھائیوں کی عدم موجودگی میں علانی بہنوں کیلئے خواہ وہ ایک ہو یا زیادہ سدس ہوگا اور ایک سگی بہن ہو تو اس کیلئے نصف ہوگا اور علانی بہنیں تکملہ، للثلثین کیلئے اس کے ساتھ شریک ہوں گی۔ سگی بہنیں اگر دو یا زیادہ ہوں تو ان کیلئے دو ثلث ہوں گے اور علانی بہنیں اس وقت محروم ہوں گی۔ ہاں اگر ان کے ساتھ کوئی علانی بھائی ہو تو وہ ان کو عصبہ بنا دے گا اور باقی مال ان کے درمیان للذکر مثل حظ الاثین کے اعتبار سے تقسیم ہوگا۔

ساتویں اخیانی بہنیں ہیں: اخیانی بہن اگر اکیلی ہو تو اس کیلئے سدس ہے اور اگر دو یا زیادہ ہوں تو ان کیلئے ثلثان ہیں ان کے پورے اخیانی بھائی کے تحت گزر چکے ہیں یہ کل دس اصحاب ہوئے جن میں تین مرد اور سات عورتیں ہیں۔ مرد باپ اور اور اخیانی بھائی ہیں۔ باپ کیلئے کبھی سدس ہوتا ہے اور کبھی باپ عصبہ ہوتا ہے اور کبھی اس کیلئے فرض اور تعصب دونوں ہوتے ہیں اور جد صحیح باب کی غیر موجودگی میں بمنزلہ باپ کے ہے۔ اخیانی بھائی اگر اکیلا ہو تو اس کیلئے سدس ہے اور دو یا زیادہ ہوں تو ان کیلئے ثلث ہے اور بھائی اور بہنیں اس میں برابر شریک ہوں گی۔

سات عورتیں یہ ہیں۔

- (۱) بیٹی اس کیلئے نصف ہے۔ اگر اکیلی ہو اور اگر دو یا زائد ہوں تو ان کیلئے دو ثلث ہیں۔
- (۲) پوتی اگر اکیلی ہو تو اس کیلئے نصف ہے اگر دو یا دو سے زائد ہوں تو ان کیلئے دو ثلث ہیں۔ حقیقی بیٹی کی موجودگی میں اس کیلئے سدس ہوگا۔
- (۳) ماں: بیٹی کی موجودگی میں ماں کیلئے سدس ہوگا بیٹی کی غیر موجودگی میں اس کیلئے ثلث ہوگا دونوں مسئلوں میں میاں اور بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد باقی کا ثلث ماں کا ہوگا۔
- (۴) جدہ نانی دادی انہیں سدس ملے گا۔
- (۵) سگی بہنیں اگر اکیلی ہیں تو اس کیلئے نصف ہے اور اگر دو یا زیادہ ہوں تو ان کیلئے دو ثلث

ہیں۔

(۶) علاقائی بہنیں، سگی بہنوں کی غیر موجودگی میں سگی بہنوں کی طرح ہیں۔ سگی بہن کی موجودگی میں ایک یا زیادہ علاقائی بہنوں کیلئے دوثلث پورے کرتے ہوئے ایک سدس ہوگا۔ اگر سگی بہنیں دو یا زیادہ ہوں تو علاقائی بہنیں محروم ہو جائیں گی۔ ہاں اگر ان کے ساتھ کوئی علاقائی بھائی ہو تو وہ انہیں عصبہ بنا دے گا۔

(۷) اخیانی بہنیں: اگر اکیلی ہو تو اس کیلئے سدس ہوگا اور اگر دو یا دو سے زائد ہوں تو ان کیلئے ثلث ہوگا۔

بقیہ اصحاب اسہام میں سے دو بوجہ سبب وراثت میں حصہ دار بنتے ہیں اور وہ میاں بیوی ہیں۔ متوفاۃ کے بیٹے اور پوتے کی غیر موجودگی میں خاوند کیلئے نصف ہے۔ متوفاۃ کے بیٹے اور پوتے کی موجودگی میں خاوند کیلئے ربع ہے۔ متوفی کے بیٹے اور پوتے کی غیر موجودگی میں بیوی کیلئے ربع ہوگا بیٹے اور پوتے کی موجودگی میں ثمن ہوگا۔

بیوی خواہ اکیلی ہو یا زیادہ ہوں وہ ربع اور ثمن میں مشترک ہوں گی ارشاد باری تعالیٰ ہے: "فَلَهُنَّ" یہ اسم جمع ہے اور اس پر اجماع ہے۔

چند ضروری مسائل

جس شخص میں ایسی دو قرابتیں جمع ہو جائیں کہ اگر وہ دو الگ الگ شخصوں میں ہوں تو وہ دونوں وارث ہوتے تو یہ شخص ان دونوں قرابتوں کی وجہ سے وارث ہوگا اور اس کے ساتھ دو شخصوں جیسا برتاؤ کیا جائے گا۔

مثال بیوی نے صرف خاوند کو وارث چھوڑا اور وہ اس کا چچا زاد بھائی بھی ہے تو اس کیلئے نصف خاوند ہونے کی وجہ سے ہوگا اور باقی نصف چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے ہوگا۔

مثال: عورت نے اپنے دو چچا زاد بھائیوں کو وارث چھوڑا ان میں ایک اس کا اخیانی بھائی بھی ہے تو جو اخیانی بھائی بھی ہے اسے سدس ملے گا اور باقی ان دونوں کے درمیان چچا زاد ہونے کی وجہ سے برابر تقسیم ہوگا۔

مثال: بیوی نے دو چچا زاد بھائیوں کو وارث چھوڑا ان میں ایک اس کا خاوند بھی ہے تو خاوند کو زوجیت کی وجہ سے نصف ملے گا اور باقی ان دونوں کے درمیان چچا زاد ہونے کی وجہ سے برابر تقسیم ہوگا۔

مقرر شدہ حصص

کتاب اللہ میں مقرر کردہ حصے ثمن، سدس، ربع، ثلث، نصف اور ثلثان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ثمن کو زوجہ کے فرض میں ذکر کیا ہے۔ ربعہ کو زوجہ کیلئے اور اولاد کی عدم موجودگی میں زوج کیلئے بھی ربع ہی مقرر کیا ہے۔

نصف کو خاوند، بیٹی اور بہن کیلئے مقرر کیا ہے۔

سدس کو ماں، باپ، اخیانی بھائی اور اخیانی بہن کیلئے مقرر کیا ہے۔

ثلث کو ماں اور اخیانی بھائیوں کیلئے مقرر کیا ہے۔

ثلثان کو بیٹوں اور بہنوں کیلئے مقرر کیا ہے۔

کل مال کو اللہ تعالیٰ نے دو جگہ ذکر فرمایا ہے کہ ایک جگہ واضح نص ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ: **وَلَكَّ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَكَلٌّ** ”اور اس کی ایک بہن ہے تو اس کو پہنچے آدھا اس کا جو چھوڑا ہوا اور وہ بھائی وارث ہے اس بہن کا اگر نہ ہو اس کے بیٹا۔“

دوسری جگہ اقتضاء ذکر کیا ہے: **وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ** [النساء: ۱۱] ”اگر ایک ہی ہو تو اس کیلئے آدھا ہے۔“

بیٹے کیلئے اقتضاء اور ضرورتاً کل مال ہوگا اور جو چیز اقتضاء ثابت ہوئی گویا وہ نصاً ثابت ہوتی ہے ان مقرر کردہ حصوں میں کمی پیشی نہیں ہوگی مگر عول اور رد کے وقت جن کا بیان آگے آتا ہے۔

عصبات

ہر وہ شخص جس کا حصہ مقرر نہ ہو اور ذوی الفروض کے حصوں کے بعد باقی اسے ملے اور اکیلے ہونے کی صورت میں جمیع مال اسے ملے اسے عصبہ کہتے ہیں۔ عصبہ کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) عصبہ نسبی (۲) عصبہ سببی۔

عصبہ نسبی

عصبہ نسبی تین قسم پر ہے۔ (۱) عصبہ بنفسہ (۲) عصبہ بغيرہ (۳) عصبہ مع غیرہ۔

(۱) عصبہ بنفسہ اس مرد کو کہتے ہیں جس کی میت کی طرف نسبت کوئی عورت واسطہ نہ ہو اور عصبہ میں سب سے قریبی میت کے بیٹے ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَلَا بَوِيْهُ لِكُلِّ وَاٰحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهُ وَاَلَدٌ“ [النساء: ۱۱] ”اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کیلئے دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے اس مال سے جو کہ چھوڑا اگر میت کے اولاد ہے۔“

عصبہ بنانے میں بیٹے کو باپ پہ مقدم کیا جائے گا۔ میت کا بیٹا عصبہ ہوگا اور پھر اس کا پوتا عصبہ ہوگا۔ باپ اگر چہ پوتے سے میت کے زیادہ قریب ہے مگر وصیت کے بیٹے اور پوتوں کی موجودگی میں بھی صاحب فرض ہے اور ترجیح میں استحقاق بجمہ الفرض معتبر نہیں۔ بلکہ بجمہ التعصیب معتبر ہے جیسے متوفی کے علاقائی بھائی کا بیٹا سگی بہن کی موجودگی میں بھی وارث ہوتا ہے اگر چہ بہن اس سے قرابت کی جہت سے اقویٰ اور اقرب ہے۔

متوفی یا متوفیہ کا سب سے قریبی عصبہ بیٹا ہے پھر پوتے نیچے تک اگر متوفی کے بیٹے پوتے یا آگے ان کی اولاد نہ ہو تو پھر متوفی کا باپ عصبہ ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَوٰرِثَةُ اٰبَآءِهِمْ فَلِاٰمِهِمُ الثُّلُثُ“ [النساء: ۱۱] ”اور وارث ہیں اس کے ماں باپ تو اس کی ماں کا ہے تہائی۔“ یعنی باقی ماں باپ کا ہوگا پس اس سے ثابت ہوا کہ باپ دادا اور بھائیوں سے عصبہ بننے کا زیادہ حق دار ہے اور اس کے بعد رشتہ داروں کی میت کی طرف سے نسبت اس کی وجہ سے ہوتی ہے اگر متوفی کے بیٹے پوتے اور باپ موجود نہ ہو تو اس کا عصبہ دادا ہوگا اس صورت میں دادا کے عصبہ ہونے میں اختلاف ہے جس کا بیان انشاء اللہ آگے آئے گا۔

اگر متوفی کے بیٹے پوتے باپ اور دادا موجود نہ ہوں تو پھر اس کے بھائی عصبہ ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَهُوَ يُوْرِثُهَا اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَاَلَدٌ“ [النساء: ۱۷۶] ”اور وہ بھائی وارث ہے اس بہن کا اگر نہ ہو اس کے بیٹا۔“

(جس کی اولاد اور باپ نہ ہو) کے جمیع مال کا اسی کو حقدار بنایا گیا ہے۔ اگر متوفی کے بیٹے، پوتے، باپ، دادا اور بھائی نہ ہوں تو عصبہ اس کے بھتیجے ہوں گے۔

اگر متوفی کا کوئی بیٹا، پوتا یا باپ، دادا اور بھائی موجود نہ ہو اور نہ اس کی اولاد موجود ہو البتہ چچا موجود ہو تو وہ بطور عصبہ کے سارا مال لے گا اور چچا بھی موجود نہ ہو تو چچا کی اولاد وارث ہوگی۔ اگر چچا زاد بھی نہ ہو تو باپ کے اعمال (چچا) عصبہ ہوں گے اگر وہ بھی نہ ہوں تو ان کی اولاد عصبہ ہوگی اگر وہ بھی نہ ہو تو دادے کے اعمال وارث ہوں گے۔ قرابت اور درجہ کے اعتبار

سے مذکورہ ترتیب ہوگی یعنی حصول میراث کی ترتیب بھی یہی ہے اور نکاح کرانے کی سرپرستی کی ترتیب بھی یہی رہے گی۔ اگر تمام عصبات موجود ہوں تو الاقرب فالاقرب (قریب ترین رشتہ دار) کا اعتبار ہوگا۔ کیونکہ ارشاد نبوی ہے: ”فلا ولی رجل ذکر“۔ حضرت زید بن ثابت سے اس کی تفسیر یوں ذکر کی گئی ہے کہ حقیقی بھائی میراث میں علاتی (باپ شریک) سے مقدم ہوگا۔ اور علاتی بھائی حقیقی بھائی کے بیٹے سے مقدم ہوگا اور حقیقی بھائی کا بیٹا علاتی بھائی کے بیٹے سے مقدم ہوگا۔ علاتی بھائی کا بیٹا حقیقی بھائی کے پوتے سے مقدم ہے۔ علاتی بھائی کا بیٹا، حقیقی چچا (باپ کے حقیقی بھائی) سے مقدم ہے، حقیقی چچا، علاتی چچا سے مقدم ہے۔ باپ کا علاتی بھائی باپ کے حقیقی بھائی کے بیٹے سے مقدم ہے اور باپ کے باپ شریک بھائی کا بیٹا باپ کے چچا سے میراث میں مقدم ہے۔ بس عصبات میں حق میراث کی ترتیب اسی طرح ہوگی قریب تر وارث بعید کیلئے مانع ہوگا اور اگر میت کی نسبت میں سب برابر ہوں تو آپس میں برابر تقسیم کریں گے حقیقی علاقوں سے مقدم ہوں گے۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے وصیت پر عمل کرنے سے قبل ادائیگی دین کا فیصلہ فرمایا حالانکہ قرآن کریم میں یوں تم پڑھتے ہو۔ ”مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوصِيٰ بِهَا اَوْ ذَيْنِ“ ”وصیت کہ وصیت کی جاتی ہے یا قرض کے ساتھ اس کے۔“ اور حقیقی بہن بھائیوں کو علاقوں سے مقدم کر دیا ہے۔ یعنی حقیقی اور علاتی بہن بھائی موجود ہوں تو حقیقی وارث ہوں گے اور علاقوں کو کچھ نہیں ملے گا۔

حضرت امام محمد بن سیرینؒ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عبداللہ بن عتبہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ قاضی تھے۔ اتنے میں کچھ لوگ فکیہ بنت سمعان نامی ایک عورت کی میراث کے متعلق ایک مقدمہ لے کر ان کے پاس آگئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں فلاں بن فلاں بن سمعان ہوں۔ دوسرے شخص نے کہا کہ میں فلاں بن فلاں بن فلاں بن سمعان ہوں۔ عبداللہ بن عتبہ کو ان کی گفتگو کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمایا یہ ساری باتیں ایک کاغذ میں لکھ کر پیش کرو، چنانچہ ایک شخص نے لکھ کر ان کے سامنے پڑھ دیا آپ نے فرمایا ہاں اب میں سمجھ گیا پھر فرمایا کہ ضحاک نے مجھ سے فرمایا حضرت عمر بن الخطابؓ نے عمداً اس کے طاعون کے سال جب ان کے پاس میراث کا مسئلہ پیش ہوتا اور بہن بھائی حقیقی و علاتی ہوتے تو علاقوں کے مقابلے میں حقیقوں کو مقدم رکھتے اور علاقوں کو کچھ نہ دیتے تھے۔

(ب) عصبہ بغیرہ:

یہ وہ چار عورتیں ہیں جو اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر عصبہ بنتی ہیں۔

(۱) بیٹیاں بیٹیوں کے ساتھ مل کر عصبہ بنتی ہیں۔

(۲) پوتیاں پوتوں کے ساتھ مل کر عصبہ بنتی ہیں۔ ارشاد باری ہے: ”يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي

أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ“ [النساء: ۱۱] ”وصیت کرتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ

اولاد تمہاری کے واسطے مرد کیلئے مانند حصہ دو عورتوں کے۔“

(۳) حقیقی بہن، بھائی کے ساتھ عصبہ بنتی ہے۔

(۴) علاقائی بہن علاقائی بھائی کے ساتھ مل کر عصبہ بنتی ہے۔

ارشاد خداوندی ہے: ”أَنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً وَاللَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ

الْأُنثِيَيْنِ“ [النساء: ۱۷۶] ”اور اگر ہو وہ وارث جماعت مرد اور عورتیں پس واسطے مرد کے برابر حصے

دو عورتوں کے۔“

ج: عصبہ مع غیرہ:

میت کی حقیقی یا علاقائی بہنیں میت کی بیٹیوں کے ساتھ مل کر عصبہ بنتی ہیں۔

حجب کا بیان:

حجب کا معنی مانع کے ہیں۔ یہاں حجب سے مراد ایک وارث کی موجودگی میں دوسرے کے حصے میں کمی آجانا یا میراث سے محروم ہو جانا ہے۔

حجب کی قسمیں: حجب کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) حجب نقصان (۲) حجب حرمان۔ حجب نقصان کا مطلب ہے کہ ایک وارث کی موجودگی میں دوسرے کے حصے میں کمی واقع ہو۔ بالکل محروم نہ ہو جیسا کہ اصحاب الفروض کی بحث میں آپ پڑھ چکے ہیں مثلاً ایک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ وراثت میں ماں باپ چھوڑے، اس صورت میں ایک تہائی ۱/۳ کل مال کا ماں کو ملے گا۔ باقی دو تہائی باپ کو ملے گا اور اگر ان کے ساتھ میت کی بہن بھائی دو یا اس سے زیادہ موجود ہوں یا میت کا کوئی بیٹا یا بیٹی موجود ہو تو ماں کا حصہ ایک تہائی سے کم ہو کر چھٹا حصہ ہوگا۔ یعنی اسے ۱/۳ کے بجائے ۱/۶ ملے گا۔

حجب حرمان: اس میں وراثت دو فریق ہیں۔ ایک فریق بالکل کبھی محروم نہیں ہوگا وہ چھ

افراد ہیں۔ (۲) باپ، (۲) بیٹا (۳) شوہر (۴) ماں (۵) بیٹی (۶) بیوی۔ کیونکہ ان کا حصہ بہر صورت ثابت ہے۔ ان کے علاوہ وراثت کبھی محبوب (محروم) ہوں گے اور کبھی حصہ دار وراثت ہوں گے۔ یعنی قریب وارث کی موجودگی میں بعید محروم ہوگا۔

مثلاً: بیٹے کی موجودگی میں پوتے محروم ہوں گے۔

حقیقی بھائی کی موجودگی میں ھلاتی میراث نہیں پاسکیں گے۔

یعنی جو شخص کسی وارث کے واسطے سے میت سے رشتہ رکھتا ہو اس وارث کی موجودگی

میں وہ محبوب ہو جائے گا۔ مگر ماں شریک بہن بھائی ماں کی موجودگی میں محبوب نہیں ہوں گے۔

مثلاً: میت کا دادا میت کے باپ کا باپ ہونے کی وجہ سے وارث ہے میت کا باپ موجود نہ ہو تو دادا وارث ہوگا۔ مگر باپ موجود ہو تو وہ دادا کیلئے حاجب بنے گا۔

کوئی وارث کسی قریب وارث کی وجہ سے محبوب ہو رہا ہو تو وہ کسی اور کیلئے حاجب بھی بن سکتا ہے۔ مثلاً میت کے بھائی اور بہنیں۔ میت کے باپ کی موجودگی میں محبوب ہوں گے لیکن وہ ماں کیلئے بھی حاجب بنیں گے۔ یعنی ان کی عدم موجودگی میں یا صرف ایک بھائی یا ایک بہن کی موجودگی میں ماں کا حصہ ایک ثلث ہوتا ہے لیکن بہن بھائی دو یا زیادہ ہوں تو ماں کا حصہ ثلث سے کم ہو کر سدس ۲/۲ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میت کے حقیقی بہن بھائی میت کے بیٹے یا پوتے کی موجودگی میں میراث نہیں پائیں گے۔

اسی طرح میت کے والد کی موجودگی میں بھی محبوب ہوں گے۔ البتہ دادے کی وجہ سے بھائی محبوب ہوں گے یا نہیں اس میں فقہاء کے مابین اختلاف ہے اور میت کے اخیانی (ماں شریک) بھائی میت کے بیٹے، پوتے اور دادے وغیرہ میں سے کسی ایک کی موجودگی میں محبوب ہوں گے اس میں تمام فقہاء متفق ہیں کیونکہ ان کے وارث ہونے کیلئے میت کا کلالہ ہونا شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً“ [النساء: ۱۲] ”اور اگر ایسا مرد ہو جو کلالہ کے طور پر وارث ہوتا ہو۔“

اس سے مراد ماں شریک نہیں بھائی ہیں اور کلالہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کا بیٹا موجود ہو نہ باپ۔

اسی طرح نانیاں ماں کی موجودگی میں محروم ہوتی ہیں۔ کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور ﷺ نے نانی کو اس وقت وارث بنایا جب ماں موجود نہ ہو جیسا کہ اوپر یہ اصول مذکور ہوا ہے۔ جو شخص کسی کے واسطے سے میت سے رشتہ رکھتا ہے تو اس واسطے کی موجودگی میں وہ

محبوب ہوگا۔ نانی کا میت کے ساتھ رشتہ ماں کے واسطے سے ہے لہذا ماں کی موجودگی میں نانی محروم ہوگی۔ اسی طرح باپ کی موجودگی میں دادیاں محبوب ہوں گی دادے کی موجودگی میں محبوب نہیں ہوں گی اگر میت ایک نانی، ایک دادی اور والد چھوڑ کر مر گیا۔ دادی تو باپ کی موجودگی کی وجہ سے محبوب ہوگی لیکن نانی محبوب ہوگی یا نہیں اس میں راجع قول یہ ہے کہ نانی محبوب نہیں ہوگی۔ اس کو کل مال کا سدس $\frac{1}{6}$ ملے گا۔

اسی طرح قریب کی دادیاں اور نانیاں میت کی دور کی دادیوں اور نانیوں کیلئے حاجب بنیں گی یعنی قریب والوں کی وجہ سے دور والے میراث سے محروم ہوں گے۔ قریب والے چاہے خود میراث سے حصہ پارہے ہوں یا حصہ نہ پارہے ہوں دور والوں کیلئے حاجب بنے گی۔ حصہ پانے کی صورت میں حاجب بننا تو واضح ہے کہ ماں ہونے کے طور پر جو حصہ بننا تھا وہ جب قریب والی خود محبوب ہونے کی صورت میں بعید والی کیلئے حاجب کس طرح بنے گی؟ صورت اس کی یہ ہے کہ ایک شخص والد، پڑدادی، اور سکڑ نانی، (ماں کی دادی کی ماں) چھوڑ کر مرا۔ تو اس صورت میں سارا مال باپ کو ملے گا۔ پڑدادی تو باپ کی وجہ سے محبوب ہے اور سکڑ نانی پڑدادی کی وجہ سے محبوب ہوگی۔

عمول:

عمول کا لغوی معنی کمی ہے اور علم فرائض کے اصطلاح میں فرائض کے اصولوں کے مطابق تقسیم کرنے کی صورت میں مخرج (جس عدد سے حصص نکلتے ہیں) کم پڑ جائیں اور سہام بڑھ جائیں تو اس کو عمول کہا جاتا ہے۔

یعنی اہل فرائض کے حصص میں کمی واقع ہو چنانچہ ہر ایک کے حصے سے کچھ کچھ کم کر کے تمام اہل فرائض کو حصے دیئے جائیں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علیؑ منبر پر خطبہ دے رہے تھے ان سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا۔ وراثت میں دو بیٹے، ماں، باپ اور بیوی چھوڑے ہوں تو ان کی میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ حضرت علیؑ نے فرمایا: بیوی کا ثمن $\frac{1}{8}$ ، شیع $\frac{1}{9}$ ہو جائے گا۔ یعنی حصہ میں کمی آئے گی حتیٰ کہ عورت کو آٹھواں حصہ ملنے کے بجائے نواں حصہ ملے گا کیونکہ اگر کمی واقع ہوتی یعنی عمول نہ ہوتا تو مسئلہ کی تخریج و تصحیح چوبیس سے ہوتی، عمول کی وجہ سے مسئلہ ستائیس سے حل ہوگا وہ اس طرح کے مسئلہ

مسئلہ ۲۴ مجموعہ ۲۷ (عول)

بیوی	باپ	ماں	۲ بیٹیاں
ثمن	سدس	سدس	ثلثان
۱/۸	۱/۶	۱/۶	۲/۳
۳	۴	۴	۱۶

تو عول کے بعد کے مسئلہ کو ستائیس پر تقسیم کریں گے۔ تو دو بیٹیوں کو اس میں سے سولہ، ماں کو چار، باپ کو چار اور بیوی کو تین حصے دیئے جائیں گے۔ اس مسئلہ کو مسئلہ نمبر یہ کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت علیؑ نے اس مسئلہ کی اس طرح تشریح خطبہ دیتے وقت نمبر ہی بتائی تھی۔

تو اس میں ۲۴ میں سے سولہ، چار، چار اور تین ملنے سے ستائیس بنتے اس کو عول کہتے

ہیں۔

تنبیہ:

وہ اعداد جن سے اصحاب الفرائض کے حصص نکالے جاتے ہیں سات ہیں۔ وہ یہ ہیں۔ ۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۲، ۲۴ یعنی (چھ، دو، تین، چار، چھ، آٹھ، بارہ اور چوبیس) ان میں چار اعداد ایسے ہیں جن سے مسئلہ کی تخریج ہو ان میں عول نہیں ہوتا یعنی ان میں عول کی صورت پیدا ہو ہی نہیں سکتی اور وہ ہیں دو، تین، چار اور آٹھ اور باقی تین اعداد (چھ، بارہ اور چوبیس) میں کبھی عول ہوگا اور کبھی نہیں۔ چنانچہ چھ میں دس تک عول ہوگا یعنی سات، آٹھ، نو اور دس تک جفت اور طاق دونوں اعداد تک عول ہوگا۔ ان اعداد کی مثالیں جن میں عول بالکل ہوتا ہی نہیں۔ درج ذیل ہیں۔

(۱) مسئلہ ۲ متونی زینب

شوہر	حقیقی بہن
نصف	نصف
۱	۱

(۲) مسئلہ ۲ راشدہ

شوہر	علاقی بہن
نصف	نصف
۱	۱

(۳) مسئلہ ۲ متوفی احمد

والد	بیٹی
ع	نصف
۱/۲	۱/۲

تین سے حل ہونے والے مسائل کی صورتیں۔

(۱) زید کا انتقال ہو گیا۔ ورثاء میں دو اخیانی (ماں شریک) بھائی اور ایک حقیقی بھائی چھوڑا تو مسئلہ تین سے حل ہوگا ان میں سے ایک تہائی اخیانیوں کو اور دو تہائی حقیقی بھائی کو ملے گا۔

اخیانی	حقیقی بھائی
--------	-------------

۱	۲
---	---

(۲) دو حقیقی بہنیں، ایک علاقائی بھائی چھوڑ کر مرا تو مسئلہ تین سے حل ہوگا۔ دو حقیقی بہنوں کو دو تہائی ۲/۳ اور علاقائی کو ایک تہائی ۱/۳ ملے گا۔

(۳) دو حقیقی اور دو اخیانی بہنیں چھوڑ کر انتقال کر گیا تو دو حقیقی بہنوں کو دو تہائی ۲/۳ اور دو اخیانیوں کو ایک تہائی ۱/۳ حصہ ملے گا اور مسئلہ تین سے حل ہوگا۔

چار سے مسئلہ حل ہونے کی مثال: ایک عورت، ایک بیٹی، شوہر اور عصبات میں سے کوئی عصبہ چھوڑ کر مر گئی تو مسئلہ چار سے حل ہوگا۔ ایک چوتھائی شوہر کو نصف بیٹی کو اور باقی عصبہ کو ملے گا۔

مسئلہ ۳ متوفی رشیدہ

شوہر	بیٹی	بھائی
ربع	نصف	ع
۱	۲	۱

اور آٹھ سے مسئلہ حل ہونے کی مثال ایک شخص کا انتقال ہوا ورثاء میں بیوی، ایک بیٹی، اور کوئی عصبہ چھوڑا تو مسئلہ آٹھ سے حل ہوگا ان میں سے ایک یعنی آٹھواں حصہ بیوی کو نصف بیٹی کو اور باقی عصبہ کو ملے گا۔ مسئلہ کی صورت اس طرح ہوگی۔

مسئلہ ۸

بیوی	بیٹی	پوتا
۱	۲	۳

دوسری مثال:

مسئلہ ۸

بیوی	بیٹا
۱	۷

ان اعداد کی مثالیں جن سے مسئلہ حل ہونے کی صورت میں کبھی عول ہوتا ہے۔

(۱) چھ کے عدد کی چند مثالیں:

مسئلہ ۶ متوفی (اس میں عول نہیں ہے)

دادی	اخیا فی بہن	حقیقی بہن	علائی بہن
سدس	سدس	نصف	سدس
۱	۱	۳	۱

سات تک عول ہونے کی مثال:

مسئلہ ۶ عول ۷

دادی	دو اخیا فی	حقیقی	اعلائی
سدس	ثلث	نصف	سدس
۱	۲	۳	۱

چھ کے آٹھ تک عول ہونے کی مثال:

مسئلہ ۶ مجموعہ ۸ عول

شوہر	ماں	حقیقی بہن
نصف	نصف	ثلث

شوہر کو ۳/۸، والدہ کو ۲/۸، بہن کو ۳/۸ ملے گا۔

یہ مسئلہ حضرت عمرؓ کے دور خلافت کے ابتدائی زمانے میں پیش آیا تھا۔ حضرت عمرؓ حضرات صحابہ کرامؓ سے مشورہ کیا۔ تو حضرت عباسؓ نے مشورہ دیا کہ ان کے سہام حصص کے بقدر تقسیم کر دیا جائے ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قرآن میں اس کے متعلق کوئی

تصریح میرے سامنے نہیں ہے اور نہ یہ بات ہے کہ ان میں سے کن کو مقدم اور کن کو مؤخر کیا جائے کیونکہ قرآن میں سب کیلئے نئے حصص مقرر ہیں۔ البتہ میں ایک رائے پیش کرتا ہوں اگر وہ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اگر وہ غلط ہے تو میری طرف سے منسوب ہوگی۔ انہوں نے فرمایا کہ میری رائے ہے کہ سب کے حصوں میں کچھ کچھ کمی کر کے سب کو حصہ دیا جائے چنانچہ اسی طرح تقسیم کیا گیا۔ کسی نے اس رائے کے ساتھ اختلاف بھی نہیں کیا حتیٰ کہ حضرت عثمانؓ کا دور آ گیا۔ تو ان کے بیٹے حضرت ابن عباس نے اس رائے سے اختلاف ظاہر کیا اور فرمایا کہ اگر اس میں ان ورثاء کو مقدم کرتے جن کو اللہ تعالیٰ نے مقدم رکھا ہے اور ان کو مؤخر کرتے جن کو اللہ تعالیٰ نے مؤخر فرمایا ہے تو بہتر ہوتا! ان سے دریافت کیا گیا کہ وہ کون سے ورثاء ہیں جن کو مقدم کیا گیا اور مؤخر کیے جانے والے ورثاء کون سے ہیں؟ فرمایا: شوہر، بیوی، ماں، دادی کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں سے مقدم رکھا ہے اور بیٹیوں، پوتیوں، حقیقی اور علاتی بہنوں کو مؤخر فرمایا ہے۔ چنانچہ یہ کبھی ذوالفروض اور کبھی عصبات میں سے ہوتے ہیں جبکہ پہلے والے ہمیشہ اور ہر حالت میں ذوی الفروض رہتے ہیں ان کے سہام میں کمی نہیں آتی۔ ان سے عرض کیا گیا یہ اختلاف آپ نے حضرت عمرؓ کے زمانے میں ظاہر کیوں نہیں کیا؟ تو فرمایا: حضرت عمرؓ بارعب تھے ان کے رعب کی وجہ سے نہیں بولا۔

حضرت ابن عباسؓ کا وہاں نہ بولنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ اجتہادی مسئلہ تھا۔ اور اگر تصریح مسئلہ ہوتا تو ضرورت بولتے۔

چھ کے آٹھ تک عول کی ایک اور مثال ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو اور ثناء میں شوہر ماں، دو حقیقی بہنیں چھوڑیں تو اس صورت میں شوہر کو نصف، ماں کو سدس اور بہنوں کو دو تہائی ۲/۳ ملے گا۔ مسئلہ کی تخریج چھ سے ہوگی مگر ان سہام کا مجموعہ آٹھ ہے تو شوہر کو چھ کے ۱/۲ ملنے کے بجائے آٹھ کا ۱/۲ اور ماں کو ۱/۶ کے بجائے ۱/۸ اور بہنوں کو چھ ۲/۳ ملنے کے بجائے آٹھ کے ۲/۳ ملے گا۔

چھ کے نو تک عول کی مثال: ایک عورت کا انتقال ہو اور اس نے ورثاء میں مندرجہ افراد چھوڑے، شوہر، ماں، حقیقی، علاتی، اخیانی بہن، شوہر کو نصف، ماں کو چھٹا، حقیقی کو نصف، علاتی کو سدس اور اخیانی کو پھر سدس (چھٹا) ملے گا۔ مسئلہ کی تخریج چھ سے ہوگی۔ نو تک عول ہوگا۔ صورت اس طرح ہوگی۔

مسئلہ ۶ مجموعہ سهام ۹ عول ۹

شوہر	ماں	حقیقی بہن	علاقی بہن	اخیا فی
نصف	سدس	نصف	سدس	سدس
۳	۲	۳	۲	۲

چھ کے دس تک عول ہونے کی مثال شوہر، ماں دو اخیا فی بہنیں، دو حقیقی بہنیں تو شوہر کو نصف، ماں کو سدس (چھٹا) اخیا فیوں کو ثلث ۱/۳ ملے گا۔ مسئلہ کی تخریج چھ سے ہوگی اور دس تک عول ہوگا، صورت یہ ہے۔

مسئلہ ۶ عول ۱۰

شوہر	والدہ	۲ حقیقی بہنیں	۲ ماں شریک بہنیں
نصف	سدس	ثلثان	ثلث
۳/۱۰	۱/۱۰	۴/۱۰	۲/۱۰

بارہ سے مسئلہ کی مثال: مندرجہ ذیل ورثاء چھوڑ کر مرا۔

بیوی	دو حقیقی بہنیں	علاقی بھائی
ربع	ثلثان	ع
۳/۲	۸/۱۲	۱/۱۲

بیوی کو ۱/۴، دو حقیقی بہنوں کو ۲/۳، باقی علاقی بھائی کو بطور عصبہ کے اور ربع آنے کی

وجہ سے مسئلہ ۱۲ سے ہے۔

تنبیہ:

یاد رہے کہ بارہ سترہ تک عول ہوگا مگر صرف طاق عدد میں یعنی تیرہ، پندرہ اور سترہ تک چودہ اور سولہ تک عول نہیں ہوگا۔

تیرہ تک عول ہونے کی مثال:

مسئلہ ۱۲ عول ۱۳

بیوی	دادی	دو حقیقی بہنیں
ربع	سدس	ثلثان
۳	۲	۸

چنانچہ بیوی کو ۱۲ کے بجائے تیرہ میں سے ۳ دادی کو دو، حقیقی بہنوں کو ۸ ملے گا۔
۱۳ کے ۱۵ تک عول ہونے کی صورت

مسئلہ ۱۲ عول ۱۵ متونی

بیوی	دو اخیانی	دو حقیقی بہنیں
ربع	ثلث	ثلثان
۳	۴	۸

بیوی کو ۱۲ میں سے ۳ پہنچنے کے بجائے ۱۵ سے ۳، اضیافیوں کو ۴ اور حقیقی کو ۷ ملا اور ۱۲ کے بجائے مسئلہ ۱۵ سے حل ہوگا۔

تیرہ ۱۳ سے سترہ ۱۷ تک عول ہونے کی مثال:

مسئلہ ۱۲ عول ۱۷

بیوی	والدہ	دو اخیانی	دو حقیقی بہنیں
ربع	سدس	ثلث	ثلثان
۳	۲	۴	۸

بیوی کو بارہ سے تین ملنے کے بجائے سترہ سے تین اور والدہ کو ۱۲ سے ۲ ملنے کے بجائے کمی ہو کر ۱۷ سے ۲ اور دو اخیافیوں کو ۱۲ سے ۴ اور حقیقیوں کو ۸ ملنے کے بجائے کمی ہو کر سترہ سے ملے۔

ایک اور مثال:

ایک شخص کا انتقال ہوا، ورثاء میں تین بیویاں ایک دادی، ایک نانی، چار اخیانی بہنیں اور آٹھ حقیقی بہنیں چھوڑیں اس مسئلے کو ام الارامل کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک بھی مذکر نہیں ہے۔ ایک شخص نے سترہ دینار اور سترہ عورتیں چھوڑیں ان میں سے ہر ایک عورت کو ایک دینار ملا۔ اصل مسئلہ ۱۲ سے ہوگا اور سترہ تک عول ہوگا چوبیس سے مسئلہ کی تخریج کی جائیگی۔ مثال:

مسئلہ ۲۴:

بیوی	والد	والدہ	بیٹا
شمن	سدس	سدس	ع
۳	۴	۴	۱۳

چوبیس کے ستائیس تک عول ہونے کی مثال:

مسئلہ ۲۴ عول ۲۷

بیوی	والد	والدہ	۲ بیٹیاں
ثمن	سدس	سدس	ثلثان
۱/۸	۱/۶	۱/۶	۲/۳
۳	۴	۴	۱۶

یہ وہی مسئلہ منبر یہ ہے جس کو حضرت علیؑ نے ارشاد فرمایا تھا۔ اور فرمایا تھا بیوی کا ثمن

۱/۸، ۱/۹ ہو جائیگا۔

تنبیہ:

یہ بات ملحوظ رہے کہ ۲۴ کا عدد سے مسئلہ کی تخریج ہونے کی صورت میں اگر عول ہو تو وہ صرف ستائیس تک ہی عول ہوگا پچیس، چھبیس تک کبھی عول نہیں ہوگا۔

کسی شخص کا انتقال ہوا وراثت میں بیوی، والدہ دو حقیقی بہنیں ایک بیٹا کافر، یا قاتل چھوڑا تو یہ کافر یا قاتل قتل کی وجہ سے میراث سے محروم ہوگا۔ دوسرے کیلئے حاجب (مانع) بھی نہیں بنے گا لہذا اس بیٹے (قاتل) کی موجودگی میں بیوی کا ۱/۸، ماں ۱/۶ نہیں ہوگا بلکہ بیوی کو ۱/۴، ۱/۳ اور حقیقی بہنوں ۲/۳ ہی ملے گا۔ مسئلہ کی تخریج ۱۲ سے ہوگی سترہ تک عول ہو کر تصحیح ہو جائے گی۔ البتہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے نزدیک محروم المیراث دوسرے کیلئے حاجب (مانع) بن سکتا ہے۔ یعنی مذکورہ صورت میں بیٹے کو قتل یا کفر کی وجہ سے تو کچھ نہیں ملے گا مگر ان کے بقول دوسروں کے حصص میں کمی آئے گی چنانچہ بیوی کا حصہ ۱/۴ سے کم ہو کر ۱/۸ ماں کا ۱/۳ سے کم ہو کر ۱/۶ ہوگا۔ ان کے نزدیک مسئلہ کی تخریج ۲۴ سے ہوگی اور اکتیس تک عول ہوگا۔

اہم فائدہ:

چھ کا اگر دس یا نو یا آٹھ تک عول ہو تو متونی یقینی طور پر مذکر ہوگا اور اگر سات تک عول ہو تو دونوں کا احتمال ہے۔ یعنی مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی اور بارہ کا اگر سترہ تک عول ہو جائے تو متونی مذکر ہی ہوگا اور اگر سترہ یا پندرہ کی طرف عول ہو تو دونوں کا احتمال ہے۔ اور چوبیس کا عدد ستائیس تک عول ہو جائے تو میت مذکر ہی ہو سکتی ہے۔

﴿باب الرد﴾

یہ عول کی ضد ہے، رد کا لغوی معنی لوٹانا اور علم الفرائض کی اصطلاح میں حصص کے بچ جانے کو رد کہتے ہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ تقسیم فرائض کے اصول کے مطابق مسئلہ کی تقسیم میں ہونے کی صورت میں اصحاب فروض کو ان کے مقرر کردہ حصص دینے کے بعد کچھ حصص بچ جائیں اور عصبات میں سے کوئی ایک عصبہ بھی موجود نہ ہو تو ان زائد حصص کو ذوی الفروض ان کے حصص کے تناسب سے دوبارہ تقسیم کرنے کو رد کہا جاتا ہے۔

تنبیہ:

باقی حصص کو ذوی الفروض میں دوبارہ تقسیم کرنے میں زوجین (میاں بیوی) کو نہیں دیئے جائیں گے کیونکہ یہ ذوالفروض سببی ہیں رد صرف ذوی الفروض نسبیوں پر ہوتا ہے ان کو صرف وہی حصہ دیا جائے گا جو قرآن کریم میں ان کیلئے مقرر ہے ان کے علاوہ باقی ذوالفروض نسبی رشتوں کی رجبہ سے رد کے مستحق ہیں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے: ”وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ“ [الانفال: ۷۵] ”اور قرابت والے بعضے ان کے نزدیک تر ہیں ساتھ بعض کے۔“ جن ذوالفروض پر رد ہوگا وہ یہ ہیں: (۱) ماں (۲) جدہ (دادی، نانی) (۳) بیٹی (۴) پوتی (۵) حقیقی بہن (۶) علاقائی بہن (۷) اخیانی بھائی (۸) اخیانی نہیں۔

رد کے مسائل حل کرنے کا طریقہ:

مسئلہ میں صرف ایک جنس کے افراد ہوں گے یا ایک سے زیادہ یعنی صرف بیٹیاں یا پوتیاں یا نہیں ہوں گی یا بہنوں کے ساتھ ماں، اخیانی بھائی وغیرہ بھی ہوں گے تین جنسوں سے زائد نہیں ہو سکتے کیونکہ زیادہ ہونے کی صورت میں رد نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مسئلہ میں صرف ایک جنس ذوالفروض نسبی میں سے ہو اور زوجین میں سے کوئی نہ ہو تو حصص کو ذوی الفروض کے عدد افراد پر تقسیم کیا جائے گا۔ اور اگر ذوالفروض نسبی کے دو یا تین اجناس موجود ہوں تو مسئلہ کی تخریج ان کے سہام کے مجموعہ سے ہوگی۔

مثال (۱): ایک شخص متوفی نے وراثت میں ایک دادی، ایک اخیانی بہن چھوڑی تو دادی کا حصہ مقرر سدس ۱/۶ ہے اور ایک اخیانی بہن کو بھی چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ دو چھٹے حصے ان کا حصہ

مقررہ ہے اور باقی کو دوبارہ رد کے طور پر دیا جائے گا۔ اس اعتبار سے مجموعہ سہام ۲ ہیں تو مسئلہ کی تخریج دو سے ہوگی۔

مسئلہ ۲:

جدہ	اخیانی
۱	۱

مثال (۲): دادی اور دو اخیانی بہنیں ہو تو دادی کا حصہ چھٹا $1/6$ اور دو اخیانوں کو $1/3$ ایک تہائی۔ اصل مسئلہ چھ سے ہونا چاہیے، چھ کا $1/6$ اور چھ کا $1/3$ تو مجموعہ سہام ہوں گے تو مسئلہ تین سے حل ہوگا۔ اس طرح:

مسئلہ ۳:

جدہ	دو اخیانی بہنیں
۱	۲

مثال (۳): متوفی کی دو بیٹیاں اور والدہ ہیں۔ دو بیٹیوں کا حصہ مقررہ دو تہائی $2/3$ ، اور ماں کا حصہ $1/6$ ہے تخریج مسائل کے اصول کے مطابق یہ مسئلہ چھ سے حل ہونا چاہیے تو چھ کا $2/3$ چار ہے، اور $1/6$ ایک ہے چنانچہ مجموعہ پانچ ہو گئے۔ ایک حصہ بچ گیا اس ایک حصے کو دو کے طور پر ان کے حصص کے تناسب سے ان پر تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہاں ذوی الفروض نسبی کے دو جنس موجود ہیں تو رد کے اصول کے مطابق مجموعہ سہام (حصص) کو تخریج مسئلہ بنائیں۔ اس طرح:

مجموعہ سہام ۵

۲ بیٹیاں	ماں
$2/3$	$1/6$
۲	۱

اور ذوی الفروض نسبی کے ایک طبقہ کے ساتھ ذوی الفروض سببی (میاں بیوی میں سے کوئی ایک) بھی موجود ہو تو طریقہ تخریج مسئلہ اس طرح ہوگا کہ سببی کو اس کا حصہ اس کے کم عدد سے دینے کے بعد دیکھا جائے گا کہ باقی ذوی الفروض نسبی کے افراد پر برابر بلا کسر تقسیم ہو گیا تو کوئی ضرورت تقسیم کی ضرورت نہیں ہوگی جیسے

مسئلہ ۱-۲=۳

بیوی	۳ حقیقی بہنیں
۱/۴	۲/۳
۱	۳

اور اگر ماہی، ذوی الفروض نسبتی کے افراد پر بلا کسر تقسیم نہیں ہو رہا ہے تو ان کے عدد کو مخرج کے ساتھ ضرب دیں گے، حاصل ضرب سے دونوں فریقوں (نسبی، سببی) کو حصہ دے گا جیسے

مسئلہ ۱-۲=۱۵=۵×۳

بیوی	۵ بہنیں
۱/۵	۱۰

اگر ذوی الفروض نسبی کے دو یا تین طبقات کے ساتھ ذوی الفروض سببی بھی موجود ہو تو ذوی الفروض سببی کو اس کے اقل مخرج سے حصہ دینے کے بعد دیکھیں گے کہ اگر ماہی ذوی الفروض نسبی کے مسئلہ پر بلا کسر تقسیم ہوتا ہے تو کوئی ضرب تقسیم کی ضرورت نہیں اور اگر ماہی بلا کسر تقسیم نہیں ہو رہا ہے تو ان کے مجموعہ اسہام کو سببی کے مخرج کے ساتھ ضرب دیا جائے گا اور حاصل ضرب دونوں مسئلوں کی تصحیح ہوگی۔

البتہ سببی کو اس سے حصہ دینے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کے حصے کو ذوی الفروض نسبی کے مجموعہ اسہام کے ساتھ ضرب دیا جائے گا اور نسبیوں کے اسہام کو ماہی کے ساتھ ضرب دیا جائے گا۔ جیسے

مسئلہ ۲۴=۳×۸

بیوی	۹ بیٹیاں	۶ جدات
۱/۸	۲/۳	۱/۶
۱/۳	۷/۱۳	۷

ایک مثال: ایک شخص کا انتقال ہو اور ثناء میں بیوی، ۴ جدات اور چھ اخیانی بہن بھائی پھوپھو۔ تو بیوی کا حصہ ایک چوتھا، ہے اور جدات کو چھٹا اور اخیانیوں کو ایک ملے گا۔ مگر یہ مسئلہ در یہ ہے تو رد کے اصول کے مطابق چار کے عدد سے بیوی کو ایک چوتھائی دے دیا باقی رہ گیا ۳ چوتھائی اور ان پر بلا کسر تقسیم نہیں ہوتا تو ہم نے ترکہ کو دو اٹھاسی حصوں پر تقسیم کیا۔ وہ اس

طرح ایک فریق کو دوسرے فریق سے دیا۔ یعنی ۴ کو ۶ کے ساتھ ضرب دیا $۴ \times ۳ = ۱۲$ ، پھر ۲۳ کو اصل مسئلہ اول کے ساتھ ضرب دیا۔ $۲۳ \times ۳ = ۹۶$ پھر حاصل ضرب کو ماقہی جو تین کیساتھ ضرب دیا $۹۶ \times ۳ = ۲۸۸$ حصے ہو گئے اب اس میں سے بیوی کو ۲۸۸ کا $۱/۴$ جو ۷۲ بنتا ہے دے دیا اور چار جدات کو انتالیس جو ۲۸۸ کا $۱/۶$ ہے بطور فرض ۲۳ بطور در کے دے دیا تو ان کا حصہ بھی ۷۲ ہو گیا اور اخیافیوں کو ۲۸۸ کا $۲/۳$ جو ۹۶ بنتا ہے بطور ان کا حصہ مقررہ اور ۴۸ بطور رد کے دے دیا تو ان کا کل حصہ ۱۴۴ ہو گیا۔

ایک اور مثال: ایک شخص نے مندرجہ ذیل ورثاء چھوڑے، بیوی، ایک بیٹی ایک پوتی اور دادی، تو بیوی کا حصہ آٹھواں ہے اصل مسئلہ تخریج مسائل کے اصول کے لحاظ سے حل کیا جائے تو چوبیس سے حل ہوگا چوبیس کا آٹھواں تین ہے بیٹی کا نصف ہے چوبیس کا نصف ۱۲ ہے اور پوتی کو چھٹا ملے گا۔ چوبیس کا چھٹا چار ہے اور دادی کا حصہ بھی چھٹا ہے جو چار ہے یہ تیس ہو گئے اور ایک حصہ بچ گیا اس ایک حصہ کو بیوی کے سوا باقی ذوی الفروض (بیٹی، پوتی، دادی) کو بطور رد کے ان کے حصص کے تناسب سے دئے جائیں گے چنانچہ اس کو رد کے اصول کے مطابق حل کیا جائے تو بیوی کو اقل مخرج جس سے ثمن $۱/۸$ نکلتا ہے آٹھ سے ایک حصہ دیں گے۔ باقی رہ گئے سات حصے اور بیٹی، پوتی اور جدہ کے حصوں کا مجموعہ پانچ ہے اس کو آٹھ سے ضرب دی جائے گی۔ حاصل ضرب، چالیس آئے گا۔ اور اس عدد سے دونوں فریقوں (سببی، نسبی) کے حصص بلا کسر نکل آئیں گے۔ تو چالیس کا آٹھواں حصہ پانچ ہے وہ بیوی کو ملے گا باقی پینتیس میں سے گیارہ حصے بیٹی کو اور سات سات پوتی اور دادی کو ملیں گے۔ واللہ اعلم

دادے کے بارے تفصیل:

جد صحیح تو وارث ہوگا وہ ایک ہی ہوگا کیونکہ اقرب البعد کیلئے حاجب بنتا ہے۔ چنانچہ اگر پردادا موجود بھی ہو تو دادے کی موجودگی میں حصہ نہیں پائے گا۔ اکثر صحابہ کرام خصوصاً حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابی بن کعب اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ باپ کی عدم موجودگی میں دادا اس کا قائم مقام ہوگا۔ دادے کی موجودگی وہ تمام حضرات میراث میں حصہ پائیں گے جو باپ کی موجودگی میں حاصل کرتے ہیں اور وہ تمام حضرات محبوب ہوں گے جو باپ کی موجودگی میں محبوب ہوتے ہیں۔ حضرت امام اعظمؒ نے اسی قول کو اختیار فرمایا ہے۔ امام بخاریؒ نے ایک روایت نقل کی ہے۔

حضرت ابو بکرؓ، حضرت ابن عباسؓ اور ابن الزبیرؓ نے فرمایا ہے ”الجذاب“ دادا باپ کی طرح ہے۔ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے۔ ”يٰۤاَيُّهَا اَبْنٰۤى اٰدَمَ“ [الاعراف: ۲۶] ”اے ابن آدم“۔ دوسری جگہ ارشاد گرامی ہے: ”وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَائِىْ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيٰعْقُوْبَ“۔ [یوسف: ۳۸] ”اور پیروی کی میں نے دین باپوں اپنے کی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی“۔ حضرت ابو بکرؓ کی رائے کی ان کے زمانے میں کسی نے بھی مخالفت نہیں کی جبکہ حضرات صحابہ کرام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اور ابن عباسؓ نے فرمایا کہ میرے پوتے میرے وارث بنیں گے۔ ان کی موجودگی میں بھائی محبوب ہوں گے اور میں اپنے پوتے کا وارث نہیں بنوں گا۔ (یعنی اپنے بیٹے کی موجودگی میں)۔ حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مختلف اقوال مروی ہیں۔^۱

امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ اگر دادا اور بھائی موجود ہوں تو دادے کو بھائیوں کے برابر حصہ ملے گا جبکہ اس صورت میں تھائی سے اس کا حصہ کم نہ ہو تو ہو اور اگر بھائیوں کے ساتھ ملا کر تقسیم کرنے میں ایک تھائی سے کم ہے مل رہا ہو تو دادے کو ایک تھائی دے کر باقی کو بھائیوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ حضرت زید بن ثابتؓ کا بھی یہی قول ہے۔ اور حضرت سعید بن المسیبؓ، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہؓ اور قبضہ بن ذویبؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے اس طرح فیصلہ کیا کہ حقیقی اور علائی بھائیوں کے ساتھ اگر دادے کو ملا کر تقسیم کرنے میں ثلث مال (تھائی مال) سے زیادہ مل رہا ہے تو ملا کر تقسیم کیا جائے گا۔ اور اگر بھائی زیادہ ہوں اور تقسیم میں دادے کو ایک تھائی سے کم مل رہا ہو تو دادے کو ایک تھائی دینے کے بعد باقی کو بھائیوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور حقیقی بھائی علاقوں کیلئے حاجب بنیں گے اور اگر حقیقی بھائیوں کی جگہ بہنیں ہوں تو ان کو ان کے حصہ دینے کے بعد جو بیچ جائے گا وہ علاتی بہن بھائی آپس میں ”لِلَّذٰى كَرِهْتَ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثٰىيْنَ“ کے طور پر تقسیم کریں گے۔^۲

حضرت عبدالرحمن بن ابی الزناد نے اپنے والد ابو الزناد کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

انہوں نے حضرت زید بن ثابتؓ کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ کے دادے کے متعلق فیصلے فرمایا ہے کہ اگر دادے کے ساتھ صرف ایک بھائی موجود ہو تو ترکہ ان کے درمیان برابر دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا اور اگر دادے کے ساتھ صرف ایک بہن موجود ہو تو بہن کو ایک تھائی اور باقی دو تھائی دادے کو دے دیا جائے گا اور اگر دو بہنیں ہوں تو ایک حصہ دو

بہنوں اور ایک حصہ دادے کو دے دیا جائے گا اور اگر دادے کے ساتھ دو بھائی موجود ہوں تو دادے کو ثلث دے دیا جائے گا اور اگر دادے کے ساتھ دو بھائی موجود ہوں تو دادے کو ثلث دے دیا جائے گا۔ دادے کو حصہ دینے کے بعد باقی بھائیوں کا ہے البتہ تقسیم میں حقیقی بھائی، علاقوں (باپ شریک) سے مقدم ہوں گے یعنی باقی مال ان کو ملے گا اور علاقائی مجوب ہوں گے۔ اور حضرت عمرؓ اخیافیوں کو دادے کی موجودگی میں وارث نہیں سمجھتے تھے اور حضرت عثمانؓ نے بھی دادے کے متعلق وہی فیصلے فرمایا جو حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا۔^۱

حضرت امام شافعیؒ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباسؓ نے حضرت علیؓ کو بصرہ سے خط لکھا کہ چھ بھائی اور ایک دادے کے درمیان تقسیم میراث کی صورت کیا ہوگی؟ حضرت علیؓ نے جواب میں لکھا دادے کو ترکہ کا ساتواں حصہ اور دو حصے۔^۲

ملاحظہ:

ذیل میں چند مثالیں حضرات صاحبین کے قول کے مطابق لکھی جاتی ہیں کے جن میں دادے کی بھائیوں کے ساتھ مقاسمت ہوگی۔

مثال نمبر ۱: وراثت! دادا، بھائی، اس صورت میں ماں دونوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ اس صورت میں ثلث کے مقابلے میں تقسیم میں دادے کو فائدہ ہے۔

مثال نمبر ۲: دادا، دو بھائی، اس صورت میں بھی تقسیم ہوتی، ہر ایک کو ایک ایک تہائی ملے گی۔

مثال نمبر ۳: دادا، تین بھائی اس صورت میں دادے کو بھائی بنا کر تقسیم کرنے میں دادے کو ثلث سے کم مل رہا ہے۔ لہذا ثلث دادے کو پہلے دینے کے بعد باقی کو بھائیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔

دادا کے احوال:

دادا کی تین حالتیں ہیں: (۱) مقاسمت (بھائیوں کے ساتھ ملا کر تقسیم) (۲) اصحاب الفرائض کو حصہ دینے کے بعد باقی کا $\frac{1}{3}$ ۔ (۳) جمیع مال کا سدس $\frac{1}{6}$ ۔ ان تینوں میں سے جو بھی دادے کیلئے بہتر ہوگا وہی طریقہ استعمال کیا جائے گا۔

مثلاً ایک عورت کا انتقال ہوا، وراثت میں شوہر، دادا اور بھائی موجود ہیں نصف شوہر کو دینے کے بعد باقی کو دادا اور بھائی کے درمیان برابر تقسیم کر دیا جائے گا کیونکہ اس طرح کرنے میں دادے کو فائدہ ہے۔

مثال (۲): کوئی شخص بیوی، دادا اور بھائی چھوڑ کر مرا تو بیوی کو ایک ربح $1/2$ حصہ دینے کے بعد باقی کو دادے اور بھائی میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس میں بھی دادے کو ثلث کے مقابلے میں فائدہ ہے۔

مثال (۳): کسی نے دادی، دادا، دو بھائی اور ایک بہن وراثت چھوڑے تو اس صورت دادی کو حصہ مقررہ $1/6$ دینے کے بعد باقی کا ایک تہائی $1/3$ دادے کو دیا جاتا تھا اور باقی کو بہن بھائی آپس میں تقسیم کریں گے مذکورہ مونت کو ایک کے حساب سے۔

مثال (۴): ایک عورت کا انتقال ہوا وراثت میں دادی، ایک بیٹی، دادا اور دو بھائی ہیں تو چھٹا حصہ مقررہ دادی کو اور نصف بیٹی کو دینے کے بعد جو باقی ہے اس کو برابر تقسیم کریں گے یا اس کا ایک تہائی دادے کو دینے میں فائدہ ہے البتہ کل مال کا $1/6$ دینے میں دادے کو فائدہ تو کل مال کا چھٹا حصہ اس کو دے دیا جائے گا۔

مثال نمبر (۵): ایک عورت نے یہ وراثت چھوڑے شوہر، والدہ، دادا، بھائی، شوہر کو نصف اور والدہ کو ثلث $1/3$ دینے کے بعد باقی صرف $1/6$ بچا وہ دادے کو ملے گا بھائی محروم ہوگا۔

ملاحظہ:

میت کے علاقے بھائی دادے کی موجودگی میں محبوب نہیں ہوں گی۔ جیسے حقیقی بھائی محبوب نہیں ہوتے۔ حضرت زید بن ثابت نے فرمایا میت کے علاقے بھائیوں کو بھی کیا جائے گا۔ جب دا اپنا حصہ لے چکا ہو تو باقی کی تقسیم میں حقیقی بھائی کی موجودگی میں محبوب ہوں گے۔ یعنی دادے کے ساتھ مقاسمت میں شامل ہوں گے مگر حقیقی بھائیوں کی وجہ سے وہ میراث سے ساقط ہوں گے۔ البتہ حقیقی بھائی موجود نہ ہو صرف ایک حقیقی بہن ہو تو دادے کو حصہ دینے اور نصف بہن کو دینے کے بعد کچھ بچ جائے تو علاقوں کو ملے گا۔

مثال (۱): ایک شخص نے وراثت میں داد ایک حقیقی اور ایک علاقے (باپ شریک) بھائی چھوڑا تو ابتداء میں مال کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک ثلث $1/3$ جو دادے کو دے دیا جائے گا باقی دو ثلث حقیقی کو ملے گا۔ علاقے محبوب ہوگا گویا دادے کے ساتھ تقسیم میں شامل ہوگا مگر

حقیقی کے مقابلے میں میراث نہیں لے گا۔

مثال (۲): اگر یہ ورثاء ہوں دادا حقیقی بہن اور علاقائی بہن اس صورت میں آدھا دادے کو باقی آدھے کو حقیقی بہن لے گی علاقائی محبوب ہوگی۔

مثال (۳): اگر یہ ورثاء ہو دادا، ایک حقیقی بہن دو علاقائی بہنیں تو ترکہ کو پانچ حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا جن میں $\frac{2}{5}$ دادے کو، بہن حقیقی کو $\frac{1}{5}$ اور دو علاقائیوں کو $\frac{2}{5}$ ملے گا۔ پھر نصف کو پورا کرنے کیلئے اس کو حقیقی بہن کے حصے کے ساتھ ملایا جائے گا۔ نصف حقیقی کو دینے کے بعد علاقائیوں کے پانچویں حصہ کا نصف ملے گا۔ اصل مسئلہ ۵ سے حل ہوگا کسر کو ختم کرنے کیلئے $\frac{5}{2}$ میں ضرب دیں گے حاصل ضرب دس آئے گا دس میں سے ۴ دادے کو $\frac{5}{10}$ حقیقی کو اور $\frac{1}{20}$ علاقائیوں کو ملے گا۔

مثال (۴): اگر یہ ورثاء ہیں دادا، حقیقی بہن، علاقائی بھائی یہاں بھی مال ان کے درمیان پانچ حصوں میں منقسم ہوگا دادے کو $\frac{2}{5}$ ، حقیقی بہن کو $\frac{1}{5}$ اور علاقائی بھائی کو $\frac{2}{5}$ پھر علاقائی کے حصے سے نصف ۸ حقیقی بہن کے حصے کے ساتھ ملایا جائے گا اور علاقائی کے پاس صرف $\frac{1}{5}$ کا نصف یعنی $\frac{1}{10}$ باقی رہے گا۔

مثال (۵): اگر ورثاء میں یہ ہوں دادا، حقیقی بہنیں، دو علاقائی بہنیں اس صورت میں تین حصوں سے ترکہ کو تقسیم کیا جائے گا ایک حصہ دادے کو ایک ایک تہائی حقیقی اور علاقائی بہنوں کا ہوگا پھر علاقائیوں کا حصہ حقیقیوں کو دلایا جائے گا علاقائی محبوب ہوں گے۔

مثال: اگر ورثاء یہ ہوں والدہ، حقیقی بہن، دو علاقائی بھائی ایک بہن تو ماں کو اس کا حصہ $\frac{1}{6}$ ادے دیا جائے گا۔ اور دادے کو باقی $\frac{1}{3}$ ملے گا مگر باقی $\frac{5}{6}$ ہے جس کا $\frac{1}{3}$ بلا کسر (صحیح) نہیں نکلتا تو تصحیح کیلئے ثلث $\frac{1}{3}$ کا مخرج ۳ کو ۶ کے ساتھ ضرب دیں گے۔ حاصل ضرب ۱۸ آئے گا تو اٹھارہ سے سب کے سہام بلا کسر نکل آئیں گے تو مال کو $\frac{3}{18}$ اور دادے کو باقی $\frac{1}{3}$ جو $\frac{5}{18}$ ہے دیا جائے گا۔ حقیقی بہن کو نصف $\frac{9}{18}$ ملے گا۔ باقی رہ گیا $\frac{1}{18}$ اس کو یہ علاقائی بہن بھائی پانچ حصوں میں منقسم کر کے تقسیم کریں گے $\frac{1}{18}$ کو پانچ حصے کرنے کیلئے تصحیح کی جائے گی جو نوے سے تصحیح ہوں گی جس میں بہن کو $\frac{1}{90}$ اور ہر بھائی کو $\frac{2}{90}$ ملے گا۔

مثال (۶): اگر ورثاء یہ ہوں: ماں، دادا، حقیقی بہن، ایک علاقائی بہن ایک بھائی تو ماں کا حصہ $\frac{1}{6}$ ہے باقی دادے اور بہنوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ لہذا باقی $\frac{1}{3}$ دادے کو اور اس کا نصف حقیقی اور ایک حصہ علاقائیوں کیلئے باقی بچا مسئلہ کی صورت اس طرح ہوگی۔

۱/۶ یا ۳/۱۸ + ۵/۱۸ = ۹/۱۸ = ۱/۲ تو باقی بچا ۱/۱۸ = ۱۳/۵۴ اس مسئلے کو مختصر زیر

کہتے ہیں۔

نوٹ: مذکورہ تمام مسائل حضرات صاحبین کے مسالک کے مطابق ہیں۔

جدات (دادیاں، نانیاں):

جدہ کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) صحیحہ (۲) فاسدہ جدہ صحیحہ: ماں کی ماں اور باپ کی ماں یعنی نانی اور دادی اسی طرح پڑنانی اور پڑدادی وغیرہ جدہ صحیحہ کے تحت آئے گا۔
جدہ فاسدہ: ہر وہ جدہ دادی و نانی جس کا میت کے ساتھ رشتہ مرد کے واسطے ہو۔
جدہ صحیحہ کی میراث: ایک ہو یا ایک سے زیادہ بہر صورت والدہ کی عدم موجودگی میں ان کا حصہ ۱/۶ ہے۔

جدات (نانیوں اور دادیوں) کے مراتب:

پہلا درجہ نانی اور دادی سب پر مقدم ہیں یہ دونوں وارث ہیں۔
دوسرا درجہ: اس میں چار جدات آتی ہیں باپ کی نانی و دادی اور ماں کی نانی اور اس کی دادی اس درجہ میں ماں کی نانی کے علاوہ باقی تین جدات (باپ کی دادی و نانی، ماں کی دادی) وارث ہو سکتی ہیں اور ماں کی نانی جدہ فاسدہ میں داخل ہے کیونکہ اس کی نسبت میں دو ماؤں کے درمیان باپ کا واسطہ آ گیا ہے۔

تیسرا درجہ: اس درجے میں آٹھ جدات آتی ہیں۔ دادے کی نانی اور دادی اور دادی کی نانی اور دادی نانی کی نانی اور دادی، نانی کی نانی اور دادی، دادے کی نانی و دادی جدات صحیحہ اور وارث ہیں۔ باقی باپ کی پڑنانی وہ بھی وارث ہے باقی نانی کی نانی اور دادی اور ماں کی پڑدادی یہ دونوں جدات فاسدہ میں داخل ہیں۔

ماں کی طرف سے جدہ میں صرف ایک وارث ہے اور ایک ہی ممکن ہے کیونکہ جدہ صحیحہ وہ کہلاتی ہے کہ دو ماؤں کے درمیان باپ کا واسطہ نہ ہو پس صرف ماں کی ماں ہی اس قاعدے کے تحت وارث ہو سکتی ہے قریبی دادی دور کی دادی اور نانی کیلئے حاجب بنتی ہے۔

البتہ باپ کی جانب سے جدات (دادیاں) ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ مگر باپ کی موجودگی میں تمام دادیاں میراث سے محجوب ہوں گی مگر باپ کی موجودگی میں نانی محروم نہیں ہوگی

اور دادے کی موجودگی میں دو جدات ایک ماں کی طرف سے اور دوسری باپ کی ماں وارث ہوں گی۔

ذوی الارحام کا بیان:

ارحام، رحم کی جمع ہے میت کے عصبات اور ذوی الفروض کے علاوہ رشتے دار ذوی الارحام کہلاتے ہیں۔ چنانچہ عصبات اور ذوالفروض کی عدم موجودگی میں یہی ذوی الارحام وارث ہوں گے کیونکہ ارشاد خداوندی ہے۔ ”واولوا الارحام بعضهم اولی ببعض“ [الانفال: ۷۵] ”ان کے نزدیک تر ہیں ساتھ بعض کے اور قرابت والے بعضے۔“ ذوی الارحام کی دس اقسام ہیں۔

(۱) بیٹیوں کی اولاد (۲) پوتیوں کی اولاد (۳) جدہ فاسد (۴) جدات فاسدہ (۵) حقیقی وعلاتی (باپ شریک) بہنوں کی اولاد (۶) حقیقی اور علاتی بھائیوں کی بیٹیاں (۷) اخیانی بہنوں کی اولاد (بیٹے اور بیٹیاں)۔ (۸) باپ کے اخیانی بھائی (۹) پھوپھیاں، خالائیں اور ماموں (۱۰) چچا زاد بہنیں۔

ذوی الارحام میں بھی وراثت کے مستحق ہونے کا مدار میت کے زیادہ قریب ہونے کے اصول پر ہے۔ یعنی الاقرب فالاقرب یعنی قریبی رشتہ دار دور کے رشتہ دار کیلئے حاجب بنے گا۔

اقرب کی معرفت کی بحث:

امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا کہ ذوی الارحام میں میت کے زیادہ قریب اس کا نانا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر بیٹیوں کی اولاد (نواسے، نواسیاں) ہیں۔ اس کے بعد بھانجے اس کے بعد بھتیجیاں اس کے بعد پھوپھیاں پھر خالائیں اور پھر ان کی اولاد ہے۔ امام صاحبؒ سے ایک روایت یہ ہے کہ میت کے سب سے زیادہ قریب نواسے اور نواسیاں ہیں۔ نواسوں کے بعد نانا ہے اس کے بعد پھر باقی ترتیب وہی ہے۔ امام صاحبؒ کے اس قول کو حضرات صاحبینؒ نے اختیار کیا ہے۔

بیٹیوں کی اولاد کے وارث بننے کی مثالیں:

مثلاً کسی کے ورثاء میں صرف ایک نواسی اور نواسی کی بیٹی موجود ہو تو سارا مال نواسی کو

ملے گا۔ کیونکہ میت کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار یہی ہے اگر سب کے سب قرابت میں برابر جمع ہو جائیں تو وہ ذی الرحم مقدم ہوگا جس کا بیٹا وارث ہو کیونکہ اصل کے اعتبار سے میت کے ساتھ اس کا رشتہ زیادہ قریب ہے۔ اگر نواسی کی بیٹی اور پوتی کی بیٹی وارث چھوڑے تو مال دوسری کیلئے ہوگا کیونکہ کہ وہ حصے والی اولاد ہے۔

اسی طرح اگر ایک بھتیجی اور ایک بھائی کے بیٹے کی بیٹی وارث چھوڑے تو مال دوسری کیلئے ہوگا کیونکہ وہ عصبہ کی اولاد ہے لیکن اگر کوئی کسی وارث کے واسطے سے میراث کا حقدار بن رہا ہو بنفسہ نہ بن رہا ہو تو دونوں برابر ہوں گے مثلاً نواسی کی بیٹی اور پوتی کی بیٹی کی بیٹی چھوڑے تو دونوں برابر ہوں گے اور دونوں میراث کی حقدار ہوں گی۔

اگر ایسے وارث چھوڑے کہ ایک کا رشتہ زیادہ قریب ہے دوسرا وارث ایسا چھوڑا جس کا رشتہ پہلے کی بہ نسبت کچھ دور ہے مگر وہ وارث کے واسطے سے حقدار ہے تو اس میں قریبی قرابت کا اعتبار ہوگا کیونکہ میراث پانے کی اصل علت رشتہ داری اور قرابت ہے تو جو زیادہ قریب ہوگا وہی میراث حاصل کرنے میں راجح ہوگا۔

مثلاً: نواسی کی بیٹی اور ایک پوتی کی بیٹی کی بیٹی چھوڑے تو مال سارا پہلی والی کو ملے گا۔ کیونکہ دوسری کے مقابلے میں اس میت کے ساتھ رشتہ زیادہ قریب ہے اس طرح اگر خالہ اور چچا زاد بہنیں چھوڑے تو میراث کی مستحق خالہ ہوگی کیونکہ چچا زاد کے بہ نسبت میت کے ساتھ اس کا رشتہ قریب تر ہے۔

اگر قرب رشتہ اور واسطہ رشتہ میں سب برابر ہوں تو اگر آباء و امہات میں بھی متفق ہوں تو مال سب میں برابر ہوگا چاہے مذکر ہوں یا مؤنث اور اگر مذکر و مؤنث مخلط ہوں ہو تو مذکر کو دوہرا اور مؤنث کو کھرا ملے گا۔

مثلاً ایک پوتی کی بیٹی اور دوسری پوتی کی بیٹی ورنہ ہوں تو مال ان کے درمیان برابر ہوگا اس طرح بیٹی کی بیٹی کا بیٹا اور دوسری بیٹی کی بیٹی کا بیٹا وارث ہوں تو پھر دونوں کے درمیان برابر ہوگا اور اگر ایک نواسی کی بیٹی اور دوسری نواسی کا بیٹا وارث چھوڑے تو ماں کے تین حصے کریں گے ایک حصہ بیٹی اور دو حصے بیٹے کو ملیں گے۔ اگر قرابت اور واسطے تو برابر ہوں مگر آباء و امہات کے اعتبار سے مختلف ہوں تو امام محمدؒ کے نزدیک ان کے اصل رشتے کا اعتبار ہوگا۔ تر کے ان کے اصول پر تقسیم ہوگا۔ یہ قول امام اعظم کا بھی ہے۔

اولاد کی تعداد کے اعتبار سے اصول میں بھی تعداد کا لحاظ رکھا جائے گا پھر ہر فرع کو

اس کی اصل کی میراث دی جائے گی۔

اس کے بعد ہر فریق کو ان کے سہام تقسیم کیے جائیں گے اگر صفات کے اعتبار سے متفق ہوں تو برابر تقسیم ہوگی اور اگر صفات کے اعتبار سے مختلف ہوں یعنی کچھ مذکر اور کچھ مؤنث ہوں تو ”للذکر مثل حظ الانثیین“ (عورت کو اکھرا مرد کو دوہرا) کے اعتبار سے تقسیم ہوگی۔

اور حضرات امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اعتبار ابدان کا ہوگا اصول کا نہیں ہوگا۔ امام اعظمؒ کا ایک قول بھی اسی طرح کیونکہ ذوی الارحام قرابت کی وجہ سے میراث کے مستحق ہوتے ہیں جیسے عصبات میں ہر ایک میراث کے استحقاق کے اعتبار سے مستقل ہے لہذا عصبات کی طرح یہاں بھی ابدان کا اعتبار ہوگا۔

حضرت امام محمدؒ کی دلیل یہ ہے کہ فروع میراث کے مستحق اپنے اصول کے واسطے سے ہوتے ہیں تو اعتبار اصول کا ہی ہونا چاہیے۔

مثلاً ایک شخص کے ورثاء میں پوتی کی بیٹی اور ایک وارث پوتی تو دونوں کے نزدیک ترکہ دونوں کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کے اعتبار سے تقسیم ہوگا اور اگر ایک نواسی کی بیٹی اور نواسے کی بیٹی ورثاء ہوں تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک پچونکہ دونوں بیٹیاں ہیں اس لیے باعتبار ابدان کے دو حصوں میں ترکہ تقسیم ہوگا اور امام محمدؒ کے نزدیک ایک ان سے مذکر کی بیٹی اور دوسری مؤنث کی تو ان کے اصولوں پر تقسیم ہوگا یعنی بیٹے کی بیٹی کو دو تہائی اور بیٹی کی بیٹی کو ایک تہائی ملے گا۔ ان کے نزدیک مسئلہ مذکورہ گویا اس طرح ہوا کہ ایک نواسی اور ایک نواسا چھوڑا پھر بیٹے کی میراث اس کی بیٹی کو اور بیٹی میراث اس کی بیٹی کو ملی۔

دوسری مثال: ایک وارث نواسے کی بیٹی اور دوسرا وارث نواسی کا بیٹا چھوڑا تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک ترکہ ان کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق تقسیم ہوگا اور امام محمدؒ کے نزدیک بیٹی کو دو حصے اور بیٹے کو ایک حصہ ملے گا۔ (ان کے اصول کے فرق کے اعتبار سے)۔

تیسری مثال: اگر یہ ورثاء ہوں، نواسے کی دو بیٹیاں، اور نواسی کی بیٹی تو امام محمدؒ کے نزدیک بیٹے کیلئے ۱/۵ اور دو بیٹیوں کیلئے ۴/۵ حصہ ہوگا اور حضرت امام ابو یوسفؒ کے نزدیک دو بیٹیوں کو ۲ اور بیٹے کو پھر دو حصے۔

چوتھی مثال: اگر یہ ورثاء چھوڑے، نواسی کی بیٹی، نواسی کا بیٹا، نواسے کی بیٹی اور نواسے کا بیٹا تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک مسئلہ واضح ہے اور حضرت امام محمدؒ کے نزدیک ان کے آباء کے

اعتبار سے مسئلہ کی تخریج چھ سے ہوگی شروع کے دو کیلئے دو حصے کیونکہ ان کا رشتہ میت کے ساتھ عورت کے واسطے سے ہے اور وہ ان دو حصوں کو للذکر مثل حظ الانثیین کے اعتبار سے آپس میں تقسیم کریں گے آخری دو کیلئے چار سہام (حصص) ہوں گے اور یہ بھی یہ مال آپس میں مرد کو دوہرا عورت کو کھرا کے اعتبار سے آپس میں تقسیم کریں گے پہلے دو اور آخری کو اس طرح مال ملے گا۔ پہلے فریق میں بیٹی کو $1/9$ بیٹے $2/9$ اور دوسرے فریق کی بیٹی کو $2/9$ اور بیٹے کو $4/9$ حصص ملیں گے۔

دوسرے ذوی الارحام کے مسائل:

نانا اور اخیانی بھائی کے بیٹے کی موجودگی میں امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک مال نانا کو ملے گا۔ اور صاحبینؒ کے نزدیک اخیانی بھائی کے بیٹے کو ملے گا۔ اسی طرح نانا کے ساتھ حقیقی یا علاتی بہن کا بیٹا موجود ہو تو امام صاحبؒ کے نزدیک نانا کو ترجیح ہوگی میراث کا صرف وہی مستحق ہوگا۔

تنبیہ:

میت کے قریب ترین جد دوسروں کے مقابلے میں مقدم ہوگا۔ چنانچہ اگر کسی نے نانا، پڑنانا اور اب کا نانا وارث چھوڑا تو مال سارا نانا کو ملے گا۔ اور اگر رشتے کے قرب کے اعتبار سے سارے مساوی ہوں تو مال کو برابر تقسیم کریں گے ایسا نہیں ہوگا کہ جو جد کسی وارث کے واسطے سے میت سے رشتہ رکھتا ہو وہ مقدم ہو کیوں کہ استحقاق میراث کا سبب قرابت ہے نہ کہ واسطہ مثلاً اگر یہ ورثاء ہوں۔ ماں کا نانا اور ماں کا دادا تو مال دونوں میں برابر تقسیم ہوگا اگر کسی میت کے باپ کے دو جد دو جہت میں موجود ہوں اسی طرح ماں کے دو جد دونوں طرف (ماں باپ) سے موجود ہوں تو باپ کے جہت کے دادوں کو $2/3$ اور ماں کی جہت کے دادوں کو $1/3$ حصہ ملے گا پھر باپ کی جہت کے جدوں میں تقسیم اس طرح ہوگی جو کچھ ان کو ملا ہے اس کا $2/3$ باپ کی جہت کے جدوں اور $1/3$ ماں کی جہت کے دادوں کو ملے گا اس طرح ماں کی جہت کے اجداد بھی اس طرح آپس میں تقسیم کریں گے۔

حضرت حسن زیادؓ نے امام صاحبؒ کی ایک روایت اس طرح بھی نقل کی ہے کہ جو باپ کے جہت کے اجداد کو ملا ہے وہ صرف اس کے باپ کی جہت کے جد کو ملے گا اسی طرح ماں

کی جہت کے جدات کو جو ملا ہے وہ اس کے باپ کی جہت کے جد کو ملے گا۔

بھتیجیوں کے مسائل:

اس کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) حقیقی بھائیوں کے بیٹیاں، اور علاقائی بہنوں کی اولاد اور ان کی اولاد۔

(۲) علاقائی بھائیوں کی بیٹیاں اور علاقائی بہنوں کی بیٹی اور بیٹے۔

(۳) اخیانی (ماں شریک) بہن بھائیوں کی اولاد۔

اگر سب کے سب پہلی قسم کے موجود ہوں یا سارے دوسری قسم کے موجود ہوں تو ان کا حکم بیٹیوں کی اولاد (نواسوں اور نواسیوں) کی طرح ہے قرب درجہ اور نسبت کے اعتبار سے اور اگر مختلف ہوں تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک ابدان (افراد) کا اعتبار ہوگا جبکہ امام محمدؒ کے نزدیک ابدان اور اصول کے وصف (تذکیر و تانیث) کا اعتبار ہوگا اور اگر سارے تیسری قسم کے ذوی الارحام ہوں تو مال ان کے درمیان برابر تقسیم ہوں گے۔ مذکر و مؤنث کے اعتبار سے کمی زیادتی نہیں ہوگی کیونکہ ان کے اصول (اخیانی بہن بھائی) میں بھی تقسیم کے اعتبار سے کمی بیشی نہیں ہوتی یہ مال آپس میں برابر تقسیم کریں گے۔

اگر مختلف جمع ہو جائیں یعنی ایک حقیقی بہن کی بیٹی ایک علاقائی بہن کی بیٹی ایک علاقائی بہن کی بیٹی اور ایک اخیانی بہن کی بیٹی وارث چھوڑے تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک حقیقی کی بیٹی مقدم پھر علاقائی پھر اخیانی کا درجہ ہوگا اور امام محمدؒ کے نزدیک مال ان کے اصول پر تقسیم ہوگا پھر اصول سے ان کے فروع کی طرف منتقل ہوگا۔ مثلاً ایک شخص نے ایک حقیقی بہن کی بیٹی، ایک علاقائی کی بیٹی اور ایک اخیانی کی بیٹی چھوڑی تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک سارا مال حقیقی بہن کی بیٹی کو ملے گا اور امام محمدؒ کے نزدیک $\frac{3}{5}$ پہلی کو $\frac{1}{5}$ دوسری اور $\frac{1}{5}$ تیسری کو ملے گا ان کے اصول کے حصص کے اعتبار سے۔

مثال نمبر ۲: ایک حقیقی بھائی کی بیٹی، ایک علاقائی کی اور ایک اخیانی کی بیٹی چھوڑی تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک سارا مال حقیقی بھائی کی بیٹی کو ملے گا جبکہ امام محمدؒ کے نزدیک اخیانی بھائی کی بیٹی کو $\frac{1}{6}$ اور باقی حقیقی بھائی کی بیٹی کو ملے گا علاقائی کی بیٹی کو کچھ نہیں ملے گا۔

مثال نمبر ۳: ایک علاقائی کی بیٹی، ایک اخیانی بہن کی بیٹی چھوڑی تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک سارا مال علاقائی کی بیٹی کو ملے گا۔ دوسری محبوب ہوگی جبکہ امام محمدؒ کے نزدیک علاقائی کی بیٹی

کو ۳/۴ اور اخیانی کی بیٹی کو ۱/۴ ملے گا ان کے اصول کے اعتبار سے۔

مثال نمبر ۴: حقیقی بہن کے دو بیٹے، اخیانی بہن کی بیٹی چھوڑی تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک سارا مال دو بیٹیوں کو ملے گا اور امام محمدؒ کے نزدیک مال پانچ پر تقسیم ہوگا حقیقی کے بیٹوں کو دو دو اور اخیانی کی بیٹی کو ایک ملے گا اور اگر سب قرب درجہ میں برابر ہوں تو وارث کی اولاد مقدم ہوگی۔ مثلاً اخیانی بھائی کے بیٹے کا بیٹا، حقیقی بھائی کی بیٹی کا بیٹا، علانی بھائی کے بیٹے کی بیٹی چھوڑی تو اس صورت میں سارا مال علانی بھائی کے بیٹے کی بیٹی کو ملے گا کیونکہ اس کی نسبت میت کے ساتھ وارث کے واسطے سے ہے۔

مثال نمبر ۲: ایک بھانجا اور ایک بھتیجی وارث چھوڑے تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک مال دونوں میں لکڑ کر مثل حظ الاثمین کے اصول پر تقسیم ہوگا اور امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ ان کے اصل کے اعتبار سے تقسیم ہوگا یعنی ۲/۳ بھتیجی کو اور ۱/۳ بھانجے کو ملے گا۔

پھوپھی اور خالہ کی میراث:

اس میں بھی اقرب بعد کیلئے حاجب بنے گی چنانچہ دادے کی پھوپھی کے مقابلے میں باپ کی پھوپھی مقدم ہوگی اگر سب ایک درجہ کے جمیع ہو جائیں تو میت کی حقیقی پھوپھی علانی و اخیانی کے مقابلے میں مقدم ہوگی اور علانی، اخیانی سے مقدم ہوگی خالوں اور ماموں کی ترتیب بھی ترتیب مذکور [حقیقی میدم، پھر علانی پھر اخیانی] کی طرح ہے۔ اگر میت کے ساتھ قراب داری میں تمام برابر جمع ہو جائیں اور وہ صرف ایک طبقے کے ہوں تو یعنی ماموں، خالہ وغیرہ تو لکڑ کر مثل حظ الاثمین کے اصول پر تقسیم ترکہ ہوگی اور اگر خالہ ماموں اور پھوپھی وغیرہ جمع ہوں تو پھوپھی کو ۲/۳ اور خالہ وغیرہ کو ۱/۳ حصہ ملے گا۔

مثلاً پھوپھی اور دس ماموں وارث ہوں تو پھوپھی کو ۲/۳ اور ۱۰ ماموں کو ۱/۳ حصہ۔ ملے گا اس طرح پھوپھی کے ساتھ صرف ایک ماموں یا صرف خالہ ہو تب بھی تقسیم کا طریقہ کار اس طرح ہوگا یعنی پھوپھی کو ۲/۳ اور خالہ کو ۱/۳ ملے گا قیاس کا تقاضا ہے کہ ماموں یا خالہ کو پھوپھی کی موجودگی میں کچھ نہیں ملنا چاہیے کیونکہ میراث ملنے کا سبب قرابت ہے اور قرابت میں باپ قوی تر ہے قوی تر رشتہ کی موجودگی میں دوسرے محبوب ہو جاتے ہیں جس طرح ماں کی پھوپھی اور باپ کی پھوپھی وارث ہوں تو ماں باپ کی پھوپھی لیتی ہے دوسرے کی محروم ہو جاتی ہے لیکن یہاں قیاس کو حضرات صحابہ کے اجماع کی وجہ سے ترک کیا گیا ہے۔ حضرات صحابہ کا اس

پر اجماع ہے کہ پھوپھی کو $\frac{2}{3}$ اور خالہ کو $\frac{1}{3}$ ملے گا۔ اجماع کی وجہ یہ ہے کہ پھوپھی باپ کی جگہ جبکہ خالہ ماں کی طرح ہے گویا اس نے ماں باپ وارث چھوڑے تو اس صورت میں تقسیم میں باپ کو $\frac{2}{3}$ اور ماں کو $\frac{1}{3}$ ملتا ہے البتہ باپ کا رشتہ قوی ہے۔ لہذا باپ کی پھوپھی ماں کی پھوپھی سے قوی تر رشتہ رکھی ہے لہذا اس کی موجودگی میں دوسری محبوب ہوگی۔

دور رشتے والا ایک رشتے والے کیلئے مانع نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ حضرات صحابہ کرامؓ نے مطلقاً پھوپھی کیلئے $\frac{2}{3}$ اور خالہ کیلئے $\frac{1}{3}$ مقرر فرماتے ہیں تو اجماع اس اطلاق پر برقرار رہے گا۔ مثلاً اگر باپ کی حقیقی بہن اور ماں کی علاقائی بہن (خالہ) وارث چھوڑے تو سارا مال دوہری رشتے کی وجہ سے پھوپھی کو نہیں ملے گا بلکہ اس کو صرف وہی $\frac{2}{3}$ ہی ملے گا۔ $\frac{1}{3}$ ماں کی علاقائی بہن کو ملے گا۔ البتہ امام ابو یوسفؒ سے ایک روایت اس طرح موجود ہے کہ اس صورت میں سارا مال پھوپھی کو ملے گا۔

اسی طرح اگر ماں کی حقیقی بہن اور باپ کی علاقائی بہن وارث چھوڑے تب بھی علاقائی پھوپھی کو $\frac{2}{3}$ اور حقیقی خالہ کو $\frac{1}{3}$ ہی ملے گا جبکہ امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اس صورت میں سارا مال حقیقی خالہ کو ملے گا۔ اور اگر دو مختلف لجنس ماں کی طرف سے یعنی (ماموں، خالہ، پھوپھی) اور دو مختلف لجنس باپ کی طرف سے جمع ہو جائیں تو $\frac{2}{3}$ باپ کی قرابت والوں کو اور $\frac{1}{3}$ ماں کی قرابت والوں کو ملے گا۔

مثلاً اگر باپ کی خالہ اور پھوپھی ماں کی خالہ اور پھوپھی وارث چھوڑے تو اس کا ترکہ ۹ حصوں میں تقسیم ہوگا اس کا دوثلث $\frac{2}{3}$ یعنی چھ باپ کی قرابت والوں کو اور $\frac{1}{3}$ ماں کے ماموں خالہ اور پھوپھی کو ملے گا۔ پھر باپ کی خالہ اور پھوپھی $\frac{6}{9}$ کو آپس میں اس طرح تقسیم کریں گی کہ $\frac{6}{9}$ کا دوثلث باپ کی پھوپھی کو ایک ثلث $\frac{1}{3}$ باپ کی خالہ کو ملے گا۔ اور اس کا $\frac{3}{9}$ کو ماں کی پھوپھی اور خالہ اس طرح تقسیم کریں گی کہ اس کا $\frac{2}{3}$ پھوپھی اور $\frac{1}{3}$ خالہ لے گی۔

اگر تین متفرق خالائیں ایک حقیقی ایک علاقائی اور ایک اخیانی چھوڑی تو بالاتفاق سارا مال ماں کی حقیقی بہن کو ملے گا باقیوں کو کچھ نہیں ملے گا بالکل یہی صورت تقسیم، متفرق ماموں کی ہوگی۔

اگر ایک خالہ اور ایک پھوپھی زاد بھائی وارث چھوڑے تو مال سارا خالہ کو ملے گا کیونکہ وہ پھوپھی زاد کے مقابلے میں میت کی قریب تر رشتہ دار ہے۔

اور اگر ماموں کی بیٹی اور خالہ کا بیٹا وارث چھوڑا تو امام ابو یوسفؒ کے قول کے مطابق

مال ان کے درمیان لذكّر مثل حظ الانثیین کے اصول کے مطابق تقسیم ہوگا اور امام محمدؒ کے قول کے مطابق خالہ زاد بھائی کو $1/3$ اور ماموود زاد بہن کو $2/3$ حصہ ملے گا کیونکہ ان کے نزدیک ان میں سے ہر ایک اپنے اصل کی میراث لے گا۔

اگر ان میں سے دو وارث ایک ہی درجہ کے جمع ہو جائیں تو جو وارث کے واسطے سے میت کے ساتھ نسبت رکھے وہ مقدم ہوگا۔

مثلاً ایک شخص نے پھوپھی زاد بھائی اور چچا زاد بہن چھوڑے تو سارا مال چچا زاد بہن کو

ملے گا۔

حصص نکالنے کا طریقہ:

قرآن کریم میں جو حصص مقرر ہیں وہ کل چھ ہیں: (۱) نصف $1/2$ ۔ (۲) ربع $1/4$ ۔ (۳) ثمن $1/8$ ان تین کو نوع اول کہا جاتا ہے۔ (۴) ثلثان $2/3$ ۔ (۵) ثلث $1/3$ ۔ (۶) سدس ان کو نوع ثانی کا نام دیا گیا ہے۔

چنانچہ اگر مسئلہ میں ان میں سے صرف ایک حصہ مقرر موجود ہو ساتھ مسئلہ کی تخریج اس سہم (حصہ) کے ہم نام عدد سے ہوگی مثلاً صرف نصف آجائے تو مسئلہ دو سے حل ہوگا ربع $1/4$ آجائے تو چار سے ثمن $1/8$ آٹھ سے۔ ثلث $1/3$ اور ثلثان $2/3$ کے عدد سے، اور سدس $1/6$ چھ سے حل ہوگا۔ اور اگر مختلف آجائیں اور صرف ایک نوع کے آجائیں تو اگر نوع اول کے سارے آجائیں تو آٹھ اور چار سے ہوگا اگر نوع ثانی کے سارے آجائیں تو تین یا چھ سے ہوگا۔ اور اگر چھ نوع اول اور کچھ نوع ثانی کے جمع ہو جائیں تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر نوع اول کا نصف نوع ثانی کے کل یا بعض کے ساتھ مل جائے تو مسئلہ چھ سے حل ہوگا اور اگر نوع اول کا ربع $1/4$ نوع ثانی کے کل یا بعض کے ساتھ مل جائے تو سارے حصص بارہ سے نکل آئیں گے اور اگر نوع اول کا ثمن $1/8$ نوع ثانی کے کل یا بعض کے سب جمع ہو جائیں تو سارے حصص چوبیس کے عدد سے نکلیں گے۔ اور اگر ملنے والا حصہ اس کے مستحق وراثہ پر برابر تقسیم نہ ہو یعنی صحیح نہ ہو بلکہ کسر واقع ہو تو تمام کو بلا کسر صحیح حصہ دینے کیلئے کم سے کم عدد تلاش کریں گے جس سے سب کے حصص ان کو بلا کسر صحیح تقسیم ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ان کو ملے ہوئے حصے کا عدد اور ان کے افراد کے عدد میں تباہی ہو تو قاعدہ یہ ہے کہ عدد سہام کے مطابق اصل مسئلہ یا عول ہوگا اور اگر توافق کی نسبت ہو تو قاعدہ ہے عدد کے مطابق تقسیم ہوگی۔

پہلی کی مثال: بیوی، دو بھائی وراثت ہوں تو بیوی کا حصہ ربع $1/4$ ہے اور باقی بھائیوں کا ہے تو حصص مقررہ میں سے صرف ایک حصہ موجود ہے اور وہ ربع $1/4$ ہے تو ربع نکلتا ہے چار سے تو مسئلہ حل ہوگا چار سے۔ جیسے:

$$\text{مسئلہ } ۸ = ۲ \times ۴$$

بیوی	دو بھائی
۱۲	۳

دیکھئے دو بھائیوں کو تین حصے ملے جو دو پہر برابر تقسیم نہیں ہوتے تو مذکورہ قاعدے کے مطابق دیکھا تو تین اور دو تین بتا رہے تو عدد وراثت دو کو اصل مسئلہ ۴ کے ساتھ ضرب دیا تو آٹھ آ گیا تو اب آٹھ سے دونوں فریقوں کو حصص دیں گے آٹھ کا $1/4$ دو ہے وہ بیوی کو ملا باقی چھ حصے رہ گئے وہ دو بھائی آپس میں تقسیم کریں گے۔

دوسرے (توافق) کی مثال، یہ وراثت ہوں بیوی، چھ بہنیں، تو بیوی کا $1/4$ جو چار سے نکلتا ہے۔

$$\text{مسئلہ } ۸ = ۲ \times ۴$$

بیوی	چھ بہنیں
۱	۳

تین چھ پر بلا کسر تقسیم نہیں ہوتا تو تصحیح کی ضرورت ہوگی تو تصحیح کے اصول کے مطابق چھ کے وفق ۲ کو اصل مسئلہ چار کے ساتھ ضرب دینے سے حاصل ضرب آٹھ آیا تو آٹھ کا $1/4$ دو ہے جو بیوی کا حصہ ہے باقی رہ گئے چھ حصے، جو چھ بہنوں پر بلا کسر تقسیم ہوتے ہیں۔

ایک اور مثال:

$$\text{مسئلہ } ۲۰ = ۵ \times ۴$$

بیوی	چھ بھائی	تین بہنیں
۱/۵	۳/۱۵	۳/۱۵

تفصیل اس کی یہ ہے:

بیوی کا حصہ $1/4$ ہے مسئلہ چار سے حل ہوگا۔ بیوی کو چار میں سے ایک حصہ $1/4$ دے دیا، تو باقی رہ گئے تین حصے جو چھ بھائیوں اور تین بہنوں کے ہیں مگر للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت ایک بھائی دو بہنوں کے برابر ہے۔ اسی طرح پندرہ بہنوں کے برابر ہوتے۔ ان کا حصہ

ہے تین جو پندرہ پر بلا کسر تقسیم نہیں ہو سکتا۔ تو تصحیح کے اصولوں کے مطابق دیکھا تو تین اور پندرہ کے درمیان توافق بالثلث ہے تو عدد رؤس پندرہ کا وفق ہے پانچ، تو پانچ کو اصل مسئلہ ۴ کے ساتھ ضرب دینے سے حاصل ضرب بیس آیا۔ تو بیس کا $1/4$ پانچ ہے تو باقی رہ گئے پندرہ تو پندرہ پر بلا کسر تصحیح تقسیم ہوگا۔

سابقہ مثالیں صرف ایک جنس میں کسر واقع ہونے کی تھیں اور اگر ایک سے زیادہ فریقوں میں کسر واقع ہو تو ایک فریق کے عدد کو دوسرے فریق کے عدد کے ساتھ ضرب دیں گے حاصل ضرب کو اگلے عدد کے ساتھ پھر اگلے عدد کے ساتھ پھر اصل مسئلہ کے ساتھ ضرب دینے سے صحیح عدد آئے گا جو تمام پر بلا کسر تقسیم ہوگا۔

مثال کے طور پر ایک شخص نے تین بیویاں، دو بھائی چھوڑے تو تین بیویوں کا حصہ ہے $1/4$ باقی تین چوتھائی دو بھائیوں کو ملا مگر دونوں فریقوں کے حصے ان پر بلا کسر تقسیم نہیں ہونے تو تین کے عدد کو دو کے ساتھ ضرب دینے سے حاصل ضرب چھ آیا۔ اور چھ کو اصل مسئلہ چار کے ساتھ ضرب دی۔ حاصل ضرب چوبیس آیا چوبیس سے دونوں فریقوں کے حصے بلا کسر نکل آئیں گے اس چوبیس کا $1/4$ چھ ہے جو تین بیویوں کو ملے گا جو بلا کسر دو دو ان کو ملے گا۔ باقی اٹھارہ حصے دو بھائیوں کو ملیں گے اسی طرح حصہ فی بیوی $2/24$ اور فی بھائی $9/24$ ہوگا۔ اگر بعض اعداد رؤس بعض میں داخل ہوں تو آپس میں ضرب دینے کی ضرورت نہیں ہے مثلاً دو بیویاں اور دو بھائی ہوں تو مسئلہ چار سے ہوگا چار کا ربع ایک ہے جو دو پر بلا کسر تقسیم نہیں ہو سکتا اور باقی تین بھر دو بھائیوں پر بلا کسر تقسیم ہو سکتا اور باقی تین بھر دو بھائیوں پر بلا کسر تقسیم ہوتا لیکن عدد رؤس دونوں جگہ دو ہی ہیں اس لیے ان کو آپس میں ضرب نہیں دیا جائے گا بلکہ کسی بھی دو کو اصل مسئلہ کے ساتھ ضرب دیں گے حاصل ضرب آٹھ آئے گا جس سے حصص دینے سے دونوں فریق پر بلا کسر تقسیم ہوگا اور اگر اعداد رؤس (افراد و رثاء) کا آپس میں تداخل ہو تو بڑے عدد کو اس مسئلہ کے ساتھ ضرب دیں گے یہاں بھی آپس میں اعداد کو ضرب دینے کی ضرورت نہیں۔

مسئلہ ۴

۲ حقیقی بھائی

۴ بیویاں

۳

۱

دیکھئے یہاں بھی کسر واقع ہونے کے اعتبار سے مذکورہ مسئلہ کی طرح ہے مگر چار اور دو میں تداخل ہے (اقل عدد اکثر کو فنا کر دے) تو چار کو اصل مسئلہ چار کے ساتھ ضرب دیں گے تو

سولہ آئے گا تو سولہ کا ربع چار ہے جو چار بیویوں کو ملے گا تو فی بیوی ایک حصہ آئے گا اور بارہ حصے دو بھائیوں کو ملیں گے فی بھائی کے حصے میں چھ آئیں گی۔

اور اگر کسر واقع ہونے والے عدد ڈوس کے آپس میں توافق ہو (یعنی کوئی تیسرا عدد دونوں کو فنا کرتا ہو) تو ایک عدد کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے پھر حاصل ضرب کو اصل مسئلہ کے ساتھ ضرب دیں گے۔ جیسے

$$\text{مسئلہ } ۲۸ = ۱۲ \times ۲$$

۲ بیویاں	۱ حقیقی بہن	۲ چچے
ربع	نصف	
۱/۱۲	۲/۲۴	۱/۱۲

دیکھئے اس میں چار بیویوں کو ایک حصہ ملا، جو ان پر بلا کسر تقسیم نہیں ہوتا اور چھ بچوں کو بھی ایک حصہ ملا جو تقسیم نہیں لیکن چار اور چھ میں توافق بال نصف ہے ایک وفق کو دوسرے کے کل کے ساتھ ضرب دی چار کے وفق ۲ کو چھ کے ساتھ یا چھ کے وفق تین کو چار کے ضرب دی تو ۱۲ حاصل ضرب آیا تو $۲۸ = ۲ \times ۱۲$ ہو تو بیوی کا حصہ $۱۲/۲۸$ بہن کو $۲۴/۲۸$ اور اعمام کو $۱۲/۲۸$ ملا۔

تقسیم ترکہ:

اب تک جو بحث تھی اس میں صرف حصص کی تقسیم کا طریقہ بیان کیا گیا تھا اگر آپ ترکہ کو ان حصص کے بموجب تقسیم کرنا چاہیں تو قاعدہ یہ ہے کہ حصہ \times ترکہ % مثلاً چار

$$\text{بیویوں کو ترکہ سے حصہ: } ۱۲ \times ۲۸\%$$

$$\text{بہن کا حصہ: } ۲۴ \times ۱۰۰\% / ۲۸$$

$$\text{چچا کا حصہ: } ۱۲ \times ۱۰۰\% / ۲۸$$

المناسخة:

ترکہ کی تقسیم سے پہلے ایک وارث کا انتقال ہو اور ابھی اس کی میراث تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ کسی دوسرے وارث کا انتقال ہو جائے اس کو مناسخہ کہتے ہیں۔

اگر میت اول سے میت ثانی کو ملنے والا حصہ اس کے ورثاء پر بلا کسر تقسیم ہوتا ہو تو میت ثانی مسئلہ ہی تصحیح ہے اور کوئی ضرب و تقسیم کا عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ مثلاً ایک شخص نے

بیٹا اور بیٹی وارث چھوڑے میراث کی تقسیم سے قبل بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا اور اس نے ورثاء میں دو بیٹے چھوڑے تو میت اول کا مسئلہ تین سے حل ہوگا۔ $\frac{2}{3}$ بیٹے کو $\frac{1}{3}$ بیٹی کو ملے گا میت ثانی کو جو حصہ ملا وہ اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگا جو ۲ میں دو بیٹیوں کو ملے گا۔ گویا دونوں مسئلوں کی تصحیح تین سے ہوگی۔

اور اگر میت ثانی کو پہنچنے والا حصہ اس کے ورثاء میں برابر تقسیم نہیں ہو سکتا تو میت ثانی کے مسئلے کو سابقہ مسئلہ حل کرنے کے اصولوں کے مطابق حل کیا جائے گا۔ پھر میت ثانی کے متعلقہ اور میت اول کے مسئلہ کے ملنے والے اعداد کے درمیان نسبت دیکھی جائے گی اگر دونوں عددوں میں بتابین ہو تو عدد مسئلہ ثانی کو اول کے مسئلہ سے ضرب دیا جائے گا حاصل ضرب دونوں مسئلوں کی تصحیح ہوگی۔ اگر دونوں کے اعداد میں موافقت ہو مسئلہ ثانیہ کے وفق کو میت اول کے مسئلے کے ساتھ ضرب دیا جائے گا حاصل ضرب دونوں مسئلوں کی تصحیح ہوگی۔

مثلاً ایک کا انتقال ہوا ورثاء میں شوہر، بیٹا، ماں، بیٹا چھوڑے اور تقسیم میراث عورت سے قبل بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا اس نے ورثاء میں بیٹا، باپ اور نانی چھوڑی تو میت اول کا مسئلہ ۱۲ سے ہوگا۔ $\frac{3}{12}$ شوہر کو $\frac{4}{12}$ ماں باپ کو $\frac{5}{12}$ بیٹے کو ملا اور میت ثانی کا مسئلہ چھ سے حل ہوگا۔ اور میت اول سے ملنے والے حصے $\frac{5}{12}$ میں تو یہ چھ پر برابر تقسیم نہیں ہوتا۔ تو ۵ اور ۶ کے درمیان بتابین ہے تو ۶ کے ساتھ ضرب دیں گے۔ $6 \times 12 = 72$ ہے اور ۷۲ سے دونوں مسئلوں کے حصص ان کے افراد پر برابر بلا کسر تقسیم ہوں گے تو میت اول کے ورثاء شوہر کو $\frac{18}{72}$ ، ماں باپ کو $\frac{24}{72}$ اور بیٹے کو $\frac{30}{72}$ ملے گا اور میت ثانی کے ورثاء کو $\frac{30}{72}$ میں سے بیٹے کو $\frac{15}{72}$ باپ کو $\frac{10}{72}$ ، نانی کو $\frac{3}{72}$ یہ میت ثانی کے مسئلے اور میت اول سے ملنے والے حصوں کے درمیان بتابین کی مثال ہے۔

توافق کی مثال:

ایک شخص کا انتقال ہوا ورثاء میں بیوی، ماں، اخیانی بہن اور چچا چھوڑے، تقسیم میراث سے قبل چچا کا انتقال ہوا اور ورثاء میں ایک بیٹا اور بیٹی چھوڑے میت اول کا مسئلہ ۱۲ سے ہوگا اور میت ثانی کا مسئلہ تین سے حل ہوگا اور میت اول سے اس کو ملنے والے حصے بھی تین میں تو دونوں مسئلے ۱۲ سے حل ہوئے۔

ایک اور مثال زوجہ، تین بہنیں، حقیقی، علاتی، اخیانی اور چچا وارث چھوڑے پر حقیقی بہن

تقسیم میراث سے قبل انہی وراثاء کو سوگوار چھوڑ کر اللہ کو پیاری ہوگئی زوجہ تو زوجہ کو ۱/۳ حقیقی بہن کو ۱/۲ اخیانی کو ۱/۶ ملے گا۔

مسئلہ کی تخریج ۱۳ سے ہوگی جس میں زوجہ کو تین، علاقائی کو دو اخیانی کو دو حقیقی کو چھ حصے ملے، پھر حقیقی کے یہ چھ حصے، علاقائی، اخیانی اور چچا پر تقسیم ہوں گے تو علاقائی کو ۳/۶ اخیانی کو ۱/۶ اور چچا کو ۲/۶ ملے گا۔

دور صحابہ میں پیش آمدہ مسائل ان کا حل اور ان کے القاب:

(۱) مسئلہ مشترکہ یا مسئلہ ہمار یہ: وراثاء شوہر، ماں دو اخیانی بھائی اور حقیقی بھائی۔ تو شوہر کو نصف، ماں کو سدس ۱/۶ اخیانیوں کو ۱/۳ اور حقیقی محبوب، یہ قول حضرت ابو بکرؓ، عمرؓ، علیؓ ابن عباسؓ: کا ہے۔ حضرات حنفیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے جبکہ حضرت ابن مسعودؓ اور زید بن ثابتؓ نے فرمایا کہ حقیقی ۱/۳ میں اخیانیوں کے ساتھ شریک ہوں گے۔ حضرت عمرؓ نے بعد میں اسی قول کو اختیار فرمایا تھا۔ پہلے تو انہوں نے وہی فیصلہ کیا تھا جو پہلے ذکر ہوا بعد میں اسی طرح کا واقعہ پیش ہوا تو اس طرح فیصلے دینے لگے تو حقیقی بھائیوں میں سے کسی ایک نے کہا: امیر المؤمنین! کیا ہمارے والد گدھے تھے؟ کیا ہم ایک والدہ سے پیدا نہیں ہوئے؟ حضرت عمرؓ نے ایک ثلث میں ان کو بھی شریک کیا اور فرمایا: پہلے ہمارا وہ فیصلہ تھا اب یہ ہے اس مسئلے کو مشترکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ حضرت عمرؓ نے ایک ثلث میں اخیانیوں کے ساتھ حقیقوں کو بھی شریک کیا۔ اور اس مسئلے کو مسئلہ ہمار یہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ کیا ہمارا والد ہمارا تھا؟ لیکن صحیح ہمارا مذہب ہے کیونکہ وہ موافق حدیث ہے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے، ”الحقوا

المال بالفرائض فما ابقت الفرائض مخصوصا فلا ولی رجل ذکر“

یہ حدیث تقاضا کرتی ہے کہ اخیانی مقدم ہو اور ان کے ساتھ حقیقوں کو شریک کرنا نص کی مخالفت ہے۔ کیونکہ کے اخیانی نص قرآنی اصحاب الفرائض میں سے ہیں اور حقیقی عصبات میں سے ہیں۔

مسئلہ الخرقاء عثمانیہ:

ورثاء، ماں، داد، بہن حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ ۱/۳ ماں کو اور باقی دادے کو ملے گا اور

حضرت زید بن ثابتؓ نے فرمایا کہ $\frac{1}{3}$ ماں کو ملے گا۔ باقی دادے اور بہن کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین تقسیم ہوگا۔

اور حضرت علیؓ نے فرمایا کہ $\frac{1}{3}$ ماں کو $\frac{1}{2}$ بہن کو اور باقی دادے کو ملے گا۔ حضرت ابن عباسؓ نے ایک روایت میں فرمایا کہ بہن کو $\frac{1}{2}$ باقی دادے اور ماں کے درمیان تقسیم ہوگا۔ ان سے ایک روایت اس طرح بھی ہے کہ بہن کو $\frac{1}{2}$ ماں کو باقی کا $\frac{1}{3}$ اور باقی دادے کو ملے گا اور حضرت عمر کا یہی قول ہے اور حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ ماں کیلئے $\frac{1}{3}$ اور باقی بہن اور دادے کے درمیان نصف نصف تقسیم کریں گے۔ اس مسئلے کو مسئلہ خرقاء کا نام اس لیے دیا گیا کہ حضرت عثمان نے اجماع کے خلاف فیصلہ کیا خرقاء خلاف کو کہتے ہیں۔ اس کو عثمانیہ بھی کہا جاتا ہے۔

مسئلہ مروانیہ:

ایک عورت چھ بہنیں، دو حقیقی، دو علاقائی دو اخیانی اور شوہر کو چھوڑ کر مری تو شوہر کو $\frac{1}{2}$ دو حقیقیوں کو $\frac{2}{3}$ دو اخیانیوں کو $\frac{1}{3}$ اور علاقائی بہن ساقط ہوں گی۔

اصل مسئلہ چھ سے ہو کر نو تک عمول ہوگا۔ اس طرح $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{4}{6} + \frac{2}{6} = \frac{9}{6}$ ۔ تو شوہر کا حصہ: $\frac{3}{9}$ ، حقیقیوں کا $\frac{4}{9}$ ، اخیانیوں کا حصہ $\frac{2}{9}$ ہے اس مسئلے کو مروانیہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مروان بن حکم کے زمانے میں پیش آیا تھا اور اس کو مشہور ہونے کی وجہ سے غرا (واضح) کے نام سے بھی موسوم کیا گیا ہے۔

مسئلہ دیناریہ:

ورثاء میں بیوی، دادی، دو بیٹیاں، ۱۲ اور ایک حقیقی بہن ترکہ تھا چھ سو دینار۔ تو بیوی کو ملا $\frac{1}{8}$ ، دادی کو $\frac{1}{6}$ ، بیٹوں کو $\frac{2}{3}$ باقی بہن بھائیوں کو اسی طرح: $\frac{1}{8} + \frac{1}{6} + \frac{2}{3} = \frac{3}{24} + \frac{4}{24} + \frac{16}{24} = \frac{23}{24}$ باقی $\frac{1}{24}$ تو $\frac{3 \times 600}{24} = 86$ ۔ بیوی کا حصہ، $\frac{3 \times 600}{24} = 75$ دینار دادی کا حصہ $\frac{16 \times 600}{24} = 400$ دینار بیٹوں کا حصہ، $\frac{1 \times 600}{24} = 25$ ۔ بہن بھائیوں کا حصہ نکلا تو بہن کو ایک دینار اور فی دو بھائی دو دینار ملے۔ ترکہ میں دینار چھوڑنے کی بناء پر اس مسئلے کو دیناریہ کیا جاتا ہے اس کو مسئلہ داؤد یہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ داؤد طائی سے پوچھا گیا اور انہوں نے اس طرح حل کر کے دیا تھا لیکن تقسیم کے بعد بہن نے امام اعظم بوحنیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ چھ سو دینار انہوں نے ترکہ چھوڑا مگر مجھے اس میں

سے صرف ایک دینار بطور میراث دیا گیا۔ امام صاحب نے پوچھا ترکہ تقسیم کس نے کیا؟ اس نے کہا آپ کے شاگرد داؤد طائی نے، امام صاحب نے فرمایا وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا کرتے پھر عورت سے پوچھا کیا تمہارے بھائی نے وراثت میں بیوی چھوڑی ہے؟ کہنے لگی، ہاں فرمایا دو بیٹیاں بھی؟ عورت نے اثبات میں جواب دیا فرمایا: کیا اس نے دادی بھی وارث میں چھوڑی؟ کہنے لگی کہ جی ہاں فرمایا کہ تمہارے ساتھ بارہ بھائی بھی وارث موجود ہیں؟ کہنے لگی کہ اس موجود ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا: تب تو واقعہ تمہارا حصہ اس میں سے ایک دینار ہی ہے۔

المامونیہ:

ورثاء یہ ہیں: ماں، باپ، دو بیٹیاں اور تقسیم میراث سے قبل ایک بیٹی کا انتقال ہوا وراثت میں اوپر مذکور افراد ہی چھوڑے۔

خلیفہ مامون الرشید نے ایک مرتبہ بصرہ کے عہدہ قضاء کیلئے اہلیت کا حامل شخص مقرر کرنا چاہا۔ مشیروں نے یحییٰ بن اکثم کا نام پیش کیا۔ ماموں نے انہیں دیکھا اور ان کو کوئی اہمیت نہیں دی اور ان کو اس عہدہ کیلئے کمزور خیال کیا امتحان کے طور پر ان سے مذکورہ مسئلہ دریافت کیا۔ یحییٰ بن اکثم نے کہا امیر المومنین یہ تو بتا دیجئے کہ میت اول مرد ہے یا عورت؟ یہ سن کر ماموں کو یقین ہو گیا کہ یہ مسائل سے واقف ہے تو ان کو عہدہ قضاء پر فائز کیا اس لیے اس مسئلے کو مسئلہ مامونیہ کہا جاتا ہے۔

مسئلہ مذکورہ میں میت اول کے مرد اور عورت ہونے کے اعتبار سے تقسیم میراث مختلف ہوگی، اگر میت اول مرد ہو تو مسئلہ اولی (میت اول کے وراثت پر تقسیم میراث) چھ سے ہوگا جس میں سے بیٹیوں کو $\frac{2}{3}$ ماں، کو $\frac{1}{2}$ اور باپ کو $\frac{1}{6}$ ملے گا۔

ایک بیٹی انتقال کر جائے اور وراثت میں ایک بہن، جد اور جدہ چھوڑ جائے یعنی دادا اور دادی چھوڑے تو اس کے مال کا $\frac{1}{6}$ دادی کو اور باقی سب دادے کو ملے گا اور بہن محروم ہوگی یہ حضرت ابو بکر کے قول کے مطابق ہے اور حضرت زید بن ثابت کے قول کے بموجب دادی کو $\frac{1}{6}$ اور باقی $\frac{5}{6}$ دادے اور بہن آپس میں سابقہ اصولوں کے مطابق تقسیم کریں گے۔ لیکن اگر میت اول عورت ہو اور اس کے وراثت میں سے ایک بیٹی کا قبل تقسیم میراث انتقال ہو جائے تو اس کے وراثت ہوں گے ایک بہن نانا، اور نانی، تو بہن کو $\frac{1}{2}$ اور نانی کو ذوی الفروض ہونے کی وجہ سے $\frac{1}{6}$ چھ ملے گا اور نانا ذوی الارحام ہونے کی وجہ سے ذوی الفروض کی وجہ سے

محروم ہوگا۔ اور ماقتی ذوی الفروض کو ان کے حصص کے تناسب سے دوبارہ لوٹا دیا جائے گا۔ میت اول کے مذکر ہونے کی صورت میں حضرت ابوبکر کے قول کے مطابق مسئلہ اس طرح ہوگا۔ $2/3 + 12/6$ اصل مسئلہ چھ سے ہوگا اور میت ثانی کو اگر $1/3$ مل گیا اس کو ہم اس کے دادے اور دادی پر تقسیم کریں تو چھ کو چھ کے ساتھ ضرب دیں گے حاصل ضرب چھتیس آئے گا اور یہ چھتیس دونوں مسئلوں کی تصحیح ہوگی جس میں میت اول کی دو بیٹیوں کو $22/36$ ماں باپ کو $12/36$ ملے گا۔

اور متوفاة بیٹی کا حصہ $12/36$ ہے اس میں اس کی دادی کو $12/36$ کا $1/6$ جو ہے ملے گا اور باقی دادا لے گا بہن محروم ہوگی اور دادی کو $12/36$ ، $10/36$ تو دادے کو کل $22/36$ اور میت اول کے عورت ہونے کی صورت میں تقسیم کا طریقہ کار اس طرح ہوگا۔ $2/3 + 2/6$ ۔ یہ مسئلہ اول چھ سے ہوگا اور متوفاة بیٹی کا حصہ $1/3$ موجود ہے تو اس میں سے اس کی نانی کو $1/6$ اور بہن کو $1/2$ یعنی $12/36$ اور باقی $2/36$ جو ان کو دوبارہ بطور رد کے دیئے جائیں گے۔ اور نانا محروم ہوگا تو اس طرح بطور رد کے نانی کو $1/36$ اور بہن کو $2/36$ ملے گا۔ تو جدہ نانی کو کل حاصل شدہ حصے $6/36 + 2/36 + 1/36 = 9/36$ ہوں گے۔

اور بہن کو کل ترکہ سے ملنے والے حصوں کا مجموعہ اس طرح ہوگا۔

$$20/36 = 2/36 + 6/36 + 12/36$$

الحمد لله "الفقه الحنفی والدلتہ" کا پہلا سلیس ترجمہ مع تحقیق

۲۳، جمادی الاولیٰ ۱۴۲۸ھ / ۹ جون ۲۰۰۷ء بروز ہفتہ کو مکمل ہوا۔

ازارکان لجنة المصنفین لاہور

أَشْرَفُ الْأَحْكَامِ

تَتِمُّهُ أَمْدَادُ الْفَتَاوَى

حضرت تھانوی قدس سرہ کی بیسیوں کتب اور سینکڑوں مواعظ و ملفوظات
سے اہم فقہی مسائل کا جامع اور مفید انتخاب

از افادات

حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی قدس سرہ

جمع و ترتیب

جناب حضرت محمد اقبال قریشی صاحب

ادارۃ الامیاتیات
لاہور - کراچی
پاکستان

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

اسلام میں ظہار کے اصول

قرآن و حدیث کی روشنی میں
یعنی

شرعیہ کا مد

تالیف

محمد ابراہیم مہمین مدنی

ادارۃ الامیاء
لاہور - کراچی
پاکستان

کتاب کی حالت کی مثال کتاب پہلی بار اردو اور ہندی
فقہ حنفی
پاکستان کے ساتھ مع حوالہ جاتی کتاب

فقہ حنفی

قرآن و سنت کی روشنی میں

جلد سوم

الفقه الحنفی وادلته

شیخ اسعد محمد سعید الصاغر جی
حفظ اللہ تعالیٰ

اردو ترجمہ ترتیب تحقیق
لجنة المصنفين

جناب مولانا حفص الد محمود صاحب
جناب مفتی عبد العظیم ترمذی صاحب
جناب مولانا محمد سندانس صاحب

ادارہ امیاب
لاہور - کراچی
پاکستان